

الَّذِينَ
فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ

مصباح القرآن
طرسٹ لاہور

الْكُفْرُ
فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

خالی

الكَوْثُرُ
فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

جلد ششم

محمد سعید انصاری



مُصَبِّحُ الْقُرْآنِ ٹرسٹ - لاہور

تفسیر

الفرقان - الشوری - النمل - القصص - العنکبوت - الروم -
لقمان - السجدہ -



نام کتاب: الکوثر فی تفسیر القرآن (جلد ششم)

مفسر: محسن علی نجفی
کمپوزنگ و فارمیٹنگ: خادم حسین

انتظامی امور: علی حیدری

تعداد: ایک ہزار

مطبع: شوکت پریس - لاہور

پیشکش: جامعہ الکوثر - اسلام آباد

ناشر: مصباح القرآن ٹرسٹ - لاہور

فون: 0321 448 1214

ای میل: info@misbahulqurantrust.com

ویب: www.misbahulqurantrust.com

اس کتاب میں نقل شدہ اکثر روایات کے متن اور حوالوں کی اصلاح و تطبیق، کتب احادیث پر مبنی سافٹ ویئر ”جامع الاحادیث“ تیار کردہ کمپیوٹر ریسرچ سینٹر آف اسلامک سائنسز اور **المصباح** سے کی گئی ہے۔

نہج البلاغہ کے اکثر اقتباسات کا ترجمہ نہج البلاغہ ترجمہ مفتی جعفر حسینؒ مطبوعہ امامیہ کتب خانہ لاہور سے نقل کیا گیا ہے۔

تشریح کلمات مفردات القرآن راغب اصفہانی، ترجمہ مولانا محمد عبدہ فیروز پوری سے ماخوذ ہے۔

ملنے کا پتہ: محمد علی بک ایجنسی - کراچی کمپنی - اسلام آباد

معراج کمپنی - غزنی سٹریٹ - اردو بازار - لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

قارئین کرام!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ! مصباح القرآن ٹرسٹ عہد حاضر کی بعض عظیم ترین تفاسیر و تالیفات کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ایک عظیم اور ہر وقت مرکز کی حیثیت سے امت مسلمہ کے لیے اپنی عاجزانہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادارہ ہذا کی یہ شہرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔ خالق کائنات نے ”انسان“ کو روح و بدن سے مرکب، عقل سلیم اور قوت گویائی کی نعمت سے مالا مال فرما کر موجودات عالم میں منفرد و ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ جس طرح بدن کو اپنے ہی اعضا کی تقویت و ارتقا کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح روح کی بلندی اور تازگی کے لیے زہد و تقویٰ سے ملبوس ہو کر علمی تفکر کے میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ روحانی تسکین اور معرفت کی بلندیوں سے فیض یاب ہونے کے لیے آیات قرآن پر غور و فکر کرنا، اس کے رموز و حقائق کو سمجھنا اور فرمودات الہی پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنا آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔

بلاشبہ قرآن مجید دین اسلام کا حقیقی آئین و دستور ہے۔ دنیا کے ہر طبقہ اور ہر نسل کو اپنی استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول روایت میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا: کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کو جس قدر بیان اور نشر کیا جاتا ہے اسی قدر اس میں مزید تازگی آ جاتی ہے؟ جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نہ ایک زمانے کے ساتھ مخصوص فرمایا، نہ کچھ لوگوں کے ساتھ بلکہ یہ ہر دور میں جدت اور ہر قوم کے لیے قیامت تک تازگی رکھتا ہے۔“

کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے ہر شخص کے لیے قرآنی آیات کے مفہوم اور تفاسیر کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر علمائے اسلام نے عربی، فارسی، انگریزی اور دیگر کئی زبانوں میں قرآن مجید کی بہت سی تفاسیر اور تراجم مرتب فرمائے ہیں۔ اس سلسلے میں برصغیر پاک و ہند کے اہل تشیع و اہل

سنت علماء نے بھی اردو زبان میں قرآن کریم کے متعدد تراجم و تفاسیر پیش کیے ہیں۔ پاکستان میں اردو زبان میں طبع شدہ اکثر تراجم و تفاسیر لکھنؤ (انڈیا) کے مترجمین و مفسرین کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ لکھنؤ کی اردو پاکستان کی موجودہ اردو سے ذرا مختلف ہے۔

دنیا کا ہر شخص دوسری زبانوں کے علاوہ اپنی قومی زبان بلکہ اپنے خطے کی زبان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے لہذا خطے کی موجودہ اردو زبان کے پیش نظر اور قرآنی تصریحات کے بارے میں نئی نسل کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات اور جدید معاندانہ تحریروں اور الزام تراشیوں کے مقابلے میں مکتب اہل بیت علیہم السلام کا موقف بیان کرنے کے لیے ۱۰ جلدوں پر مشتمل زیر نظر تفسیر قرآن ”الکوثر فی تفسیر القرآن“ کی جلد ششم قارئین کرام کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تفسیری مجموعہ حجۃ الاسلام والمسلمین الشیخ محسن علی نجفی مدظلہ العالی کی غیر معمولی مساعی اور شبانہ روز محنت کا ثمر ہے۔ خداوند عالم اُن کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور انہیں طاقت و صحت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔

اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ قبلہ موصوف کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ادارہ ہذا کو یہ تفسیری مجموعہ پرنٹ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

مزید برآں آپ ہماری کتب مصباح القرآن ٹرسٹ کی ویب سائٹ:

www.misbahulqurantrust.com

کے ذریعے گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔

ہمیں اُمید ہے کہ صاحبان علم و تحقیق حسب سابق مصباح القرآن ٹرسٹ کی اس کوشش کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے۔ اس گوہر نایاب سے بھرپور علمی و عملی استفادہ فرمائیں گے اور ادارے کو اپنی قیمتی تجاویز و آراء سے ضرور مستفید فرمائیں گے۔

والسلام

اراکین

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور۔

پاکستان



سُورَةُ الْفُرْقَانِ



خالی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان مذکور ہونے نیز سورہ کی مباحث کے مضامین کی مناسبت سے اس سورہ کا نام الفرقان ہے۔
 زمان نزول: بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ جب نازل ہو رہی تھی اسلام کو کچھ کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں جن کی وجہ سے مشرکین کا رد عمل پہلے سے شدید تر ہو گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی زندگی کے اواسط میں یہ سورۃ نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر ۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تدوین مکی زندگی میں شروع ہو گئی تھی بلکہ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ تدوین بھی ہوتی رہی ہے:

وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا
 فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝
 اور کہتے ہیں: (یہ قرآن) پرانے لوگوں کی داستائیں
 ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں اور جو صبح و شام
 اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔

بقول مشرکین صبح و شام جو سنائی جاتی ہیں۔ اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں: ایک تو یہ کہ قرآن کی تدوین ابتدائے وحی سے شروع ہو گئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت یہ سورۃ نازل ہو رہی تھی قرآن کا ایک قابل توجہ حصہ نازل ہو چکا تھا جسے مشرکین نے محسوس کیا کہ صبح و شام سنایا جاتا ہے۔

یہ سورۃ بالاتفاق ۷۷ آیات پر مشتمل ہے۔ طبری کے مطابق آیات کی یہ تعداد اجماعی

ہے۔



خالی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى
عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيرًا ①

بِسْمِ خدائے رحمن رحیم
۱۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر
فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہاں والوں
کے لیے انتباہ کرنے والا ہو۔

تشریح کلمات

تَبْرَكَ : (ب ر ك) کے معنی خیر کثیر کے ثبوت و لزوم کے ہیں یہ غالباً صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور اس خیر کثیر میں سے ایک فرقان کا نازل کرنا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ : بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔
قرآن ایک ایسا دستور حیات ہے جو حق اور باطل کو نمایاں کر کے جدا کر دیتا ہے۔ وہ ذات کتنی بابرکت ہوگی جس نے بنی نوع انسان کے لیے قرآن جیسی کتاب ہدایت عنایت فرمائی ہے۔

۲۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا : عالمین میں صرف مکلفین شامل ہیں چونکہ غیر مکلف کی تنبیہ نہیں ہوتی۔ مکلفین میں انسان اور جن دونوں شامل ہیں۔ نَذِيرًا صرف تنبیہ کا ذکر آیا بشیراً کا ذکر نہیں آیا چونکہ مشرکین، منکرین اور معاندین اس سورہ کے مخاطب ہیں۔

اس آیت میں مستشرقین کے اس الزام کی رد ہے کہ محمدؐ شروع میں صرف مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کی طرف مبعوث ہونے کے مدعی تھے۔ بعد میں محمدؐ نے اپنی دعوت کو وسعت دی۔ حالانکہ مکہ میں نازل ہونے والی اس سورت میں اعلان ہے: یہ رسول سارے جہانوں کی تنبیہ کے لیے آیا ہے۔

اہم نکات

۱۔ تنبیہ میں بشارت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے:
مَنْ حَذَرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ۔^۱
جو (برائیوں سے) خوف دلائے وہ تمہارے لیے
مژدہ سنانے والے کی مانند ہے۔

الَّذِي لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝۱

۲۔ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی
ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کی
بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے اور جس نے
ہر چیز کو خلق فرمایا پھر ہر ایک کو اپنے اندازے
میں مقدر فرمایا۔

تفسیر آیات

۱۔ الَّذِي لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا: اس جملے کی تشریح سورہ بقرہ
آیت ۱۱۶، یونس آیت ۶۸ میں ہو گئی ہے کہ زمین و آسمانوں کی سلطنت صرف اللہ کے پاس ہے۔
۲۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ: اللہ کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے جب کہ مشرکین
تدبیر و سلطنت میں دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے تھے کہ خلق تو خدا نے کیا ہے لیکن خلق کے بعد تدبیر کے
اختیارات غیر اللہ کے پاس ہیں۔
۳۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا: ہر چیز کو خلق فرمانے کے بعد اس کی بقا و ارتقا کا پیمانہ متعین
فرمایا نیز اس کی تخلیق کے وقت ہی اس کی بقا و ارتقا کے لیے ضروری ہدایات بھی اس میں ودیعت فرمائیں۔ ہر
ایک کے لیے بقا و ارتقا کے علل و اسباب کا تعین فرمایا اور فزیکلی قوانین وضع فرمائے جسے تقدیر کہتے ہیں۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يَخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ
لَا نَفَعًا وَلَا يَمْلِكُونَ
مَوْتًا وَلَا

۳۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے
جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں
اور وہ اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار
نہیں رکھتے اور وہ نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں

حَيَوَةٌ وَلَا تُشَوَّرًا ①

اور نہ حیات کا اور نہ ہی اٹھائے جانے کا۔

تفسیر آیات

سابقہ آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا چونکہ خلق اور تقدیر دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس آیت میں فرمایا: جن چیزوں کو ان مشرکین نے معبود بنا رکھا ہے ان میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں: نہ خلق، نہ تقدیر۔

قرآنی آیات کی روشنی میں ہم نے عبادت کی یہ تعریف اختیار کی ہے کہ کسی کو خالق اور رب سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی یہی تعظیم نکل آتی ہے کہ ان مشرکین نے ایسی چیز کو معبود بنایا جو لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا کسی شے کی خالق نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ رُبُوبِيَّةَ کے مقام پر بھی فائز نہیں ہے چونکہ رب وہ مالک ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں نفع و ضرر، موت و حیات ہوتی ہے۔ اس آیت میں معبود کے لیے تین باتوں کا ہونا لازمی قرار دیا ہے:

i- خالق ہونا چاہیے۔

ii- مالک ہونا چاہیے۔

iii- موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا
إِفْتِرَاءٌ عَلَيْهِ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ
قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا
وَّزُورًا ②

۴- اور کفار کہتے ہیں: یہ قرآن ایک خود ساختہ
چیز ہے جسے اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے اور
دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی
ہے، (ایسی باتیں کر کے) یہ لوگ ظلم اور جھوٹ
کے مرتکب ہوئے ہیں۔

تفسیر آیات

۱- الَّذِينَ كَفَرُوا: سے مراد مشرکین مکہ ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن خود ساختہ ہے۔ اِفْتِرَاءٌ جس کے گھڑنے میں خود نے بھی کوشش کی ہے۔

۲- وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ: دوسرے لوگوں نے بھی اس میں اس کی مدد کی ہے۔

کہتے ہیں: دوسرے لوگوں سے مراد چند آزاد شدہ غلام ہیں جو اہل کتاب تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ روایات میں ان کے نام بھی لیے گئے ہیں: عداس، خویطب بن عبد العزی کا آزاد کردہ غلام۔ یسار، علاء بن الحضرمی کا آزاد کردہ غلام اور جبر، عامر بن ربیعہ کا آزاد کردہ غلام۔ الزام

یہ لگایا کہ محمد قدیم قوموں کی داستانیں ان آزاد شدہ غلاموں سے اخذ کرتے ہیں پھر ہمیں وحی کے نام سے سناتے ہیں۔

اس کے جواب میں قرآن نے یہ کہنے پر اکتفا کیا: یہ الزام لگانے والے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں چونکہ وہ اپنے اس الزام کی کوئی سند نہیں رکھتے۔

i۔ جب یہ لوگ رسول ﷺ کے محضر میں بیٹھتے تھے، سب کو علم تھا کہ رسول ان سے سنتے ہیں یا یہ لوگ رسول ﷺ سے سنتے ہیں۔ کسی نے یہ دعویٰ تک نہیں کیا کہ ہم نے رسول ﷺ کو ان سے سنتے ہوئے دیکھا ہے یا رسول کے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا ہے۔

ii۔ اگر ان آزاد شدہ غلاموں سے مواد جمع کر کے ایسا کلام ترتیب دیا جاسکتا ہے تو یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ کے لیے زیادہ آسان تھا چونکہ اہل کتاب بھی اس کام میں ان کی مدد کے لیے آمادہ تھے۔ وہ ان غلاموں سے زیادہ پڑھے لکھے، اہل کتاب کے احبار اور ماہرین سے مدد لے سکتے تھے۔

iii۔ یہ آزاد شدہ غلام اہل کتاب کے علماء میں سے نہیں تھے۔ عام اہل کتاب رہ چکے تھے۔ ان کے مبلغ علم کا سب کو اندازہ تھا کہ کیا وہ ایسے علمی مواد فراہم کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی علمی صلاحیت اور قرآن کی سطح کلام میں کوئی تناسب ہے؟

iv۔ کیا یہ بات ممکن ہے کہ یہ آزاد شدہ غلام، ناقابل تخیل ظلم و ستم برداشت کر کے کسی دوسرے کی جھوٹی نبوت چمکا دیں۔

اسی طرح اس الزام کے جھوٹ ہونے کے کئی شواہد خود اس الزام میں موجود تھے۔ اس لیے اس کی رد میں صرف ظلم اور جھوٹ کہنے پر اکتفا کیا۔

اہم نکات

۱۔ کبھی جھوٹے الزام میں اس کے جھوٹ ہونے کے شواہد، خود الزام میں موجود ہوتے ہیں۔

وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
اِكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا ۝

۵۔ اور کہتے ہیں: (یہ قرآن) پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں اور جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ: کہتے ہیں کہ یہ قرآن سابقہ امتوں کی داستانیں ہیں۔ اس الزام



سے ایسا لگتا ہے کہ قرآن صرف ماضی کی امتوں کی داستانوں سے عبارت ایک داستانی کتاب ہے حالانکہ ماضی کی امتوں کے واقعات قرآنی مطالب کا ایک حصہ ہیں۔

شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ گزشتہ تکذیبی قوموں کے واقعات ان کی عبرت ناک ہلاکت پر مشتمل تھے جن سے یہ لوگ خوف زدہ تھے۔ اس خوف کو دلوں سے نکالنے کے لیے خاص کر ان واقعات کو ہدف بناتے تھے۔

۲۔ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ: ان داستانوں کو محمد ﷺ نے لکھوایا ہے۔ اس بات میں اس بات کا ثبوت چھوڑ گئے۔ قرآن کی زندگی میں بھی ضبط تحریر میں لایا جاتا تھا اور اس کی تدوین کا انتظام شروع سے کیا جا رہا تھا۔ اس میں ان لوگوں کی رد ہے جو کہتے ہیں قرآن عہد نبوت میں مدون نہ تھا۔

اکتب، امر بہ کتابت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے احجم، امر بہ حجامت اور افنصد امر بہ فصد میں ہے۔

۳۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ: اس جگہ املاء سے مراد لکھنے کے بعد پڑھ کر سنانا ہے، لکھانا نہیں ہے۔

اہم نکات

۱۔ لکھانا، پڑھ کر سنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا (بہ اعتراف مخالف)۔

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ①

۶۔ کہہ دیجیے: اسے تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا راز جانتا ہے، بے شک وہ بڑا غفور رحیم ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ کہہ دیجیے: اس کتاب کا مضمون خود یہ گواہی دیتا ہے کہ اسے ایسی ذات نے نازل فرمایا ہے جو کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہے۔ چند عام آدمیوں کی کمک سے ایسے مضامین تیار نہیں ہو سکتے۔

۲۔ اس افترا پر اللہ عذاب نازل کرنے میں عجلت سے کام نہیں لیتا ہے وہ غفور و رحیم ہے۔

اہم نکات

۱۔ آسمانوں اور زمین کے اسرار قرآن میں تلاش کرنے چاہئیں۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَا كُلُّ الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ①

۷۔ اور وہ کہتے ہیں: یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اس

لَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝
 أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝
 أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تاکہ اس کے ساتھ تنبیہ کر دیا کرے۔
 ۸۔ یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتا اور ظالم لوگ (اہل ایمان سے) کہتے ہیں: تم تو ایک سحرزدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔
 ۹۔ دیکھیے! یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی باتیں بنا رہے ہیں، پس یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے راہ پانا ممکن نہیں ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ: مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ بشر، اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ مادی وجود، اللہ کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے وہ فرشتوں کو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ سمجھتے، ان کی پرستش کرتے اور ان کے نزدیک کھانا اور لوگوں کے درمیان چلنا پھرنا رسالت کے منافی تھا۔

۲۔ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا: اگر کوئی، بشر رسول بن سکتا ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو اور اس کے ذریعے غیب کے ساتھ رابطہ قائم ہو۔ پھر یہ بشر اور فرشتہ دونوں مل کر نذیر بن جائیں: فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا۔

۳۔ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ: دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اس رسول پر کوئی خزانہ اتار دیتا۔ ایک فقیر، نادار جو اپنے نان جوئیں کا محتاج ہو، اللہ کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟

۴۔ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ: یا اس کے پاس ایسا باغ ہوتا جس سے وہ اپنی معیشت مستحکم کرتا۔

۵۔ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا: یہ مشرکین، یہ ظالم لوگ کہتے ہیں: اس شخص کے ساتھ نہ فرشتہ ہے، نہ اس کے پاس خزانہ ہے، نہ کھانے کے لیے باغ ہے لہذا یہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے۔ مسلمانو! تم ایک سحرزدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔

جب مشرکین یہ الزام لگاتے ہیں: وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اس قرآن کو گھڑنے میں دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسول نہایت عاقل سمجھدار ہے۔ دوسروں سے سیکھ کر پرکشش باتیں بناتا ہے۔

جب کہتے ہیں: رَجُلًا مَسْحُورًا یہ سحرزدہ آدمی ہے تو کسی سے کچھ سیکھنے کے قابل نہیں ہے چونکہ سحرزدہ انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ اس طرح ان مشرکین کے الزامات میں تضاد اور تصادم ہے۔ سچ ہے، جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔

۶۔ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ: یہ آپ کے بارے میں متضاد اور مختلف باتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود آپ کے خلاف ایک الزام پر بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ متضاد باتیں کر کے نہ صرف انہیں حق کا راستہ نہیں ملتا بلکہ باطل پر چلنے کے راستے میں بھی تضاد کا شکار ہیں: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيْلًا۔

تَبْرَكَ الَّذِي اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَمِيْعًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوْرًا ۝۱۰

۱۰۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور آپ کے لیے بڑے بڑے محل بنا دے۔

تفسیر آیات

۱۔ تَبْرَكَ الَّذِي اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا: اگر اللہ کی مشیت اور حکمت کا تقاضا اس میں ہوتا تو دنیا میں بھی آپ کے لیے ان چیزوں سے بہتر نعمتوں کی فراوانی کر دیتا جن کا تصور یہ لوگ کر رہے ہیں مگر اللہ اپنے رسول کو کردار و سیرت کے لیے اسوہ بناتا ہے اور نہ صرف ناز و نعمت میں نہیں رکھتا بلکہ ہر قسم کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا اور ہلا کر کے رکھ دیتا ہے:

وَرُوْنُ لَوْ اَحْتَىٰ يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ اللّٰهِ... ۱

اور وہ اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ (وقت کا) رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟

یہاں تک کہ رسول اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والے کہہ اٹھتے ہیں: اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ یہ آزمائش اس حد تک کٹھن ہوتی ہے کہ ناامیدی کی سرحد تک پہنچنے والے ہوتے ہیں:

حَتّٰى اِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنْهُمْ قَدْ كَذَّبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنَّا... ۲

یہاں تک کہ جب انبیاء (لوگوں سے) مایوس ہو گئے اور لوگ بھی یہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو پیغمبروں کے لیے ہماری نصرت پہنچ گئی۔

اسی لیے اس الہی منصب کا ہر کوئی اہل نہیں ہوتا۔

اہم نکات

۱۔ الہی منصب ناز و نعمت میں نہیں، کڑی آزمائشوں میں رکھا گیا ہے۔

- ۱۱۔ بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ) انہوں نے قیامت کو جھٹلایا اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔
- ۱۲۔ جب وہ (جہنم) دور سے انہیں دیکھے گی تو یہ لوگ غضب سے اس کا پھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔
- ۱۳۔ اور جب انہیں جکڑ کر جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے۔
- ۱۴۔ (تو ان سے کہا جائے گا) آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔
- بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝۱۱
إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَخِيضًا وَزَفِيرًا ۝۱۲
وَإِذَا أَلْقَاوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مَّقَرَّرِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝۱۳
لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝۱۴

تشریح کلمات

- زَفِيرًا: (ز ف ر) الزفير کے اصل معنی سانس کے اس قدر تیزی سے آمد و رفت کے ہیں کہ اس سے سینہ پھول جائے۔
- مَقَرَّرِينَ: (ق ر ن) قرنت البعير مع البعير۔ دو اونٹوں کو ایک رسی کے ساتھ باندھا جانا۔
- ثُبُورًا: (ث ب ر) الثبور ہلاک ہونے کے معنوں میں ہے۔

تفسیر آیات

- ۱۔ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ: انکار نبوت کا اصل محرک وہ باتیں نہیں جن کا ان لوگوں نے ذکر کیا ہے بلکہ اس انکار کا اصل محرک انکار معاد ہے۔ وہ قیامت کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ مجرم اپنے جرم پر کسی عدالت و محاسبہ کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ جب ان کے نزدیک یوم حساب نہیں ہے، عذاب و ثواب نہیں ہے، جنت و نار نہیں ہے تو قانون، شریعت اور رسالت بے معنی ہو جاتی ہے۔
- ۲۔ إِذَا رَأَتْهُمْ: جب جہنم ان مجرموں کو دیکھ لے گی تو غیض و غضب میں آئے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح بے شعور نہیں بلکہ مجرموں کو شعور و آگہی کے ساتھ قصداً جلا

دے گی جیسا کہ جب جہنم سے خطاب ہوا: هَلِ امْتَلَأَتْ كَمَا تُوْبَهْرُغِي تُوْاس نِي جُوَاب مِيں كَمَا: هَلْ صُنْ مَزِيدٍ ۱

۳۔ وَإِذَا اتَّقُوا مِنْهَا: جب یہ مجرم لوگ زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی تنگ جگہ پر ڈال دیے جائیں گے تو وہ موت کو پکاریں گے۔ جہنم کے عذاب میں سے ایک عذاب تنگی ہے جیسا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت وسعت ہے۔

۴۔ لَا تَدْعُوا: ان سے کہا جائے گا ایک موت کو نہیں بلکہ بے شمارا موت کو پکارو۔ ہر آن موت اور مسلسل موت کی سی شدت میں رہیں گے اور جہنم میں پیش آنے والی موت کے بعد خلاصی نہ ہوگی بلکہ ہر وقت موت جیسا عذاب ہوگا۔ چنانچہ:

كَلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ
جَب بِي ان كِي كَهَالِيں كَل جَانِيں كِي (ان كِي كَجَه)
جُلُودًا غَيْرَهَا... ۲
ہم دوسری كَهَالِيں پيدا كَرِيں كِي۔

سے واضح ہے۔

اہم نکات

- ۱۔ جہنم قصد و ارادے سے بحکم خدا عذاب دے گی۔
- ۲۔ ہر مصیبت سے موت کے بعد آزادی ملتی ہے سوائے جہنم کے۔ یہاں ہر وقت موت ہے۔

قُلْ أَذَلِكْ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ ۱۵۔ كَهْد يَتِيحِي: كِيَا يَه مَصِيْبَت بَهْتَر هِي يَا دَائِمِي جَنَّت
الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۱۶ كَانَتْ لَهُمْ
جَس كَا اَهْل تَقْوِي سِي وَعَدَه كِيَا كِيَا هِي، جُوَان
كِي لِيَه جَزَا اور كَهْكَانَا هِي۔
جَزَاءٌ وَ مَصِيْرًا ۱۷

تفسیر آیات

- ۱۔ قُلْ أَذَلِكْ خَيْرٌ: كَهْد يَتِيحِي يَه جَهْنَم بَهْتَر هِي يَا دَائِمِي جَنَّت؟ يَه سُوَال مَنكِر كِي ضَمِيْر اور وَجْدَان سِي هِي كِه اَكْر چَر تُو جَهْنَم وَ جَنَّت كَا مَنكِر هِي تَا هَم يَه اَنكَار خُوْد تِيْرِي حَق مِيں نَهِيں هِي۔ تُو خُوْد سُوْج، اَكْر جَنَّت وَ نَار بِرَحَقْ ثَابِت هُوِي تُو تِيْرِي لِيَه كُوْن سِي چِيْز بَهْتَر هِي جَنَّت يَا نَار؟
- ۲۔ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ: وَه دَائِمِي جَنَّت جَس كَا اَهْل تَقْوِي سِي وَعَدَه كِيَا كِيَا هِي۔ زَنْدَكِي كِي رَاسْتِي پَر سُوْءِي مَنزَل جَاتِي هُوْءِي جُو لُوْكَ اِنِّيْ اَپ كُو خَطْرَات سِي بَجَاتِي هِيں: الْمُتَّقُونَ، وَهِي مَنزَل پَر فَائِز هُوْتِي هِيں۔

۳۔ کَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَصِيْرًا: ثواب اور مکانِ ثواب، دونوں کا ذکر ہے چونکہ صرف ثواب اور نعمت کافی نہیں ہوتی جب تک مکانِ کشادہ، پرکشش، پر فضا نہ ہو۔

۱۶۔ وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے موجود ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لازمی وعدہ آپ کے پروردگار کے ذمے ہے۔

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۝
كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ۝

تفسیر آیات

۱۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ: وہاں ان بچاؤ کرنے والوں، الْمُتَّقُونَ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ لہذا جنت کی تمام خواہشات خوشنودی رب کے تابع ہوں گی۔ وہی چاہیں گے جو اللہ چاہتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جنت میں جنتی کا ارادہ نافذ ہوگا۔ کسی چیز کے چاہنے سے وہ چیز مل جائے گی۔ دنیا میں کسی چیز کے ملنے کے لیے علل و اسباب کا ایک سلسلہ عبور کرنا پڑتا ہے۔ جنت میں ایسا نہ ہوگا۔

۲۔ خَالِدِينَ: جنت کی حیات دائمی ہے جس میں رہنے والے کی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔

۳۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا: وعدہ جنت کو پورا کرنا اللہ پر واجب ہے۔ کسی نے اللہ پر واجب نہیں کیا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر لازم قرار دیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ... ۝ تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے اللہ نے خود لازم قرار دیا ہے کیونکہ وعدہ خلائی قبیح ہے اور اللہ سے قبیح عمل صادر نہیں ہو سکتا۔

اہم نکات

- ۱۔ جنت کی خواہشات رضائے رب کے مطابق ہوں گی۔
- ۲۔ اللہ وعدہ خلائی نہیں کرتا۔

۱۷۔ اور اس دن اللہ، ان لوگوں کو اور اللہ کو چھوڑ
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يُعْبَدُونَ
مَنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ

۱۷۔ اور اس دن اللہ، ان لوگوں کو اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے ان

أَصَلَّيْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ
صَلُّوا السَّبِيلَ ⑮

کو (بھی) جمع کرے گا اور پھر فرمائے گا: کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے؟

تفسیر آیات

۱۔ وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ: قیامت کے دن اللہ ان کافروں کو ان کے معبودوں کے ساتھ جمع کرے گا پھر معبودوں سے سوال ہوگا: کیا میرے بندوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے کر تم نے گمراہ کیا ہے یا خود گمراہ ہوئے؟ واضح رہے مشرکین کے اصل مذہب میں بت خود معبود نہیں تھے بلکہ ان کے معبودوں کے شبیہ تھے۔ بعد میں مذہب شرک میں بھی انحراف آیا اور خود بتوں کو معبود سمجھنے لگے۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُنْبَغِي
لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ
اَوْلِيَاءَ وَ لَكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ
وَ اَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَ
كَانُوا قَوْمًا بُورًا ⑮

۱۸۔ وہ کہیں گے: پاک ہے تیری ذات ہمیں تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بنائیں لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو نعمتیں عطا فرمائیں یہاں تک کہ یہ لوگ (تیری) یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاکت میں پڑنے والے لوگ تھے۔

تفسیر آیات

۱۔ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ: سوال غیر اللہ کے معبود بننے سے متعلق تھا۔ جواب غیر اللہ کو ولایت کا حق دینے کے بارے میں آیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کے قبضے میں اس کی ولایت ہوتی ہے۔ یعنی خود سے زیادہ اسے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔

۲۔ وَلَكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ: جواب میں کہا: ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا بلکہ خواہش پرستی نے ان کو حقیقی معبود سے دور کیا۔ کہا: اے اللہ! تو نے انہیں نعمتیں دیں، یہ سرکش ہو گئے۔ واضح رہے اللہ ایسے لوگوں کو نعمتیں دے کر ڈھیل دیتا ہے جو قابل ہدایت نہیں ہوتے۔ سرکش لوگوں کے لیے یہ ڈھیل بڑا عذاب ہے۔

اہم نکات

۱۔ سرکشی کے باوجود نعمتوں کا دُور عذاب الہی ہے۔

فَقَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ بِمَا تَقُولُونَ ۗ
فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا
نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ
نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

۱۹۔ پس انہوں (تمہارے معبودوں) نے تمہاری باتوں کو جھٹلایا لہذا آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھا دیں گے۔

تفسیر آیات

۱۔ فَقَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ: تمہارے معبودوں نے تمہاری تکذیب کی ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں دعوت نہیں دی۔ جس ذات سے آج تمہیں مدد مل سکتی تھی اور عذاب کو جو ٹالا جاسکتا تھا اس کی تم نے عبادت نہیں کی اور جن کی تم نے عبادت کی ہے وہ آج تم سے بیزار ہیں۔ لہذا عذاب کا مزہ چکھنے کے علاوہ تمہارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔

اہم نکات

۱۔ ہادیان برحق کی اسی لیے ضرورت ہے کہ وہ غیر اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنے سے باز رکھتے ہیں اور صرف اللہ سے مربوط رکھتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الظَّعَامَ وَيَمْشُونَ
فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ
لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ أَنْ تَضِيرُوا ۗ وَكَانَ
رَبُّكَ بِصِيرٍ ۗ ﴿٢٠﴾

۲۰۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا پروردگار تو خوب دیکھنے والا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ: منکرین کا جو اعتراض تھا: یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے ہیں، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اے رسول! آپ پہلے رسول نہیں ہیں جو کھاتے اور پھرتے ہوں:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِّنَ الرُّسُلِ... ۗ

کہہ دیجیے: میں رسولوں میں انوکھا (رسول) نہیں ہوں۔

اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ بعض انبیاء کو تسلیم کرتے تھے، جیسے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم السلام ہیں۔ مشرکین ان انبیاء ﷺ کو تسلیم کرنے کے باوجود معاد پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے یہ جواب دیا گیا کہ صرف محمد ﷺ کے لیے یہ اعتراض کیوں اٹھاتے ہو۔

۲- وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً: ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔

رسول ﷺ اور مؤمنین کے لیے کفار آزمائش ہیں کہ وہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ ان مظالم کے وجہ سے کھرے اور کھوٹے الگ ہو جاتے ہیں۔

کفار کے لیے رسول اور مؤمنین آزمائش ہیں کہ ان کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ طاقت و اقتدار ہے۔ غریبوں کی ایک ناقابل توجہ جماعت اس رسول کے گرد جمع ہے جن کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ کیا مالک ارض و سماء کی طرف سے یہ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں؟ اگر یہ رسول، اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ کی طرف سے کوئی خزانہ کیوں نہیں ملتا؟

یہ نادان لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اگر رسول کے پاس خزانے ہوتے تو سب سے پہلے مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ اس دین کا وارث بن جاتا۔

۳- أَتَصْبِرُونَ: کیا تم صبر کرو گے؟ یہ سوال مؤمنوں سے ہے کہ کیا تم اس آزمائش پر صبر کرو گے؟ چونکہ کافروں نے تو اس آزمائش میں ناکام ہونا ہے۔ کامیابی کا امکان صرف مؤمنوں کی طرف ہے لہذا صبر کی توقع بھی صرف انہی سے ہے۔

اہم نکات

۱- دین کی بنیاد کڑی سی کڑی آزمائشوں میں ہے، آسائشوں میں نہیں۔

۲۱- اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں: ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ یہ لوگ اپنے خیال میں خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور بڑی حد تک سرکش ہو گئے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْعَتُوا كِبِيرًا ﴿۲۱﴾

تفسیر آیات

۱- وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا: مشرکین معاد اور اللہ کے سامنے حساب دینے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی زندگی قیامت، ثواب و عقاب کی بنیاد پر نہیں گزارتے تھے۔ وہ اگر کسی کو معبود بناتے تھے تو اس

سے اپنی دنیوی حوائج کی توقع رکھتے تھے۔ انکار معاد کی بنیاد پر وہ انکار رسالت کرتے تھے۔

۲۔ لَوْلَا أَنْزَلَ: ان کا ایک اعتراض یہ تھا: اگر ایک بشر رسول بن سکتا ہے، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہم بھی بشر ہیں، ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے یا فرشتے ہم پر نازل ہو کر کیوں نہیں کہتے: مُحَمَّدٌ مِّنْ رَبِّكَ يُرْسِلُ بِرَحْمَةِ رَبِّكَ عَلَيْكُمْ؟

۳۔ أَوْ نَرَى رَبَّنَا: یا ہم اپنے رب اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے کہ ہم سے بھی بالمشافہ بات کرے یا بتادے مُحَمَّدٌ مِّنْ رَبِّكَ يُرْسِلُ بِرَحْمَةِ رَبِّكَ عَلَيْكُمْ؟

۴۔ لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا: ان بے حیثیت لوگوں نے اس قدر تکبر کیا کہ اپنے آپ کو فرشتوں کے نزول کا اہل سمجھنے لگے۔

۵۔ وَعَتَوْعْتُوْا كِبِيْرًا: اور یہ کہہ کر ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، بڑی سرکشی کی ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ خیال کہ وہ انسان کے حاسہ بصر کے احاطے میں آسکتا ہے، شان الہی میں بڑی گستاخی ہے۔

اہم نکات

۱۔ قیامت کا تصور راسخ نہ ہو تو سرکشی آجاتی ہے۔

۲۲۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے مسرت کا دن نہ ہو گا اور وہ (فرشتے) کہیں گے: (تمہارے لیے مسرت) حرام ممنوع ہے۔

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ لِيَوْمٍ ذَٰلِكَ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾

تفسیر آیات

۱۔ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ: وہ دنیا میں فرشتوں کے نزول کی توقع رکھتے ہیں۔ البتہ ان کا فرشتوں سے واسطہ پڑنے والا ہے ان کی قبض روح یا جہنم کی طرف ہانکنے کے لیے۔ جب یہ مشرکین فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کو کوئی مسرت نہ ہوگی۔

۲۔ وَيَقُولُونَ: فرشتے ان مجرموں سے کہہ رہے ہوں گے۔ تمہارے لیے آج ہر قسم کی مسرت حرام ممنوع ہوگی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ يَقُولُونَ کا تعلق مجرموں سے ہے کہ خود مجرمین کہیں گے: ہمارے لیے مسرت حرام ممنوع ہے۔ یہاں فرشتوں سے واسطہ پڑنے کا ذکر ہے لیکن اللہ کے قیامت کے دن نظر آنے کا ذکر نہیں ہے چونکہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کفار کی طرف سے دو باتیں اٹھائی گئیں: ایک یہ کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے؟ اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا کہ ان کو فرشتوں سے واسطہ پڑنے والا ہے۔

دوسری بات کفار نے یہ کی کہ ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ اس کے جواب میں مثلاً یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کو دیکھنے کا وقت آئے گا تو کافر لوگ اللہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے بلکہ جواب میں فرمایا: عَتَوْعَتُوا كِبْرًا اللہ کو دیکھنے کی توقع رکھ کر ان لوگوں نے بڑی گستاخی کی ہے۔

۳- حَجْرًا مَّحْجُورًا: الحجر ممنوع کو کہتے ہیں:

وَقَالُوا هَذِهِ أَعْنَابٌ وَحَرَّتْ حِجْرٌ... لے اور یہ کہتے ہیں: یہ جانور اور ہیبتی ممنوع ہیں۔

عربوں میں یہ جملہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب حرمت کے مہینوں میں کسی کی طرف سے حملے کا خطرہ لاحق ہو جائے تو وہ الامان کی جگہ حَجْرًا مَّحْجُورًا کہتے ہیں۔ ان مہینوں میں قتال حرام ممنوع ہے۔

اہم نکات

۱- مجرمین پر فرشتے نازل ہوں گے مگر عذاب لے کر۔

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴿۲۳﴾
۲۳- پھر ہم ان کے کیے ہوئے عمل کی طرف توجہ
کریں گے اور ان کے کیے ہوئے عمل کو اڑنی
ہوئی خاک بنا دیں گے۔

تفسیر آیات

۱- وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا: مشرک ایک مجرم ہے۔ اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ عمل کرنے والا مجرم ہے تو اس کے عمل میں کوئی خوبی نہیں آتی۔ جس شخص میں ایمان نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں تو اس کے عمل میں بھی کوئی خوبی نہ ہوگی۔

۲- هَبَاءً مَّنْثُورًا: هَبَاءً ان ذروں کو کہتے ہیں جو روشندانوں سے آنے والی سورج کی روشنی میں نظر آتے ہیں۔ مشرکین کے اعمال خاک کے ان ذروں کی طرح نابود ہو جائیں گے۔

اہم نکات

۱- عمل میں حسن کا دار و مدار عمل کنندہ میں موجود حسن پر ہے۔

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا
وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿۲۴﴾
۲۴- اہل جنت اس دن بہترین ٹھکانے اور بہترین
سکون کی جگہ میں ہوں گے۔

تشریح کلمات

مَقِيلًا: (ق ی ل) استراحت کی جگہ۔ مجمع البیان میں آیا ہے: عربوں میں قیلولہ، دوپہر کے آرام کو کہتے ہیں۔

تفسیر آیات

قیامت کے دن اہل جنت بہترین مستقر میں ہوں گے۔ مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپس کی گفتگو کے لیے اکثر بیٹھا کرتے ہیں اور مَقِيلًا دوپہر کے آرام کو کہتے ہیں۔ دنیا میں تو قیلولہ دوپہر کی نیند کو کہتے ہیں جنت میں چونکہ نیند نہیں لہذا یہاں قیلولہ سے مراد آرام ہے۔

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَ نَزَلَ الْمَلِكَةُ تَنْزِيلًا ۝۲۵
اور اس دن آسمان ایک بادل کے ذریعے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار نازل کیے جائیں گے۔

تفسیر آیات

اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ مشرکین کے اس خرافاتی عقیدے کی رد ہے جس میں وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں سے ظاہر ہوں گے اور ان کو حق کی طرف بلائیں گے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت ۲۱۰ میں فرمایا:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلِكَةُ...
کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتر آئیں۔

اس آیت میں فرمایا: قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا تو اللہ تو نہیں آئے گا، فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ بات اپنی جگہ قرآنی تعلیمات میں واضح ہے کہ قیامت کے دن کائنات دگرگوں ہو جائے گی۔

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝۲۶
پس جب آسمان پھٹ جائے گا تو سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا۔

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۝۲۶
وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝۲۷
اس دن سچی بادشاہی صرف خدائے رحمن کی ہوگی اور کفار کے لیے وہ بہت مشکل دن ہوگا۔

تفسیر آیات

۱۔ اَلْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ: قیامت کے دن وہ تمام علل و اسباب معطل ہو جائیں گے جن کے ذریعے دنیا میں لوگ تسلط قائم کرتے تھے۔ وہاں صرف اور صرف ارادۃ الہی نافذ ہوگا۔ اس طرح اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی۔

اَلْمَلَكُ مَوْصُوفٌ، الْحَقُّ صِفَتٌ هِيَ۔ ترتیب کلام اس طرح ہے: المملک الحق یومئذ للرحمن۔
۲۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا: جب تمام اسباب، وسائل معطل ہو جائیں گے اور صرف اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہوگا تو کفار کے لیے ایسے حالات سے سخت دن قابل تصور نہیں ہے۔

اہم نکات

۱۔ جب قیامت کے دن صرف ارادۃ الہی نافذ ہوگا تو دنیا میں ارادۃ الہی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے قیامت سخت ترین دن ہوگا۔

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِيَتَنبِي اَنَحَدْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾
۲۷۔ اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا: کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔

يَوْمَ لِي لِيَتَنبِي لِمَا آخَذْنَا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾
۲۸۔ ہائے تباہی! کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔

لَقَدْ أَصَلَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ حَذُوًّا ﴿٢٩﴾
۲۹۔ اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا جب کہ میرے پاس نصیحت آچکی تھی اور انسان کے لیے شیطان بڑا ہی دعا باز ہے۔

تشریح کلمات

يَعَضُّ: (ع ض ض) کسی چیز کو دانت سے پکڑ لینا یا کاٹنا۔

شان نزول: روایات میں آیا ہے:

امیہ بن خلف کے ساتھ عقبہ کی دوستی تھی۔ عقبہ ایمان لے آیا تو امیہ نے کہا: اگر تو محمد کی

پیروی کرتا ہے تو میں روبرو نہ ہوں گا جس پر عقبہ مرتد ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
شان نزول خواہ خاص ہو، قرآن کے اطلاق میں ہر ظالم شامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی پیروی نہیں کرتا۔

تفسیر آیات

۱- وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ: قیامت کے دن ظالم ندامت سے اپنا ہاتھ کاٹے گا۔
۲- يَلْتَنِي اَلَّذِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً: کاش رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ راستہ،
سبیل سے مراد سبیل رسول اسلام ہے یا مطلق تعلیمات ہیں۔ دوسری صورت وہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں
گے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود زندگی میں اسلامی احکام کو اعتنا میں نہیں لاتے۔
۳- يَوْمَ لَتُنِي لَتِي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا حَلِيلاً: خلیل یعنی دوست۔ وہ دوست جس نے اسے گمراہ
کیا اس کا نام لے کر کہے گا: کاش میں نے اسے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔
۴- لَقَدْ اَصْلَنْتِي: اسی دوست نے مجھے الذکر سے گمراہ کر دیا۔ الذکر سے مراد قرآن ہو سکتا
ہے یا مطلق تعلیمات رسول۔

۵- وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْانْسَانِ خَدُوًلًا: یہ اس گمراہ کا قول نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ
شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جب وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اس سے بیزار ہوتا ہے:
كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْانْسَانِ اكْفُرْ شيطان کی طرح جب اس نے انسان سے کہا: کافر ہو جا!
فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّي بَرِيٌّ مِّنْكَ... ۱۔ پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا: میں تجھ سے بیزار ہوں۔

اہم نکات

۱- برے دوستوں سے بچنا چاہیے۔

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝۳۰ اور رسول کہیں گے: اے میرے پروردگار! میری
قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا۔

تفسیر آیات

قیامت کے دن جہاں گمراہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بارگاہ الہی میں ان مجرموں کے جرم سے متعلق جو بنیادی مسئلہ اٹھائیں گے وہ قرآن کو متروک کرنا ہو گا۔ اے

اللہ! جو دستور حیات آپ نے انسانوں کے لیے عنایت فرمایا تھا اسے ان لوگوں نے قابل اعتنا نہ سمجھا اور اس کی جگہ انسان کے خود ساختہ دستور پر عمل کرنے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کو قابل فخر سمجھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے:

فَإِذَا التَّبَسَّتْ عَلَيْكُمُ الْفِتْنُ كَقَطْعِ
الَّيْلِ الْمَظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ...^۱
فتنے اگر رات کی تاریکیوں کی طرح تم پر چھا جائیں
تو قرآن کو اپناؤ۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا الْكُلَّ نَجِيًّا
عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ^۲ وَكَفَى
بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا^۳
۳۔ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین
میں سے بعض کو دشمن بنایا ہے اور ہدایت اور
مدد دینے کے لیے آپ کا پروردگار کافی ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا الْكُلَّ نَجِيًّا
جَعَلْنَا ہم نے بنایا کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ اور روش کلی یہ ہے کہ حق اور باطل میں
سے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ نہ حق کی جانبداری میں طاقت استعمال فرماتا ہے، نہ
باطل کو حق قبول کرانے کے لیے طاقت کو ذریعہ بناتا ہے۔ اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے
مقابلے اس کے دشمن کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس موقع دینے کو جَعَلْنَا فرمایا ہے۔ فافہم ذلك.
۲۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا: ان کی دشمنی سے آپ کی رسالت متاثر نہ ہوگی کیونکہ ہادیًا
ہدایت دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اسی کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے۔ وَنَصِيرًا نصرت و یاری کے
لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ اور آپ کے دین کی مدد کرے گا۔ یہ عدو اگر آپ سے دشمنی کرتے ہیں تو آپ
ان سے بے نیاز ہیں۔ جس کا مددگار اللہ ہو اس سے زیادہ بے نیاز اور کون ہوگا۔

اہم نکات

۱۔ جس کا ہادی اور نصیر اللہ ہو اسے دشمن کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ
عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً^۴
۳۲۔ اور کفار کہتے ہیں: اس (شخص) پر قرآن
یکبارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ (بات یہ ہے کہ)

كَذَلِكَ لِنُنَبِّئُ بِهٖ فُؤَادَكَ وَ
رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴿٥﴾
اس طرح (آہستہ اس لیے اتارا) تاکہ اس
سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دیں اور ہم
نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: كَفَرُوا: كفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو
توریت، انجیل اور زبور کی طرح دفعۃً نازل ہوتا۔ تدریجی نزول کا مطلب یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے
محمد ﷺ کے لیے خود بنا کر جوڑ دینا ممکن ہو جاتا ہے۔

جواب: اول تو یہ بات درست نہیں کہ کتب آسمانی دفعۃً نازل ہوتی رہی ہیں۔ سابقہ کتب بھی
تدریجاً نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ توریت اٹھارہ سالوں میں نازل ہوئی۔ خود توریت کی صریح عبارت اس پر
شاہد ہے۔^۱

ثانیاً: قرآن ایک امت کی تربیت اور ایک معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ایک
ناخواندہ قوم کی تربیت، جدید مطالب کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے ان تعلیمات کو اس وقت بیان کرنا
ضروری تھا جب اس کی ضرورت پیش آتی۔ ضرورت کے بعد بیان شدہ تعلیمات ذہنوں میں بہتر طریقے سے
راسخ ہو جاتی ہیں۔ ان تعلیمات کو ناخواندہ قوم میں راسخ کرنا دفعتاً ایک کتاب کے پڑھانے سے ممکن نہ تھا۔
اس عظیم انقلاب کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے فطرت سے ہم آہنگ تدریجی قدم اٹھانا ضروری تھا۔

۲۔ كَذَلِكَ لِنُنَبِّئُ بِهٖ فُؤَادَكَ: قرآن کے تدریجی نزول میں قلب رسول کی تقویت مطلوب
ہے۔ تدریجی نزول سے بار رسالت کی سنگینی اٹھانے اور اس کے درجہ بدرجہ وقتاً فوقتاً نفاذ میں آسانی آ جاتی
ہے۔ خود قرآن فرماتا ہے بار رسالت سنگین ہے:

إِنَّا سَلَّمْنَاهُ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا...^۲
عنقریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم (کا بوجھ) ڈالنے
والے ہیں۔

ہر مشکل مرحلے میں وحی کے ذریعے اللہ سے رابطہ قائم ہونے سے قلب رسول کو تقویت ملتی ہے۔
قانون و شریعت کے ضرورت کے موقع پر نفاذ سے امت کے دلوں میں جدید قانون اس طرح دل نشین ہوتے
ہیں جس طرح طب کے طالب علم کو تشریح کے موقع پر آپریشن کا طریقہ سمجھایا جائے تو دل نشین ہوتا ہے۔

۳۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً: اسی لیے تدریجی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا: ہم نے ٹھہر ٹھہر کر
اس قرآن کو پڑھ کر سنایا ہے۔

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ
بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

۳۳۔ اور یہ لوگ جب بھی آپ کے پاس کوئی
مثال لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق
کی بات اور بہترین وضاحت سے نوازتے ہیں۔

تفسیر آیات

مَثَلٌ: کا مطلب یہ ہے کہ منکرین دلیل و حجت کے طور پر ایسی مثالیں اور نظیریں پیش کرتے ہیں جن سے آپ کی نبوت کو مخدوش کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان مثالوں کو ان کے لیے حجت اور دلیل بننے نہیں دیتے اور ان کی ان باطل مثالوں اور دلیلوں کے مقابلے میں وہ دلیل پیش کرتے ہیں جو حق پر مبنی ہے اور ایسی بہتر تفسیر پیش کرتے ہیں جس سے باطل کے چہرے سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ ”تفسیر“ کشف المغطی پردہ اٹھانے کو کہتے ہیں۔

انزال اور تنزیل میں فرق: اگرچہ یہ بات مشہور ہے کہ انزل دفعۃً نازل کرنے اور تنزیل تدریجاً نازل کرنے کے معنوں میں ہے مگر قرآنی استعمالات میں اس معنی کا التزام نہیں ہے۔ چند مثالیں:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ... ۱۔ اور وہ کہتے ہیں: اس (نبی) پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا؟

إِنْ نَشَأْ نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ... ۲۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر دیں۔
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ
بِأَيْدِيهِمْ... ۳۔ اور (اے رسول) اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب
(بھی) آپ پر نازل کرتے...۔

ان آیات میں آیت اور کتباً ایک معجزے، ایک کتاب کے لیے نُزِّل استعمال ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایک چیز دفعۃً آسکتی ہے۔

اس موضوع پر سب سے واضح آیت یہی زیر بحث آیت ہے جس میں دفعۃً نازل کرنے کے لیے نُزِّل استعمال ہوا ہے۔

لہذا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے باب افعال اور باب تفعیل کی دیگر خاصیتوں کی طرف توجہ کر کے آیات میں پوشیدہ نکات کا استنباط کرنا چاہیے بشرطیکہ سیاق آیت اجازت دے۔

اہم نکات

۱۔ خود قرآن میں قلب رسول کی تقویت کا اہتمام کیا گیا ہے۔

۲- تعلیم و ارتقاء تدریجاً ممکن ہے۔ یہی طریقہ قدرت ہے۔

۳۴- یہ وہ لوگ ہیں جو اوندھے منہ جہنم کی طرف
دھکیلے جائیں گے، ان کا ٹھکانا بہت برا ہے اور
وہ راہ حق سے بہت ہی دور ہو گئے ہیں۔

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى
وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ
شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۳۴﴾

تفسیر آیات

۱- يُحْشَرُونَ: کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ یہاں حشر علی الوجوه کی تشریح میں مفسرین کے
کلمات میں بہت اضطراب ہے کہ منہ کے بل جمع کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ بظاہر حشر اپنے معنی میں
استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی بحشرون الی جہنم ان کو جہنم میں جمع کیا جائے گا اور جہنم میں منہ کے بل دھکیلے
جائیں گے۔

۳۵- اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت فرمائی
اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے
ساتھ کر دیا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا
مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿۳۵﴾

تفسیر آیات

تاریخ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک کو صدر مقام حاصل ہے۔ اس لیے اس آیت میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو اہم چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک کتاب عنایت کرنے کا اور دوسرا ایک وزیر
اور مددگار فراہم کرنے کا۔ اس وزیر اور مددگار کو آخاہ اپنے ہی خاندان سے قرار دیا۔

۳۶- پھر ہم نے کہا: تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ
جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے،
چنانچہ ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔

فَقُلْنَا أَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿۳۶﴾

تفسیر آیات

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے موسیٰ علیہ السلام کی سرنوشت کے دو اہم نکتے بیان فرما رہا ہے: ہم نے موسیٰ و
ہارون سے کہا: اس قوم کی تنبیہ کے لیے قدم اٹھاؤ۔ جس نے بعد میں ہماری آیات کی تکذیب کی۔ پھر ہم نے

اس قوم کو تباہ کر دیا۔

كَذَّبُوا اور دمرنا، صیغہ ماضی حال نزول کے اعتبار سے ہے، حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو حکم ملنے کے وقت کے اعتبار سے نہیں۔ اس پر قرینہ دمرنا کا جملہ ہے۔

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ ۖ
أَعْرَفْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِنَاسٍ
آيَةً ۖ وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا
أَلِيمًا ﴿٣٧﴾

۳۷۔ اور جب قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشان (عبرت) بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ قوم نوح کو ہم نے تباہ کر دیا چونکہ وہ بھی رسولوں کی تکذیب کرتے تھے۔ صرف ایک رسول نوح کی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جو رسل آئے۔ سب کی تکذیب کرتے تھے۔ یا یہ کہ وہ اصل رسالت کے منکر تھے۔ جس سے سب رسولوں کی تکذیب لازم آتی ہے۔

۲۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِنَاسٍ آيَةً: ان کی تباہی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی ایک علامت بن گئی۔

وَّعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ
الرِّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾

۳۸۔ اور یہی (حشر) عاد اور ثمود اور اصحاب الرس کا بھی ہوا ہے اور ان کے درمیان بہت سی امتوں کا بھی۔

تفسیر آیات

قوم عاد و ثمود کی تشریح اس سے پہلے سورہ ہائے اعراف، ہود میں ہو چکی۔
اصحاب الرس کون تھے؟

اصحاب الرس کے بارے میں اقوال بہت مختلف اور مضطرب ہیں۔ نہج البلاغہ میں آیا ہے:
أَيْنَ أَصْحَابِ مَدَائِنِ الرِّسِّ الَّذِينَ قَتَلُوا
النَّبِيِّينَ... لے
کہاں ہیں اصحاب الرس کے شہروں کے باشندے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔

اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے یہاں کئی شہر آباد تھے۔ تفسیر صافی میں قمی سے نقل کیا ہے۔
رَسَ آزر بائجان کے ایک علاقے کے ایک شہر کا نام ہے۔ محمد عبدہ کے مطابق یہ وہی شہر ہے جسے آج

کل نہر اس کہتے ہیں۔ اس کے معنی کنویں سے کیے گئے ہیں۔ روایت ہے کہ اس قوم نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک کر قتل کیا تھا۔ والعلم عند اللہ۔

۳۹۔ اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالوں سے سمجھایا اور (آخر میں) سب کو بالکل ہی تباہ کر دیا۔
وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكَلَّا تَبَرَّنَا تَتَّبِعِرًا ۝

تفسیر آیات

ان اقوام میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالوں سے تشبیہ، نصیحت کی۔ ان پر حجت پوری کی۔ آخر میں ان کی سرکشی پر ان کو تباہ کر دیا۔

۴۰۔ اور تحقیق یہ لوگ اس بستی سے گزر چکے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی تو کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ بلکہ (اس کے باوجود) یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی توقع ہی نہیں رکھتے۔
وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا ۖ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝

تفسیر آیات

۱۔ وَلَقَدْ آتَوْنَا: اس بستی سے مراد قوم لوط کی بستی ہو سکتی ہے اور بارش سے مراد پتھروں کی بارش ہے۔ ہو سکتا ہے طاقور لاوہ پھننے سے ان پر پتھر کی بارش ہوئی ہو۔ حجاز والے شام جاتے ہوئے قوم لوط کے تباہ شدہ علاقوں سے گزرتے تھے:

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصِحِّينَ ۖ

۲۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا: کیا وہ اس قوم کے عبرت ناک انجام کا مشاہدہ نہیں کرتے رہے۔

۳۔ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا: وہ اس عبرت ناک انجام کا مشاہدہ کرتے رہے ہیں لیکن وہ اس سے

عبرت نہیں لیتے۔ کیونکہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں لہذا عبرت کا موضوع منتفی ہے۔

اہم نکات

۱۔ عقیدہ معاد کی کمزوری سے عبرت ناک دروس بھی بے اثر ہوتے ہیں۔

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوعًا ۗ أَلْهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ ﴿٣١﴾

۴۱۔ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں (اور کہتے ہیں) کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟

تفسیر آیات

رسول اللہ ﷺ دعوت توحید سے پہلے نہایت قابل احترام اور امین مشہور تھے۔ دعوت توحید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے وہ واقعی مذاق نہیں تھا۔ واقع میں ان کے دلوں میں ان کی شخصیت، ان کے خاندان بنی ہاشم اور ان کے چالیس سال تک کردار کے بڑے گہرے اثرات تھے اور آج بھی سوائے دعوت توحید اور بتوں کو مسترد کرنے کے اور کوئی عیب نہ تھا۔ یہ استہزاء درحقیقت ایک سازش کے طور پر مصنوعی استہزاء تھا اس طرح وہ اس دعوت کے اثرات کم کرنا چاہتے تھے۔

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۗ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَصْلَ سَيِّئًا ۖ ﴿٣٢﴾

۴۲۔ اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس (شخص) نے تو ہمیں ان سے گمراہ ہی کر دیا ہوتا اور جب یہ لوگ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ (صحیح راستے سے) گمراہ کون ہے؟

تفسیر آیات

۱۔ إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْتِنَا: مشرکین کا یہ کہنا کہ اگر ہم صبر اور مقاومت نہ کرتے تو محمدؐ ہمیں اپنے معبودوں سے گمراہ کرتے، خود دلیل ہے کہ وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں ایک سازش کے طور پر ہے۔ دراصل وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس دعوت میں جو طاقت ہے اس کا مقابلہ کرنا صبر آزما ہے۔

۲۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ: ان کے جواب میں فرمایا: رہا گمراہی کا مسئلہ تو اس کا علم اس وقت ہو جائے گا جب یہ لوگ عذاب کا مشاہدہ کریں گے کہ کون گمراہی میں تھا۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۗ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ۖ ﴿٣٣﴾

۴۳۔ کیا آپ نے اس (شخص) کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس شخص کے ضامن بن سکتے ہیں؟

تفسیر آیات

جو شخص اپنی خواہشات کو اپنا معبود بناتا ہے، اپنی خواہشات کا تابع ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کا بندہ ہوتا ہے۔ نفس پرستی اور خواہشات کا بندہ کس قدر خطرناک اور ناقابل ہدایت ہے۔ اس کا اندازہ آیت کے آخری جملے سے ہوتا ہے۔ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا کیا آپ ایسے شخص کی ہدایت کا ذمہ لے سکتے ہیں؟

اہم نکات

۱۔ نفس پرست پر ہادی برحق کی ہدایت کا اثر نہ ہوگا۔

۴۴۔ یا کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے
اکثر سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ (نہیں)
یہ لوگ تو محض جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان
سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ
إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
سَبِيلًا ۝

تفسیر آیات

۱۔ یہ لوگ خود عقل سے کام لینے کے قابل نہیں ہیں۔ خود عقل نہیں رکھتے تو کسی عاقل سے حرف حق سننے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک صورت ہوتی تو ان کا راہ راست پر آنا ممکن تھا۔
۲۔ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ: مذکورہ دونوں صلاحیتوں سے عاری یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں۔
نہ خود عقل رکھتے ہیں، نہ کسی سے سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

۳۔ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا: بلکہ یہ لوگ چوپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ چوپائے اپنی غرض خلقت میں ہمیشہ مگن رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ جانور انسان کے لیے مسخر ہیں اور یہ اس تسخیری مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت چرتے رہتے ہیں اور انسان کے لیے گوشت، دودھ وغیرہ فراہم کرتے ہیں۔ جب کہ سرکش انسان اپنی غرض خلقت سے دور اور اس کے منافی عمل کرتا ہے۔ اس لیے انسان چوپاؤں سے زیادہ گمراہ ہے۔

اہم نکات

۱۔ نفس پرست کے ظاہری اور باطنی حواس کام نہیں کرتے۔

۴۵۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا پروردگار
سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو
اسے ساکن بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو سائے
(کے وجود) پر دلیل بنا دیا۔
۴۶۔ پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف سمیٹ
لیتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ
مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ
سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ
دَلِيلًا ﴿٤٥﴾
ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

تفسیر آیات

۱۔ سورج سائے کے وجود پر دلیل اس لیے ہے کہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا سورج کی مختلف حالتوں سے مربوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام تخلیق میں جہاں دھوپ کا اہم کردار ہے بلکہ دھوپ ہی سے زندگی ہے وہاں اس حیات آفرین دھوپ سے چمٹا بھی پڑتا ہے۔ اس لیے سایہ کی پناہ فراہم فرمائی۔ سایہ کی فراہمی کے لیے اجسام کو سایہ دار بنایا، ورنہ اجسام شفاف ہوتے تو سایہ وجود میں نہ آتا۔

۲۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا: اگر اللہ چاہتا تو اس سایہ کو ساکن بنا دیتا۔ اگر سایہ متحرک نہ ہوتا اور آنے جانے کا نظام نہ ہوتا تو ساکن سایہ سے اس نظام میں خلل پڑتا۔ اگر زمین متحرک نہ ہوتی تو سایہ ساکن ہوتا۔ نظام حیات درہم برہم ہوتا۔ نظام حیات میں ہم لوگ سایہ کے اہم کردار سے غافل رہتے ہیں۔

۳۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا: پھر سورج چڑھنے سے تدریجاً سایہ سمٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اِلَيْنَا ”ہم اس سایے کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں“۔ یہاں اپنی طرف کہنے میں کس نکتے کی طرف اشارہ ہے؟ صاحب المیزان اس جگہ فرماتے ہیں:

اشیاء کا موجود ہونے کے بعد مفقود ہونا، معدوم ہونا اور مٹ جانا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہے۔

ممکن ہے اِلَيْنَا کا اشارہ الی ارادتنا ہو۔ والعلم عند اللہ۔

اہم نکات

۱۔ اس کائنات میں دھوپ اور سایہ کا ہونا اور نہ ہونا دونوں اللہ کے تدبیری نظام کے ستون ہیں۔

۴۷۔ اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات
کو پردہ اور نیند کو سکون اور دن کو مشقت کے

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا
وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَ جَعَلَ النَّهَارَ

نُشُورًا ﴿٣٤﴾

لیے بنایا۔

تفسیر آیات

۱۔ جَعَلَ لَكُمْ الْيَلَّ يَبَاسًا: اس نے تمہاری تنظیم حیات و تدبیر زندگی کے لیے رات کی تاریکی کو بھی اس نظام کا حصہ بنا دیا ہے۔ چنانچہ رات کی تاریکی کا لباس پہنا کر اس مضطرب الحال انسان کو ان چیزوں سے الگ کر دیا جن میں یہ دن بھر گن رہتا ہے تاکہ اسے سکون اور تھکے ہوئے اعصاب کو آرام مل جائے اور زندگی کی نبرد آزمائی میں ہونے والی ناکامیوں سے خستہ حال انسان دوبارہ بحال ہو جائے۔ اس طرح نیند اعادہ حیات کے لیے ایک وقتی موت ہے اور ادامہ حیات کے لیے ایک چار جنگ سسٹم ہے۔

۲۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا: دن کو اس تدبیری نظام میں خود حیات کا درجہ حاصل ہے۔ چنانچہ دن کو نُشُورًا سے تعبیر فرمایا۔ نُشُورًا منتشر ہونا، پھیلنا، دوڑ دھوپ کرنا کے معنوں میں ہے اور نشر، حیات اور زندگی کے معنوں میں بھی ہے:

پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھالے گا۔

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۗ

اہم نکات

۱۔ لیل، نوم، نہار، تدبیر حیات کے تین ستون۔

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا ۖ
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٣٨﴾

۳۸۔ اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی برسایا ہے۔

تفسیر آیات

۳۸

۱۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ: تشریح کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف آیت ۵۷۔

۲۔ مَاءً طَهُورًا: پانی بذات خود پاک ہے اور پاک کنندہ ہے۔ فعول کے وزن پر مبالغہ ہے۔ یعنی پانی پاک کرتا ہے نجاسات اور احداث کو۔ دوسرے لفظوں میں خبث اور حدث دونوں کو دور کرتا ہے۔ پانی سے دھونے سے جس چیز پاک ہو جاتی ہے اور وضو اور غسل کرنے سے حدث، ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔

اہم نکات

۱۔ پانی جہاں مایہ حیات ہے وہاں ظاہری و باطنی ناپاکی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا
خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْعَامِيَّ كَثِيرًا ﴿٥٩﴾
۴۹۔ تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ دیس کو زندگی
بخشیں اور اس سے اپنی مخلوقات میں سے بہت
سے چوپاؤں اور انسانوں کو سیراب کریں۔

تفسیر آیات

بَلَدَةً کے بعد مینا فرمایا جبکہ مینا، بلدہ کی صفت ہونے کے اعتبار سے مینتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کا
جواب یہ دیا گیا ہے: چونکہ بَلَدَةً مکان اور موضع کے معنی میں ہے۔ (الکشاف)
بارش سے غیر آباد اراضی آباد ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں بارش زمین کی روح ہے۔ چوپاؤں اور بہت
سے انسانوں کو بھی ہم اس بارش کے پانی سے سیراب کرتے ہیں۔
أَنْعَامِيَّ كَثِيرًا: ”بہت سے انسانوں کو“ کیسے فرمایا؟ جبکہ سب انسان پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔
جواب یہ ہے: انعام اور انسان دونوں ملا کر تعداد کثیر بنتی ہے نیز ممکن ہے: نسقیہ سقیا کثیرا ہو،
ورنہ کثیرین فرماتے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ﴿٥٠﴾
فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥١﴾
۵۰۔ اور تحقیق ہم نے اس (پانی) کو مختلف طریقوں
سے ان کے درمیان پھرایا ہے تاکہ وہ نصیحت
حاصل کریں مگر اکثر لوگ انکار کے علاوہ کوئی بات
قبول نہیں کرتے۔

تفسیر آیات

۱۔ صَرَّفْنَا لَهُ: ہم نے اس پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا ہے۔ یعنی ہم نے اس پانی کو
ان لوگوں کے درمیان گھمایا پھرایا تاکہ ہر ایک کو اپنی ضرورت کے مطابق پانی میسر آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پانی
کو بخار، بادل اور ہوا کے ذریعے فضا میں اور نہروں اور دریاؤں کے ذریعے زمین میں پھراتا ہے۔
۲۔ لِيَذَّكَّرُوا: پانی کو ہم نے ان میں پھرایا تاکہ یہ اللہ کی اس نعمت سے نصیحت حاصل کریں اور
شکر ادا کریں لیکن اکثر انسان ناشکرے ہیں۔

اہم نکات

۱۔ پانی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے مگر اکثر انسان پانی کی ناقدری کرتے ہیں۔

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
۵۱۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک تنبیہ کرنے

والا مبعوث کرتے -

تَذِيرًا ۵۱

تفسیر آیات

مگر ہم نے آپؐ کو مبعوث کر کے سارے جہاں کے لیے رسول بنایا۔ ہم نے ہر بستی میں تنبیہ کرنے والا رسول نہیں بھیجا۔ ان تمام رسولوں کی جگہ صرف آپؐ کو مبعوث کیا چونکہ صرف آپؐ کی وجہ سے تمام بستیوں کی طرف رسول مبعوث کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس سے رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی عظمت اور آفاقیت واضح ہو جاتی ہے۔

فَلَا تَطْعَمُ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ ۵۲۔ لہذا آپ کفار کی بات ہرگز نہ مانیں اور
اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑے پیمانے
پر جہاد کریں۔

بِهَجَاهِدٍ كَبِيرًا ۵۲

تفسیر آیات

جب ہم نے آپؐ کو تمام بستیوں کے لیے رسول و نذیر بنا کر بھیجا ہے تو آپؐ کی ذمہ داری بہت سنگین ہو گئی۔ لہذا آپؐ اس قرآن کے ذریعے (بہ بالقرآن) بڑے پیمانے پر جہاد شروع کریں۔ جہاد بالسیف نہیں بلکہ جہاد بالقرآن کا حکم ہے۔ قرآنی آیات کی تلاوت اور دلیل و حجت قائم کر کے جہاد کریں۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا ۵۳۔ اور اسی نے دو دریاؤں کو مخلوط کیا ہے، ایک
عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ شیریں مزیدار اور دوسرا کھارا کڑوا ہے اور اس
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا نے دونوں کے درمیان ایک حد فاصل اور مضبوط
مَّحْجُورًا ۵۳ رکاوٹ بنا دی ہے۔

تشریح کلمات

عَذْبٌ : (ع ذ ب) ماء عذب کے معنی خوش گوار اور ٹھنڈا پانی کے ہیں۔
فُرَاتٌ : (ف ر ت) الفرات کے معنی شیریں یا نہایت شیریں پانی کے ہیں۔
أُجَاجٌ : (ا ج ج) الاجاج کے معنی سخت کھارا اور گرم پانی کے ہیں۔

تفسیر آیات

دریا کا میٹھا پانی جب سمندر میں گرتا ہے تو دریا کا پانی سمندر کے تلخ پانی کے درمیان اپنی شیرینی

قائم رکھتا ہے۔ قدرت کا کرشمہ ہے کہ یہ دونوں پانی وزن میں مختلف ہونے کی وجہ سے آپس میں مخلوط نہیں ہوتے۔

کیا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے:
مؤمن اور منافق، مسلم اور کافر دونوں ایک ہی سرزمین پر زندگی کرنے کے باوجود ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں جیسا کہ المیزان کا خیال ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ۖ
فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ
رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿۵۴﴾
اور وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا
کیا پھر اس کو نسب اور سسرال بنایا اور آپ کا
پروردگار بڑی طاقت والا ہے۔

تشریح کلمات

صِهْرًا: نسب وہ ہے جس سے نکاح حرام ہے اور صہرہ وہ ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے۔

تفسیر آیات

ایک ہی بوند سے دو مختلف مخلوقات نسب اور سسرال، مرد اور عورت وجود میں آتے ہیں۔ جن کی اصل، نوع ایک ہے اور دونوں کا تعلق ایک بنیاد یعنی انسانیت سے ہے مگر خصوصیات مختلف، نفسیاتی اور جسمانی تقاضے مختلف ہیں۔ اس کے باوجود ایک دوسرے سے متصادم نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے پرکشش ہیں۔ مرد و زن کی خصوصیات کے مختلف ہونے کے باوجود باہم منسلک ہونے میں نوع انسانی کی بقا ہے۔

ابن سیرین راوی ہیں:

نزلت فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
و علی لانہ جمعہ معہ نسب و
صہرہ... ل
یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ (وآلہ) وسلم اور علی (ع)
کے بارے میں نازل ہوئی چونکہ علی کے نبی کے
ساتھ نسبی اور دامادی دونوں رشتے ہیں۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ
۵۵۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی
بندگی کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں

الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ اور نہ ضرر اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں
(دوسرے کافروں کی) پشت پناہی کرتا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ مشرکین ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں جن کی پوجا کرنے میں کوئی فائدہ ہے نہ پوجا نہ کرنے میں کوئی ضرر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے معبود نفع و ضرر پر قادر نہیں ہیں ورنہ خود بت کی عبادت باعث ضرر ہے۔
۲۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا: درحقیقت کافر اپنے رب کے خلاف ہر قدم کے پشت پناہ ہوتے ہیں خواہ یہ قدم اٹھانے والے انسانی شیطان ہوں یا جناتی شیطان۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا ﴿٥٦﴾ اور (اے رسول) ہم نے آپ کو صرف بشارت
دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

تفسیر آیات

رسول کی ذمہ داری کفار کے سامنے حق کا پیغام رکھنا ہے اور جہاں تک پیغام رسائی اور اتمام حجت کا تعلق ہے اس میں رسول افہام و تفہیم کا ہر وسیلہ استعمال کریں گے۔ اس سے آگے اس پیغام کو قبول کروانا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔

البتہ اسلام قبول کرنے والوں پر رسول کو ولایت کا حق حاصل ہے۔ رسول کی دعوت پر لبیک کہنا واجب ہے خواہ اس میں جان کا خطرہ کیوں نہ ہو۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ... ﴿٥٧﴾ نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے۔

نیز رسول حاکم ہیں ان کی اطاعت لازم ہے ان کا حکم نافذ ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ اور کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔

اہم نکات

۱۔ رسول مکرین کے لیے صرف نذیر ہیں۔ مؤمنین پر واجب اطاعت حاکم ہیں۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ
إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ
سَبِيلًا ۝

۵۷۔ کہہ دیجیے: اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت
نہیں مانگتا مگر یہ (چاہتا ہوں) کہ جو شخص چاہے
وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔

تفسیر آیات

تبلیغ رسالت پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ بس میری اجرت یہ ہے کہ تم خود اپنی مختاری سے
آزادانہ طور پر مَنْ شَاءَ کی بنیاد پر اپنے رب کا راستہ اختیار کرو۔ اگر اجر مانگتا ہوں تو اپنے لیے نہیں بلکہ
تمہارے لیے تمہاری بھلائی اور تمہاری نجات میرا اجر رسالت ہے۔

واضح رہے: رب کا راستہ دکھانے والے ہادیان برحق، قریبی کی محبت بھی خود انسانوں کی بھلائی اور
نجات کے لیے چاہتے ہیں:

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ... ۱۔ کہہ دیجیے: جو اجر (رسالت) میں نے تم سے مانگا ہے
وہ خود تمہارے ہی لیے ہے۔

لہذا اس آیت کے مطابق رب کا راستہ اختیار کرنا، آیۃ مودت کے مطابق رسول اللہ ﷺ کے
قرابتداروں سے محبت کرنا وہ اجر رسالت ہے جو فَهُوَ لَكُمْ کے تحت تمہارے مفاد کا اجر ہے۔ رسول کی
غرض بخت پوری ہونے کی وجہ سے اجر کہا ہے ورنہ یہ باتیں مؤمنین کے لیے اجر ہیں۔

اہم نکات

۱۔ رسول مؤمنین سے اجر نہیں نجات کا ذریعہ اختیار کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا
يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۗ وَكَفَىٰ بِهِ
بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا ۝

۵۸۔ اور (اے رسول) اس اللہ پر توکل کیجیے جو زندہ
ہے اور اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے اور اس
کی ثناء کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اپنے بندوں کے گناہوں
سے مطلع ہونے کے لیے بس وہ خود ہی کافی ہے۔

تفسیر آیات

- توکل اور بھروسہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے تین اوصاف کا بیان ہوا ہے کہ اس ذات پر بھروسہ رکھو جو:
- ۱۔ زندہ ہے: عَلَى النَّحْيِ الَّذِي لَا يَمُوتُ اس زندہ پر توکل کرو جو نہ صرف زندہ ہے بلکہ زندگی کی سرچشمہ ہے لہذا تسبیح بھی اسی کی کرو۔
 - ۲۔ وہ دانا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے غافل نہیں ہو سکتی۔
 - ۳۔ وہ قادر ہے: الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ... جس کا ذکر آگلی آیت میں ہوا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ الرَّحْمٰنُ فَسَلِّ بِهٖ خَبِيْرًا ﴿٥٩﴾

۵۹۔ جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے (سب کو) چھ دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر اقتدار قائم کیا، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے لہذا اس کے بارے میں کسی باخبر سے دریافت کرو۔

تفسیر آیات

- ۱۔ چھ دنوں میں آسمانوں اور زمین کی خلقت پھر عرش پر متمکن ہونے کے بارے میں تشریح سورۃ الاعراف آیت ۵۴ اور یونس آیت ۳ میں ملاحظہ فرمائیں۔
 - ۲۔ الرَّحْمٰنُ فَسَلِّ بِهٖ خَبِيْرًا: هو الرحمن۔ وہ رحمن ہے جس نے کائنات کو بنایا پھر عرش پر متمکن ہوا۔ فَسَلِّ بِهٖ یعنی عنہ رحمن کے بارے میں کسی باخبر ذات سے پوچھو جو خود خدائے تعالیٰ ہے۔
- مجمع البیان میں ہے: روایت میں آیا ہے کہ یہود اشیاء کی خلقت کی ابتدا کے بارے میں ایسی باتیں نقل کرتے تھے جو فرمان الہی کے خلاف تھیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: فَسَلِّ بِهٖ خَبِيْرًا۔

اہم نکات

- ۱۔ باخبر ذات سے سوال ہونا چاہیے۔

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿٦٠﴾

۶۰۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں: رحمن کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو کہہ دے؟ پھر ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ عرب مشرکین لفظ رحمن سے نا آشنا تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے رحمن کہہ کر اللہ کو پکارا تو مشرکین کہنے لگے: اس صابھی کو دیکھو! ہمیں دو معبودوں کو پکارنے سے روکتا ہے، خود دو معبودوں کو پکارتا ہے۔ اللہ اور رحمن کو جس پر یہ آیت نازل ہوئی:

قُلْ اذْعُو اللّٰهَ وَاذْعُو الرَّحْمٰنَ اٰیٰتًا مَّا تَدْعُوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی... ۱

کہہ دیجیے: اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں۔

۲۔ وَمَا الرَّحْمٰنُ: مشرکین کا یہ سوال رحمن کیا ہے؟ خود ایک جسارت ہے ورنہ رحمن کون؟ سوال ہو سکتا تھا اسی طرح اَنْسُجِدْ لِمَا تَأْمُرُنَا کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کے لیے تو کہتا ہے؟ ایک گستاخی ہے اور انداز کلام میں تکبر بھی ہے ساتھ رسول کے حکم کی بے اعتنائی بھی ہے۔

۳۔ وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا: رحمن کو سجدہ کرو کے حکم سے ان کی نفرت میں اضافہ ہو گیا۔ حکم رسول سے نفرت میں اضافہ یا رحمن کے لیے سجدہ کرنے سے نفرت میں اضافہ ہوا؟ دونوں ہو سکتے ہیں۔ ان کی نفرت حکم رسول سے یا خود سجدہ برائے رحمن سے بڑھ گئی۔

تَبٰرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ جَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿٦١﴾

۶۱۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ اور روشن چاند بنایا۔

تفسیر آیات

۱۔ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا: بروج کے بارے میں تشریح سورہ حجر آیت ۱۶ میں ہو چکی ہے۔

۲۔ وَّ جَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا: سراج سے مراد ہے۔

جس ذات کا نام رحمن ہے اس کی شان میں گستاخی کرتے ہو جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں کی حکومت ہے اور جس کے ہاتھ میں گردش لیل و نہار ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّدْكُرَ اَوْ

۶۲۔ اور وہی ہے جس نے ایک دوسرے کی جگہ لینے والے شب و روز بنائے، اس شخص کے لیے

آرَادَ شُكْرًا ①

جو نصیحت لینا اور شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ روئے زمین پر موجودات کی زندگی کی تدبیری امور میں سے ایک تدبیر شب و روز کا تبادلہ ہے۔ چونکہ نہ ہمیشہ دھوپ سے، نہ ہمیشہ شب سے یہ زندگی جاری رہ سکتی ہے۔ زمین کی گردش کی موجودہ رفتار ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی جگہ ایک سو میل فی گھنٹہ ہوتی تو دن رات دس گنا لمبے ہو جاتے، گرمیوں میں تمام نباتات جل جاتیں اور سردیوں میں رات کو جم جاتیں۔ قرآن بھی گردش لیل و نہار کی غرض و غایت یہی کچھ بتاتا ہے۔

۲۔ لَمَنْ آرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَوْ آرَادَ شُكْرًا: شب و روز کی یہ گردش اس شخص کے لیے بنائی جو نصیحت لینا یا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔

آرَادَ أَنْ يَذْكُرَ نصیحت اس بات پر لینا چاہے کہ کائنات اور انسانی زندگی کو چلانے اور تدبیر کرنے والی ذات وہی ہو سکتی ہے جس کے قبضہ قدرت میں گردش لیل و نہار ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو مدبر تسلیم نہ کرو۔ اللہ ہی تمہارا مدبر ہے اَوْ آرَادَ شُكْرًا یا اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے جس نے شب و روز کی گردش سے انسان کو وہ آسائش فراہم فرمائی جو دوسری صورت میں ممکن نہ تھی۔

اہم نکات

۱۔ گردش لیل و نہار کو معمول پر نہ لو۔ تدبیر الہی پر ایمان پختہ کرو۔

وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ②

۶۳۔ اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر (فروتی سے) دبے پاؤں چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے گفتگو کریں تو کہتے ہیں: سلام۔

تشریح کلمات

هَوْنًا: (ہ و ن) الھوان۔ نرمی اور تواضع کے معنوں میں نیز ذلت اور رسوائی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

تفسیر آیات

آنے والی چند آیات میں وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ کی چند اہم خصوصیات بیان فرمائی ہیں:

۱۔ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ: رحمن کے بندے اس لیے فرمایا کہ یہ لفظ ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ رحمن اللہ تعالیٰ کے ان اسماء میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں۔ چنانچہ یہ نام کسی غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جاتا۔

۲۔ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْناً: رحمن کے بندے زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ چال انسان کی شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ مطمئن ضمیر اور فکری اعتدال رکھنے والے کی چال اور شخصیت میں خلا رکھنے والے کی چال میں فرق ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی بندگی کرنے والوں کی شخصیت میں خلا نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ تکبر نہیں، تواضع کرتے ہیں۔ وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔

حدیث میں آیا ہے:

سُرْعَةُ الْمَشْيِ يَذْهَبُ بِهَا الْمُؤْمِنُ... ۱۔ تیز قدم چلنے سے مؤمن کا وقار جاتا ہے۔

مؤمن کے اوصاف میں ایک وصف یہ ہے:

مَشِيئُهُمْ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنٌ... ۲۔ زمین پر ان کی چال باوقار ہوتی ہے۔

۳۔ وَ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا: اگر جاہل لوگ بدتہذیبی کریں تو رحمن کی بندگی کرنے والے اپنے مطمئن ضمیر کا مظاہرہ تہذیب کے ساتھ کریں گے۔ الجاہل سے مراد وہ بدتہذیب مشرک ہیں جو اسلامی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض نے اس سے مراد بے وقوف، بے ادب مراد لیا ہے۔ قَالُوْا سَلٰمًا: سلام سے مراد اسلامی سلام نہیں ہے بلکہ یہ سلام تودییعی ہے جو لا تعلقی کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہم اپنی سلامتی چاہتے ہیں۔ اس میں بیہودہ گولوگوں سے نہ الجھنے کی خصلت کی تعریف کی گئی ہے۔

اہم نکات

۱۔ وقار کے ساتھ چلنا، بدتہذیبوں سے نہ الجھنا عِبَادُ الرَّحْمٰنِ کے دو اوصاف ہیں۔

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ

۶۴۔ اور جو اپنے پروردگار کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔

قِيَامًا ﴿۱۳﴾

تفسیر آیات

عِبَادُ الرَّحْمٰنِ کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ رات عبادت کے لیے مناسب وقت ہے۔ اس میں سکون اور سکوت ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظروں

سے پوشیدہ اور ریا کاری سے دور ہوتا ہے۔ یعنی رات کا ایک قابل توجہ حصہ، جیسے تہجد کی نماز جب کہ دن حصول علم و معاش اور جہاد جیسی عبادت کے لیے موزوں ہے۔ حدیث میں آیا ہے:

رُحْبَانٌ بِاللَّيْلِ أَسَدٌ بِالنَّهَارِ
رات کے عابد اور دن کے شیر ہوتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا
۶۵۔ اور جو یوں التجا کرتے ہیں: ہمارے رب!
عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ
ہمیں عذاب جہنم سے بچا، بے شک اس کا عذاب
غَرَامًا ۱۵
تو بڑی تباہی ہے۔

۶۶۔ بے شک جہنم تو بدترین ٹھکانا اور مقام ہے۔
إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۱۶

تشریح کلمات

غَرَامًا: (غ ر م) خسارہ کے معنوں میں ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ عِبَادُ الرَّحْمَنِ کی چوتھی صفت خوف از عذاب ہے۔ عذاب سے بچنے کی صرف دعا پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس سے بچنے کے اسباب پر عمل کر کے نتیجے کے لیے دعا کرتے ہیں۔
۲۔ إِنَّهَا سَاءَتْ: ساتھ یہ شعور بھی ہے کہ جہنم کا عذاب کیا ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا
۶۷۔ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف
لَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں بلکہ ان کے
قَوَامًا ۱۷
درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔

تشریح کلمات

يَقْتَرُوا: (ق ت ر) القتر کے معنی بہت کم خرچ کرنے اور بخل کے ہیں۔
قَوَامًا: (ق و م) قواماً بفتح قاف۔ اعتدالی کے معنوں میں ہیں۔

تفسیر آیات

عِبَادُ الرَّحْمَنِ کی پانچویں صفت خرچ میں اعتدال ہے۔

۱۔ لَمْ يُسْرِفُوا: اسراف ضرورت یا حد سے زیادہ اور الاقتار واجب اور ضرورت سے کم خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔

اسراف دولت کا ضیاع، محتاجوں کے حقوق کی پامالی ہے:

إِنَّمَا الْأَسْرَافُ فِيمَا آتَلَفَ الْمَالُ وَ اسراف وہاں ہے جہاں مال کا ضیاع اور بدن کا
أَصْرًا بِالْبَدَنِ ۱۔ ضرر ہو۔

۲۔ لَمْ يَقْتَرُوا: الاقتار بخل کرنے کو کہتے ہیں۔ بخل بہت بری خصلت ہے۔ حدیث میں آیا ہے:
أَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ... ۱۔ بخل سے زیادہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے۔

البخل بالموجود سوء الظن بالمعبود. ۲۔ مال موجود پر بخل کرنا معبود پر بدگمانی ہے۔

بخل خیانت ہے اس مال میں جسے اللہ نے اہل ایمان کو اپنے نائب کے طور پر امانتاً دیا ہے:
وَ أَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ اور اس مال سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں
فِيهِ ۱۔... ۲۔ جانشین بنایا ہے۔

مؤمن کی صفت یہ ہے کہ وہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ اسراف طاقت کا ضیاع اور کنجوسی طاقت کا جمود ہے۔ اسلام فردی ملکیت کا قائل ہے لیکن اس ملکیت میں نہ ضیاع کی اجازت دیتا ہے نہ جمود کی بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال کی سفارش کرتا ہے۔ احادیث میں اس اعتدال کو دو برائیوں کے درمیان ایک نیکی قرار دیا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت امام محمد باقر نے حضرت امام جعفر صادق علیہما السلام سے فرمایا:
يَابُنِي عَلِيُّكَ بِالْحَسَنَةِ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ... ۳۔ بیٹا! تم دو برائیوں کے درمیان ایک نیکی اختیار کرو۔
پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔

اسراف کی دو صورتیں ہیں: ناجائز کام پر پیسہ خرچ کرنا خواہ ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری صورت جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ اسی طرح بخل کی بھی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ اپنے اور اپنے بچوں پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ نہ کرے اور ان کو تنگی میں رکھے۔ دوسری صورت یہ کہ کسی نیکی کے کام میں کوئی پیسہ خرچ نہ کرے۔

اہم نکات

۱۔ اسراف اور بخل کے درمیان اعتدال مؤمن کی علامت ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ۶۸۔ اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر

اٰخَرًا وَلَا يَفْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي
 حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ
 وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اٰثَامًا ۝۶۸
 يُضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ
 يَخْلُدُ فِيْهَا مُهَانًا ۝۶۹

نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقہ سے اور زنا کا ارتکاب (بھی) نہیں کرتے اور جو ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوگا۔

۶۸۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا ہو جائے گا اور اسے اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا۔

تفسیر آیات

عِبَادُ الرَّحْمٰنِ کی چھٹی صفت اخلاص در توحید ہے۔

۱۔ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ: وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے بلکہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو ایک معبود کو ماننے کے باوجود غیر اللہ سے لو لگاتے ہیں یا مَعَ اللّٰهِ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اگرچہ بظاہر مشرک ہوتا ہے لیکن اس کا باطن، اس کی فطرت اور جبلت توحید سے سرشار ہوتی ہے۔ اس طرح مشرک کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ پکارتا ہے۔

۲۔ کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتا۔ یہ مؤمن کو ساتویں صفت ہے۔ چونکہ قتل نفس ان بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے جس پر جہنم کی سزا مقرر ہے۔ اِلَّا بِالْحَقِّ البتہ یہ قتل ناحق نہ ہو تو گناہ نہیں ہے۔ مثلاً قصاص میں قتل کرنا گناہ نہیں ہے۔

۳۔ وَلَا يَزْنُوْنَ: وہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتے۔ یہ مؤمن کی آٹھویں صفت ہے۔ حدیث میں آیا ہے:

اِذَا فَنَسَا الزَّيْنٰا ظَهَرَتِ الرَّزْلَةُ... ۱۔ جب زنا عام ہو جائے تو زلزلہ آیا کرے گا۔

۴۔ ایسے گناہوں کے مرتکب لوگوں کو اس صورت میں جہنم میں دائمی عذاب ہوگا جو حالت کفر میں مرجائیں اور انہوں نے قتل اور زنا کا ارتکاب بھی کیا ہو چونکہ صرف قتل اور زنا کے گناہ سے عذاب تو ہوگا مگر دائمی عذاب نہ ہوگا۔

اِلّٰمِن تَابٍ وَّ اٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا
 صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ
 ۷۰۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیا تو اللہ ان کی برائیوں کو

سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا ④
نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اللہ تو بڑا غفور
رحیم ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ اَلْاٰمِنُ تَابَ: وہ لوگ جہنم میں دائمی عذاب میں نہ ہوں گے جو کفر و شرک سے توبہ کرتے ہیں
اگرچہ ان لوگوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ قتل نفس اور زنا کا بھی ارتکاب کیا ہے تاہم توبہ، ایمان
لانے اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔

۲۔ وَعَمِلْ عَمَلًا صَالِحًا: نیک اعمال بجا لانے کی وجہ سے یعنی اپنے ایمان پر قائم رہنے اور مذکورہ
گناہوں سے دوری اختیار کر کے عمل صالح بجا لانے کی وجہ سے نہ صرف ان کے سارے گناہ معاف ہو
جاتے ہیں بلکہ

۳۔ يَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ: اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ سب توبہ اور
ایمان کے اثرات ہوں گے کہ تمام گناہوں کی جگہ ایمان لے لے گا اور نیکی ہی نیکی ہوگی۔ يَبَدِّلُ کی ایک
تفسیر یہ ہے کہ اس توبہ کے بعد اعمال سنیہ کی جگہ اعمال حسنہ لیں گے۔
دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہ مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھے گا۔
قرین واقع تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اور ایمان کی وجہ سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں
بدل دے گا۔ لہذا اگر ایک شخص توبہ و ایمان لانے کے بعد فوراً مر جاتا ہے تو یہ آیت اس پر بھی صادق آتی ہے۔

اہم نکات

۱۔ توبہ اس کیمیکل تبدیلی کی طرح ہے جس سے متعفن غلاظت، شیرین میوہ میں بدل جاتی ہے۔

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ
يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ④
۱۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل انجام دیتا ہے
تو وہ اللہ کی طرف حقیقی طور پر رجوع کرتا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ سابقہ آیت میں شرک، قتل، زنا سے توبہ کا ذکر تھا۔ اس آیت میں مطلق گناہوں سے توبہ کا ذکر ہے۔
۲۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا: توبہ کے بعد عمل صالح بجا لانے کی صورت میں یہ توبہ، عظیم توبہ ہو
جائے گی۔ جیسا کہ يَتُوبُ کی مَتَابًا سے تاکید کی گئی کہ عمل صالح توبہ کو حقیقی بناتا ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا
مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝۲
۲۔ اور (عباد الرحمن وہ ہیں) جو لوگ جھوٹی گواہی
نہیں دیتے اور جب یہودہ باتوں سے ان کا گزر
ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔

تشریح کلمات

الزُّورُ: (زور) قول الزور جھوٹی بات کے معنوں میں ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ کی نویں صفت یہ ہے کہ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اگر
ہم الزُّورَ کو ہم لغویات کے معنوں میں لیں تو معنی یہ ہو جائیں گے: مؤمن لغو مجالس میں حاضر نہیں ہوتے۔
المیزان کے نزدیک دوسرے معنی پر ذیل آیت قرینہ ہے۔ یعنی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ قَرِيبًا ہے۔
۲۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مؤمن لغویات میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ جب لغویات میں مشغول لوگوں
سے ان کا گزر ہو جائے تو شریفانہ گزر جاتے ہیں۔ ان میں شامل ہوتے ہیں اور نہ ان سے بے جا الجھتے ہیں۔

اہم نکات

۱۔ مؤمن کی زندگی کے لمحات قیمتی ہوتے ہیں۔ لغویات میں مشغول ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝۳
۳۔ اور وہ لوگ جنہیں ان کے رب کی آیات
کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اس پر اندھے
اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔

تشریح کلمات

لَمْ يَخِرُّوا: (خ ر ر) خرّ آواز کے ساتھ نیچے گرنے کے معنوں میں ہے۔

تفسیر آیات

مؤمن کی دسویں صفت یہ ہے کہ وہ آیات الہی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ مشرکین کی طرح
آیات الہی سننے پر گونگے اور بہرے ہو کر ان آیات پر برہم نہیں ہوتے بلکہ وہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور
اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ
اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٥٣﴾

۷۴۔ اور جو دعا کرتے ہیں: اے ہمارے پروردگار!
ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں
کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام
بنا دے۔

تفسیر آیات

۱۔ مؤمن کی گیارہویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے دو چیزیں مانگتے ہیں:
الف: ازواج و اولاد سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ ان سے خوشی اور مسرت حاصل رہے۔
ظاہر ہے مؤمن کو ان سے مسرت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی
محبت سے پرہیز کریں۔ واضح رہے صالح اولاد قیامت کے دن اپنے والدین کو فائدہ دے
سکتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

جِئْتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ
مِنْ آبَائِهِمْ... ۱

(یعنی) ایسی دائمی جنتیں ہیں جن میں وہ خود بھی داخل
ہوں گے اور ان کے آبا بھی...۔

ب: وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا: ہمیں پرہیزگاروں کا ہر اول دستہ بنا دے کہ ہم آنے والوں کے
لیے تقویٰ کی مثال بن جائیں۔ جیسا کہ حکم ہے:

فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ... ۲

پس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو...۔
اہل بیت علیہم السلام کی قرائت میں آیا ہے:

واجعل لنا من المتقين اماماً... ۳

ہمارے لیے تقویٰ والوں میں رہنما بنا دے۔
ابوسعید راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اے جبرئیل اس آیت میں ازواجنا کون ہیں؟ کہا: خدیجہ ہیں۔ فرمایا: ذریاتنا کون
ہیں؟ کہا: فاطمہ۔ فرمایا: قرۃ العین کون ہیں؟ فرمایا: حسن و حسین۔ فرمایا: واجعلنا
للمتقين اماماً کون ہیں؟ فرمایا: علی ہیں۔ ۴

ابان بن تغلب سے روایت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال
ہوا تو فرمایا:

نحن هم اهل البيت۔ ۵

یہ ہم اہل بیت ہیں۔

ابن عباس راوی ہیں: یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ۶

اہم نکات

- ۱۔ ازدواج و اولاد کی اچھی تربیت دارین کے لیے فائدہ مند ہے۔
۲۔ مؤمن کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کے لیے مثال بن جائے۔

أُولَئِكَ يُجْرُونَ الْعُرْفَةَ بِمَا
صَبَرُوا وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا
۵۔ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے صلے میں اونچے
محل ملیں گے اور وہاں ان کا استقبال تحیت اور
سلام سے ہوگا۔

خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا
وَمَقَامًا
۶۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بہت ہی عمدہ
ٹھکانا اور مقام ہے۔

تفسیر آیات

- ۱۔ الْعُرْفَةُ: بالا خانے کو کہتے ہیں۔ یہ جنت میں بلندی درجات کی طرف اشارہ ہے۔
۲۔ بِمَا صَبَرُوا: یہ درجات اس صبر کے صلے میں ملیں گے جو دنیا میں ادائے واجبات، اجتناب
محرمات اور زندگی میں پیش آنے والے حوادث کے مقابلے میں کیا ہے۔
۳۔ وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا: جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ملا کرے گا:
سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ۝
جنت میں سب سے بڑی نعمت اور مسرت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی:
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ... ۲
اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے۔
فرشتوں کی طرف سے سلام و تحیت ہوا کرے گی اور مومنین کا آپس میں سلاماً سلاماً ہوگا۔
۴۔ خَالِدِينَ فِيهَا: پھر جنت کی زندگی کا یہ خاصہ ہے کہ یہ ابدی زندگی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی
نعمت ہے کہ زندگی کے یہ پر لطف لمحات ختم نہ ہونے والے ہوں۔

اہم نکات

- ۱۔ صبر ہی وہ ذریعہ ہے جس سے درجات حاصل ہو سکتے ہیں۔

قُلْ مَا يَعْبُؤُاِبِكُمْ رَبِّي لَوْلَا
۷۔ کہہ دیجیے: اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو

دُعَاؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ
يَكُونُ لِرَأْمَا ۝

میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا، اب تم نے
تکذیب کی ہے اس لیے (سزا) لازمی ہوگی۔

تشریح کلمات

يَعْبُوًا: (ع ب ء) العبء الثقل وزن کو کہتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ قُلْ مَا يَعْبُوْا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ: ایک تفسیر یہ ہے: کہہ دیجیے میرا رب تم کو کوئی وزن نہ دیتا، تمہارا وجود و عدم برابر ہے لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں۔ اس تفسیر کے مطابق انسان کو وزن دینے والی چیز دعا ہے۔ نجات کے لیے واحد ذریعہ دعا ہے۔ بندگی سے انسان کو قدر و قیمت ملتی ہے اور دعا سے بندگی ملتی ہے۔

دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دُعَاؤُكُمْ تمہاری عبادت نہ ہوتی تو تمہارا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ تیسری تفسیر یہ: لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ اگر تمہارے رب کی طرف سے دعوة الی الحق نہ ہوتی تو تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ تمہیں زندگی دی ہے اور زندہ رکھنا چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ تم کو حق کی دعوت پہنچ جائے۔ یہی تمہاری غرض خلقت ہے۔ اسی کے قریب ہے یہ فرمان:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ
وَآمَنْتُمْ... ل

اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں
عذاب دے کر کیا کرے گا؟

۲۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ: لیکن تم نے اس حق کی دعوت کی تکذیب کی ہے۔ اسے ٹھکرا دیا ہے۔ اب تمہارا کوئی وزن نہیں رہا۔ تمہارا وجود و عدم برابر ہے چونکہ تم نے اپنی غرض خلقت کو ٹھکرا دیا ہے۔

یہ تیسری تفسیر ذیل آیت کے ساتھ مربوط ہے لہذا میرے نزدیک یہی تفسیر سیاق آیت کے مطابق ہے۔
۳۔ فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَأْمَا: اس تکذیب کی وجہ سے تم اللہ کے حتمی قانون کی زد میں آجاتے ہو۔

وہ ہے عذاب ابدی۔ اب عذاب تم پر لازم ہو گیا۔

اہم نکات

۱۔ حق کے داعی کی آواز پہنچانے سے انسان کو اللہ کے نزدیک قیمت مل جاتی ہے۔



خالی



سورة الشعراء



خالی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نام سورہ: سورۃ الشعراء آیت نمبر ۱۲۴ میں شعراء کا ذکر آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ المبارکۃ کا نام الشعراء ہے۔

زمان نزول: یہ سورہ ۲۲۷ آیات پر مشتمل ہے اور کوفی قرآنت کے مطابق طسمہ ایک آیت ہے۔ کوفی قرآنت کی سند امیر المؤمنین حضرت علیؑ سے ملتی ہے اس لیے یہ قرآنت مستند ہے۔

فضیلت: ابی بن کعب راوی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جو سورۃ الشعراء کی تلاوت کرتا ہے اسے نوح، ہود، شعیب، صالح، ابراہیم، عیسیٰ علیہم السلام اور حضرت محمد ﷺ کی تصدیق و تکذیب کرنے والوں کی تعداد کے دس گنا نیکیاں عنایت فرمائے گا۔

(مجمع البیان)

خالی



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 ① طسّم۔
 بنام خدائے رحمن رحیم
 ۱۔ طاسین میم۔

تفسیر آیات

حروف مقطعات کے بارے میں تشریح سورہ بقرہ اور سورہ مریم کی ابتدا میں ہو گئی ہے۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ①
 ۲۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ تِلْكَ: اس سورے میں نازل ہونے والی آیات اس کتاب یعنی قرآن کا حصہ ہیں جو مبین، حق و باطل کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ مبین سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب خود بیان کر رہی ہے کہ میں کلام مخلوق نہیں ہوں۔

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ مُّفْسَكٌ آلَا يَكُونُوا
 ۳۔ شاید اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں
 لاتے آپ اپنی جان کھودیں گے۔
 ② مومنین

تشریح کلمات

بخع: (ب خ ع) کے معنی غم سے اپنے تئیں ہلاک کر ڈالنا کے ہیں۔

تفسیر آیات

سیاق کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی زندگی کے واسطے سے متعلق ہے۔ جس میں رسول اللہ ﷺ تبلیغ رسالت کے مشکل ترین مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ آپ کی رسالت کو نہ صرف یہ کہ پذیرائی نہیں مل رہی بلکہ تکذیب و ایذاء اور اہانت کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے۔ مشرکین کی بڑھتے ہوئے سازشوں سے رسول اللہ ﷺ کا بار رسالت سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس حد تک سنگین کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے: ان مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے شاید آپ اپنی جان کھودیں۔

ایک اور اعتبار سے بھی اس آیت کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں پر کس قدر مہربان تھے کہ ان کے ایمان نہ لانے اور جہنمی بن جانے پر اس قدر دکھ ہوتا کہ اپنی جان کھودیں۔

۴۔ اِگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانیاں
اِیةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقَهُمْ لَهَا
خٰضِعِیْنَ ﴿۶﴾
نازل کر دیں جس کے آگے ان کی گردنیں جھک
جائیں۔

تفسیر آیات

رسول اللہ ﷺ کی تسلی کے لیے فرمایا: آپ کی ذمے داری یہ نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں ایمان لے آئیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم ایک ایسی نشانی آسمان سے نازل کرتے جس کے بعد وہ قہراً تسلیم ہو جاتے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہ تھا لیکن اللہ کو جبری ایمان منظور نہیں، نہ ہی جبری ایمان کی کوئی قیمت ہے۔ جبری ایمان تو فرعون نے بھی قبول کیا تھا۔ جب غرق ہو رہا تھا تو کہا تھا: میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔

اللہ کو جبری ایمان اس لیے قبول نہیں ہے کیونکہ ایمان وہ ہے جس میں ذات الہی کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کی محبت دل میں اتر جائے پھر اسے قبول کرے۔

اَعْنَاقَهُمْ لَهَا خٰضِعِیْنَ: خاضعات نہیں فرمایا چونکہ خضوع عقلاء کی صفت ہے۔ خضوع (جھک جانا) صاحبان عقل کے لیے وصف بن سکتا ہے ورنہ عنق گردن از خود، قصداً نہیں جھکتی۔ بعض نے یہاں سے کہا ہے: اصحاب مضاف محذوف ہے اور خاضعین محاب کی خبر ہے۔

اہم نکات

۱۔ ایمان وہ ہے جس کے سامنے دل جھک جائے، نہ گردن۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۵- اور ان کے پاس رحمن کی طرف سے جو بھی تازہ
مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ① نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱- نصیحت بھی ایسی ذات کی طرف سے آئی ہو جو رحمن ہے، پھر بھی منہ موڑ لیں بڑی بد نصیبی ہے۔
۲- مُحَدَّثٍ: جدید تازہ کو کہتے ہیں۔ یہاں کلام اللہ کے مخلوق، غیر مخلوق ہونے میں ایک کلامی
بحث ہے جو ہماری اس تفسیر کے دائرہ بحث سے خارج ہے۔

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ ۶- یہ تکذیب کر بیٹھے ہیں تو جس چیز کا یہ لوگ
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ① مذاق اڑاتے تھے اب عنقریب اس کی خبریں
آنے والی ہیں۔

تفسیر آیات

۱- فَقَدْ كَذَّبُوا: منہ موڑا تکذیب کی اور استہزاء تک نوبت پہنچی ہے۔ آگے کا مرحلہ ہے تکذیب و
استہزاء کرنے والوں کو اپنی استہزاء کا بدلہ ملنے کا۔ اس آیت میں پیشگوئی فرمائی کہ یہ مرحلہ اب آنے والا ہے۔
دنیا کا عذاب بدر میں پیش آیا اور آخرت کا عذاب ان کا مقدر ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَأْنَا ۷- کیا انہوں نے کبھی زمین کی طرف نہیں دیکھا
فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ① کہ ہم نے اس میں کتنی وافر مقدار میں ہر قسم
کی نفیس نباتات اگائی ہیں؟
۸- اس میں یقیناً ایک نشانی ضرور ہے مگر ان میں
سے اکثر نہیں مانتے۔
۹- اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا،
رحم کرنے والا ہے۔

تفسیر آیات

۱- جو لوگ اللہ کی مدیریت پر ایمان نہیں لاتے اور غیر اللہ کو مدیر و مدبر مانتے ہیں وہ ایک نگاہ زمین

کی طرف نہیں ڈالتے کہ خلافت اور ربوبیت دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ چنانچہ زمین سے ہر عمدہ چیز کا اگانا یا ہر جفت کا اگانا جہاں اللہ کی خلافت پر دلالت کرتا ہے وہاں اللہ کی ربوبیت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کائنات کی تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔

۲۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةًۭ: زمین سے اگانے میں اس بات پر کہ اللہ ہی مدبر ہے ایک نشانی ہے چونکہ مشرکین اللہ کو خالق سمجھتے ہیں، رازق نہیں سمجھتے۔ زمین سے اگانے میں اس بات پر ایک واضح دلیل موجود ہے کہ رزق دینا تخلیق سے جدا عمل نہیں ہو سکتا۔ رزق دینا بھی ایک تخلیقی عمل ہے۔ اللہ دانے کا سینہ چاک کر کے زمین سے ہر قسم کا سبزہ اگا کر رزق دیتا ہے جو ایک تخلیق ہے۔

۳۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ: اے رسول آپ کا رب ہی بالادست ہے۔ تخلیق و تدبیر دونوں پر قادر اور رحیم ہے۔ وہی رازق ہے۔

اہم نکات

۱۔ تخلیق اور تدبیر دو جدا چیزیں نہیں ہیں۔

اِذْ نَادٰى رَبَّكَ مُوْسٰى اِنْ اَنْتَ
الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۰
قَوْمٌ فِرْعَوْنٌ ۙ اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝۱۱

۱۰۔ اور (وہ وقت یاد کریں) جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا (اور کہا) کہ آپ ظالم لوگوں کے پاس جائیں،
۱۱۔ (یعنی) فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟

تفسیر آیات

۱۔ حضرت موسیٰ کا ذکر پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ظالم طاقت کے سامنے اپنی دعوت رسالت پیش کرنے کا حکم دیا۔ اَلَا يَتَّقُوْنَ وہ دعوت بچاؤ کی دعوت تھی۔ بچاؤ کی صورت یہ تھی کہ ظلم اور شرک سے ہاتھ اٹھاؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔

قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ
يُّكَذِّبُوْنَ ۝۱۲
وَيَضِيقُ صَدْرِيْٓ وَلَا يَنْطَلِقُ
لِسَانِيْٓ فَاَرْسِلْ اِلَيَّ هٰرُونَ ۝۱۳

۱۲۔ موسیٰ نے عرض کی: پروردگارا! مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔
۱۳۔ اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان نہیں چلتی سو تو ہارون کو (پیغام) بھیج (کہ میرا ساتھ دیں)۔

تفسیر آیات

۱- خوف تکذیب، ضیق صدر اور زبان کی کندی، تین ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی شریک رسالت کرنے کی درخواست کی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کی طرف بھی وحی کا فرشتہ بھیج دیا۔

۳- إِنْ أَحَافَ: خوف، تکذیب رسالت تھا، خوف بہ نفس نہ تھا۔

۴- وَيَضِيقُ صَدْرِي: ضیق صدر کا مسئلہ حضرت رسول ﷺ کو بھی پیش آیا تھا۔ فرمایا:

وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّاكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا
يَقُولُونَ ۝

اور متحقق ہمیں علم ہے کہ یہ جو کچھ کہ رہے ہیں اس سے آپ یقیناً دل تنگ ہو رہے ہیں۔

۵- وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي: تشریح سورہ طہ آیت ۲۷ میں ہو گئی ہے۔

وَلَهُمْ عَلَىٰ ذُنُوبٍ فَأَخَافُ أَنْ
يَقْتُلُونِ ۝

۱۴- اور ان لوگوں کے لیے میرے ذمے ایک جرم
(کا دعویٰ) بھی ہے لہذا مجھے خوف ہے کہ وہ
مجھے قتل کر دیں گے۔

۱- عَلَىٰ ذُنُوبٍ: میرے ذمے ایک جرم ہے۔ قبلی کے غیر عمدی قتل کی طرف اشارہ ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک فرعونی شخص ایک اسرائیلی سے لڑ رہا ہے تو اسے ایک گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ فرعون کو اس کا پتہ چلا تو اس نے بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکل گئے۔ آج جب واپس فرعون کے دربار میں اعلان رسالت کے لیے جانے کا حکم مل رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خدشہ قدرتی ہے کہ وہ مجھے اس قتل کے الزام میں پھنسا دیں گے، اعلان رسالت کی شاید نوبت ہی نہ آئے۔ اسے جرم فرعونوں کے نظریے کے مطابق کہا ہے کہ وہ اسے گناہ تصور کرتے ہیں۔ سورہ قصص میں تفصیل آنے والی ہے۔

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا
مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ۝

۱۵- فرمایا: ہرگز نہیں! آپ دونوں ہماری نشانیاں لے
کر جائیں کہ ہم آپ کے ساتھ سنتے رہیں گے۔

تفسیر آیات

۱- قَالَ كَلَّا: یعنی وہ ہرگز آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔

۲۔ فَادْهَبَا يَا بَيْتَا: ہماری نشانیاں یعنی معجزات لے کر اس کے پاس جائیں۔
 ۳۔ اِنَّا مَعَكُمْ: وہاں آپ دونوں اکیلے فرعون کے رحم و کرم پر نہیں ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کے اور فرعون کے درمیان ہونے والے مکالمے سن رہے ہوں گے۔

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾
 ۱۶۔ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں اور (اس سے) کہیں: ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔
 ۱۷۔ کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔

تفسیر آیات

۱۔ فرعون کے پاس جا کر پہلے تو اپنی رسالت کا اعلان کرو اور تعبیر یہ اختیار کرو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ اس تعبیر میں فرعون کے مشرکانہ مذہب کی رد اور توحید کی طرف اشارہ ہے۔
 ۲۔ دوسرا یہ کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو صدیوں سے غلام بنائے رکھا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنیادی مقصد بنی اسرائیل کو فرعون کی اسارت سے نجات دلانا تھا۔
 ۳۔ اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ: اِنَّا جمع اور رسول مفرد ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ دونوں کی رسالت بھی ایک اور بھائی ہونے کی وجہ سے ایک جان دو قالب تھے۔
 سورہ طہ میں تو فرمایا:
 فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ... ۱۔
 اور کہیں: ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فَيُنَاوِلِدَاؤَ
 لَبِثْتَ فَيُنَاوِلِدَاؤَ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿۱۸﴾
 ۱۸۔ فرعون نے کہا: کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے ہاں نہیں پالا؟ اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں بسر کیے۔
 ۱۹۔ اور تو کر گیا اپنی وہ کرتوت جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔
 اَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹﴾

تفسیر آیات

۱۔ دونوں فرعون کے دربار میں حاضر ہو کر اعلان رسالت کرتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیتا اور کہتا ہے: تو وہی ہے جسے ہم نے پالا ہے اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں بسر کئے؟ کیا اس کا یہ

صلہ ہے کہ آج ہمارے دین، عقائد اور ہماری روایات کو یکسر مسترد کر کے کوئی نیا دین، نئے عقائد لے کر آئے ہو؟ ہماری مملکت سے بغاوت کر کے کسی اور معبود کی طرف دعوت دیتے ہو؟

۲- وَقَعَلَتْ: اور تو نے ہمارے بندے کو قتل کر کے بھی ہمارے احسانات کا اچھا بدلہ دیا۔

۳- وَ أَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ: اور تو کفرانِ نعمت کرنے والوں میں سے ہو گیا ہے۔ آج نبوت کا دعویٰ

کرتا ہے؟ کافر، یہاں کفرانِ نعمت کے معنوں میں ہے۔ بعض کے نزدیک دینِ فرعون کے منکر ہونے کی وجہ سے فرعون کے دین کا کافر کہا ہے۔

قَالَ فَعَلْتَهَا إِذَا وَ أَنَا مِنَ
الضَّالِّينَ ۝۲۰

۲۰- موسیٰ نے کہا: ہاں اس وقت وہ حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں سے تھا۔

تفسیر آیات

۱- حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی تائید پر یقین تھا اس لیے قتل کا اعتراف کر لیا مگر اس کی توجیہ فرمائی۔

۲- إِذَا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ: توجیہ یہ تھی کہ یہ کام مجھ سے سرزد ہوا، یہ عمدی نہ تھا بلکہ ایک خطا

تھی۔ گھونسا قتل کی نیت سے نہ تھا بلکہ صرف دفاع یا تنبیہ کے لیے تھا جس کا نتیجہ قتل پر ختم ہوا۔ اس کا میں نے قصد نہیں کیا تھا۔ مِنَ الضَّالِّينَ کی تفسیر بعض نے من الجاہلین کی ہے کہ اس اقدام کے نتیجے کا مجھے علم نہ تھا۔

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ
فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي
مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝۲۱

۲۱- اسی لیے جب میں نے تم لوگوں سے خوف محسوس کیا تو میں نے تم سے گریز کیا پھر میرے رب نے مجھے حکمت عنایت فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا۔

تفسیر آیات

۳- فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ: اس سے معلوم ہوا کہ جب جان کا خطرہ ہے تو ہر وسیلے

سے اپنی جان بچانی چاہیے، اگر جان دینے میں اپنے مشن اور اپنی امت کی مصلحت نہ ہو۔

۴- فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا: پھر میرے رب نے مجھے حکم عنایت فرما ڈالا۔ حکم سے مراد حق

اور واقع کے مطابق اہل فیصلہ ہے۔ یعنی جو فیصلہ واقع کے مطابق ہو وہ حکم ہے۔ چنانچہ واقعہ بنی کو حکم

کہتے ہیں۔ حکم سے مراد نبوت نہیں ہو سکتی چونکہ قرآن میں حکم اور نبوت جدا ذکر ہوا: اَنْبِيَاهُمُ الْكُتُبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ...۔

۵۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ: اور مجھے مرسلین میں سے قرار دیا۔ اس تعبیر میں ضمناً یہ بتا دیا کہ میں کوئی انوکھا مرسل نہیں ہوں۔ دیگر مرسلین بھی آئے ہیں۔ میں ان میں سے ہوں۔

۲۲۔ اور تم مجھ پر اس بات کا احسان جتاتے ہو
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ
عَبَدْتُ بَنِي اِسْرَائِيلَ ﴿۲۲﴾
کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا ہے؟
(یہ تو غلامی تھی احسان نہیں تھا)۔

تفسیر آیات

۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں الزام خود فرعون پر عائد کرتے ہیں: تیرے گھر میں پرورش پانے کی نوبت خود تیرے ظلم و ستم کی وجہ سے آئی کہ میری والدہ نے تیرے ہی خوف سے مجھے دریا میں ڈال دیا تھا ورنہ اپنے اسی گھر میں پرورش پاتا۔

۲۔ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَدْتُ: یہ درحقیقت ایسا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا۔ اس غلام بنانے کا احسان جتاتے ہو۔ غلام بنانا ظلم ہے، احسان نہیں۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾
۲۳۔ فرعون نے کہا: اور رب العالمین کیا ہے؟

تفسیر آیات

۳۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، فرعونوں کے مسلمات کے خلاف تھا۔ رب العالمین ان کی ثقافت میں غیر مانوس لفظ تھا چونکہ وہ عالمین کے لیے ایک نہیں، کئی ارباب کے قائل تھے۔ عالمین کو کئی شعبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اس لیے فرعون نے تعجب سے پوچھا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا:

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ
۲۴۔ موسیٰ نے کہا: آسمانوں اور زمین اور جو کچھ

وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٣٦﴾
ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔

تفسیر آیات

۱۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے العالمین کی وضاحت زیادہ محسوس انداز میں فرمائی۔ عالمین میں آسمان، زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں سب شامل ہیں۔ ان سب کا ایک رب ہے۔ اس کی طرف سے آیا ہوں۔

۲۔ إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ: اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ ان کو عالمین کا ایک رب ہونے پر تو یقین نہیں تھا البتہ ایک خالق ہونے پر یقین تھا اور کائنات کا نظام بھی ایک ہونے پر یقین تھا۔ فرمایا: اگر تمہیں ان باتوں پر یقین ہے تو یقین کرو رب بھی ایک ہی ہے۔

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٣٥﴾ ۲۵۔ فرعون نے اپنے اردگرد کے درباریوں سے کہا: کیا تم سنتے نہیں ہو؟

تفسیر آیات

۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب بھی ان کے لیے اجنبی اور غیر معقول تھا۔ اس لیے تمسخر کے انداز میں اپنے درباریوں سے کہا: سنتے ہو یہ کیا نامعقول بات کہہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وضاحت میں فرعونوں کے حساس ترین دینی، سیاسی نظریے پر حملہ آور ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ ﴿٣٦﴾ ۲۶۔ موسیٰ نے کہا: وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ خود تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ براہ راست حملہ۔ فرعون کو معبود سے اتار کر بندہ بنا دیا۔ اس کے اقتدار کی قانونی حیثیت کو چیلنج کر دیا چونکہ فرعونوں کے عقیدے کے مطابق سورج ان کا رب اعلیٰ ہے۔ اسے وہ رع کے نام سے پکارتے تھے اور بادشاہ کو رب اعلیٰ رع کا مظہر سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے موجودہ فرعون اور اس کے آباء و اجداد کی باشاہت کی قانونی حیثیت پر خط بطلان کھینچ گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس تدریجی استدلال سے فرعون گھبرا گیا۔ عالمین سے شروع فرمایا اور خود فرعون کی ذات پر پہنچا دیا۔ رَبُّكُمْ خُود تَمَّارَ رُبِّ كِي طَرَف سَآيَا هَوْنِ جَسِ طَرَفَرَعُونِ كَ حَوَاسِ اِزْ كُنَّ كَآ: كَآ:

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ ۲۷- فرعون نے (لوگوں سے) کہا: جو رسول تمہاری
إِيكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۲۷﴾ طرف بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے۔

تفسیر آیات

۱- حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منطق میں موجود اثر کو کم کرنے کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ذاتی حملہ کرتا اور کہتا ہے: جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا (ازراہ تفسیر) وہ دیوانہ ہے۔

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ ۲۸- موسیٰ نے کہا: وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ
مَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾ ان دونوں کے درمیان ہے کا پروردگار ہے اگر
تم عقل رکھتے ہو۔

تفسیر آیات

۱- خود فرعون اور اس کے آبا و اجداد کو ایک رب کے بندے اور محکوم بتانے کے بعد جغرافیائی اعتبار سے محسوس ترین علاقوں کا ذکر فرمایا کہ جس رب کی طرف سے آیا ہوں وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے: میرا رب مشرق و مغرب کا رب ہے۔ اس لیے شروق و غروب اس کے ہاتھ میں ہیں۔

۳- إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ: اگر تم عقل سے کام لو تو تمہیں معلوم ہے کہ مشرق سے جس چیز کا طلوع، مغرب میں جس چیز کا غروب ہوتا ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ کیا تمہارے ہاتھ میں ہے یا میرے رب کے ہاتھ میں؟ اس جملے سے فرعون کے ان کے رب اعلیٰ راع یعنی سورج کا نمائندہ ہونے کے نظریے پر کاری ضرب لگائی۔

یہاں پر فرعون کی قانونی حیثیت پر بھرپور حملہ ہوا تو ہر جابر کی طرح فرعون نے بھی منطق کے مقابلے میں اپنی طاقت کے استعمال کا عندیہ دیا۔

قَالَ لَيْنِ اتَّخَذَتِ الْهَآغِيرِي ۲۹- فرعون نے کہا: اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو

لَا جَعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٣٠﴾ معبود بنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں شامل کروں گا۔

تفسیر آیات

فرعون نے دیکھا کہ غیر اللہ کی الوہیت کا بت چور چور ہو رہا ہے جس میں سرفہرست فرعونیت ہے تو ہر طاغوت کی طرح وہی حربہ، ظلم و ستم، زندان کے استعمال کا اظہار ہوا۔ منطق کے مقابلے میں جب مادی طاقت کی نوبت آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی طاقت کے مقابلے کے مظاہرے کا اظہار فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام لفظ رب استعمال کرتے ہیں۔ فرعون جو اب میں لفظ الہ (معبود) استعمال کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ رب ہی معبود ہوتا ہے۔

قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣١﴾ ۳۰۔ موسیٰ نے کہا: اگر میں تیرے پاس واضح چیز (معجزہ) لے آؤں تو؟

اس بات سے فرعون کو پریشانی ہوئی ہوگی چونکہ وہ سرعام اس چیلنج کو رد نہیں کر سکتا تھا۔

قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿٣٢﴾ ۳۱۔ فرعون نے کہا: اگر تم سچے ہو تو اسے لے آؤ۔

اگر تو دعوائے رسالت میں سچا ہے یا معجزہ پیش کرنے پر قادر ہونے کے دعویٰ میں سچا ہے۔

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾ ۳۲۔ پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ دفعتاً نمایاں اژدھا بن گیا۔

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِیْنَ ﴿٣٤﴾ ۳۳۔ اور (گریبان سے) اپنا ہاتھ نکالا تو وہ تمام ناظرین کے لیے چمک رہا تھا۔

قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ عَلَیْمٌ ﴿٣٥﴾ ۳۴۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے درباریوں سے کہا: یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔

یُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٦﴾ ۳۵۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟

تفسیر آیات

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو عظیم معجزے دیکھے تو فرعون بدحواس ہو گیا اور اپنی فرعونیت کے باوجود اپنے درباریوں کی طرف رجوع کیا اور رعونت چھوڑ کر مشورہ طلب کیا۔ مشورہ یہ ملا: جادو کے ذریعہ ہی اس معجزے کو باطل قرار دیا جاسکتا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو: الاعراف آیت ۱۱۰۔

يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَكَ: فرعون کہتا ہے: موسیٰ ہمیں مصر کی سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مطالبہ تھا: ہمیں مصر کی سرزمین سے نکلنے، اپنے وطن جانے کی اجازت دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اس کائنات کا ایک ہی رب ہے جس کا میں نمائندہ ہوں تو فرعون کی بادشاہت کی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا نمائندہ سمجھتا تھا اور سورج ان کے مذہب میں اقتدار کا رب تھا۔

قَالُوا أَرْجَاهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي ۳۶۔ وہ کہنے لگے: اسے اور اس کے بھائی کو

الْمَدَائِنِ حَشِيرِينَ ﴿۳۶﴾ مہلت دو اور شہروں میں ہر کارے بھیج دو۔

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلَيْهِ ﴿۳۷﴾ ۳۷۔ کہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لے آئیں۔

قَالُوا أَرْجَاهُ: تشریح کے لیے ملاحظہ ہو: الاعراف: ۱۱۲

فَجَمَعَ السَّحْرَةَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ ۳۸۔ چنانچہ مقررہ دن کے مقررہ وقت پر جادوگر

مَعْلُومٍ ﴿۳۸﴾ جمع کر لیے گئے۔

تفسیر آیات

مقررہ دن سے مراد فرعونوں کے تہوار کا دن تھا۔ بغوی نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اتفاق سے وہ دن نوروز اور شنبہ کا دن تھا۔ (تفسیر طبری) بنا بر صحت روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا دن، نوروز کا دن تھا۔

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ ۳۹۔ اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو جاؤ

مُجْتَمِعُونَ ﴿۳۹﴾ گے؟

لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحْرَةَ إِنَّ ۴۰۔ شاید ہم جادوگروں کے پیچھے چلیں اگر یہ

كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١٠﴾ لوگ غالب رہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے لوگوں کے جذبات کو کس طرح ابھارا ہوگا اور سرکاری اعلان عام اور پروپیگنڈہ کے ذریعے اس روز کو عظیم سے عظیم تر بنانے کی کوشش کی گئی ہوگی کیونکہ ان کے زعم میں یہ روز ان کی فتح کا روز تھا۔

۲۔ نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ: تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے فرعونی مذہب میں تزلزل آیا تھا۔ اپنے دین کے استحکام کے لیے ان کی ساری امیدیں جادوگروں سے وابستہ تھیں۔

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأَجْرُ الْإِنَّمَانِ ﴿١١﴾
 ۱۱۔ جب جادوگر آگئے تو فرعون سے کہنے لگے: اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے کوئی صلہ بھی نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١﴾ ہوگا؟

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١٢﴾
 ۱۲۔ فرعون نے کہا: ہاں! اور اس صورت میں تو تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔
 ان آیات کی تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیں الاعراف: آیت ۱۱۳۔

قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿١٣﴾
 ۱۳۔ موسیٰ نے ان سے کہا: تمہیں جو پھینکنا ہے پھینکو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باطل کو اپنا تیر چلانے کا موقع دیا۔ جب باطل اپنا ترکش خالی کر دے تو اس فریب کا پردہ چاک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

فَأَلْقُوا جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَ قَالُوا بَعْرَةٌ فَرَعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿١٤﴾
 ۱۴۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے: فرعون کے جاہ و جلال کی قسم بے شک ہم ہی غالب آئیں گے۔

تفسیر آیات

چنانچہ ان ساحروں نے اپنے جادو کا بھرپور مظاہرہ کیا جسے الاعراف میں وَجَاءَ وَبِسِحْرِ عَظِيمٍ لے فرمایا اور سورہ طہ میں فرمایا:

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ۝ ۲

پس موسیٰ نے اپنے اندر خوف محسوس کیا۔
کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف لاحق ہوا کہ کہیں باطل کا غلبہ نہ ہو جائے۔ اس آیت میں اس جادو کا مظاہرہ عظیم ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ جادو دیکھ کر وہ کہنے لگے: فرعون کی جاہ و جلالت کی قسم ہم جیت گئے۔

اہم نکات

۱۔ باطل ہمیشہ وقتی اوچھل کود کو اپنی جیت قرار دیتا ہے۔

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
تَلْقُفٌ مَّا يَافُكُونَ ۝ ۴۵

۴۵۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اس نے دفعتاً ان کے سارے خود ساختہ دھندے کو نگل لیا۔

تشریح کلمات

تَلْقُفٌ: (ل ق ف) لقف کے معنی کسی چیز کو ہوشیاری سے لینے کے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ تَلْقُفٌ: نکلنے کے معنوں میں ہے جسے لسان العرب نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔
سورہ الاعراف میں ہم نے بیان کیا ہے کہ بعض حضرات کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ عصائے موسیٰ، لاشیوں اور رسیوں کو نگلا نہیں تھا بلکہ ان کے حقیقت پر مبنی نہ ہونے اور جادو ہونے کو ظاہر کیا تھا۔ آگے وہ اس بات کی وضاحت نہیں کر سکے کہ ایک عصا سے یہ کام کیسے لیا گیا۔ اگر آپ معجزات کو طبعیاتی قوانین کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں تو عصائے موسیٰ سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ جادو اور حقیقت میں فرق نمایاں کرے۔

۴۶۔ اس پر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
۴۷۔ کہنے لگے: ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے،
۴۸۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ۝ ۴۶

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۴۷

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۝ ۴۸

۱۔ حقیقی رب کی معرفت کا لازمی نتیجہ سجدہ ہے۔ پھر رب العالمین کا اقرار توحید کا اقرار ہے اور رب موسیٰ، رسالت کا اقرار ہے۔

قَالَ امْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنُ لَكُمْ
إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَمَا الَّذِي عَلَّمَكُمُ
السَّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
لَا قَطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
مِنْ خِلَافٍ وَلَا وُصَلْبِنَّكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

۳۹۔ فرعون نے کہا: میری اجازت سے پہلے تم موسیٰ کو مان گئے؟ یقیناً یہ (موسیٰ) تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے ابھی تمہیں (تمہارا انجام) معلوم ہو جائے گا، میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کٹوا دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی پر لٹکا دوں گا۔

تفسیر آیات

۱۔ جب عبادت گاہوں کے کاہنوں (جادوگروں) کی طرف سے ایمان کا اعلان ہوا تو فرعون کی شہنشاہیت کی قانونی حیثیت متزلزل ہوگئی کیونکہ وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا شرعی اور قانونی نمائندہ تصور کرتا تھا۔ میری اجازت سے پہلے ایمان کیوں لائے۔ موسیٰ تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ یہ دونوں باتیں رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں ورنہ کسے نہیں معلوم کہ یہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد نہیں تھے۔ ان کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے نہیں خود فرعون سے تھا۔ نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں میں کوئی سابقہ ربط رہ چکا تھا۔

۳۔ لَا قَطْعَنَ أَيْدِيكُمْ: یہ دھمکی اس غرض سے دی گئی کہ وہ اپنے اس ایمان سے تائب ہو جائیں اور یہ اقرار کر لیں کہ ہمیں یہ سب کچھ موسیٰ نے پڑھایا تھا لیکن فرعون اس میں کامیاب نہیں ہوا۔

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

۵۰۔ وہ بولے کوئی حرج نہیں ہم اپنے رب کے حضور لوٹ جائیں گے۔

۱۔ کوئی پرواہ نہیں! خواہ ہاتھ پاؤں کٹ جائیں یا سولی چڑھ جائیں۔ جس کا نتیجہ رب کے پاس پہنچ جانا ہو اس موت سے ڈرا نہیں کرتے بلکہ موت کی تمنا کی جاتی ہے۔

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا ۗ ۵۱۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں

أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ سے درگزر فرمائے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

تفسیر آیات

۲۔ قوم فرعون میں اول المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا اور اول المؤمنین ہونے کی وجہ سے ایثار و ایمان کی مثال قائم ہو جاتی ہے جسے آنے والی نسلیں مشعل راہ بناتی ہیں۔ اس لیے مغفرت کی امید کا اظہار ہوا۔

اہم نکات

۱۔ ایمان و ایثار کے بعد مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔
اس واقع کے بعد سے لے کر بنی اسرائیل کے خروج تک کے واقعات سورۃ الاعراف میں بیان ہوئے ہیں۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسِرْ ۖ
بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٥٢﴾ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل پڑیں یقیناً آپ کا تعاقب کیا جائے گا۔

تفسیر آیات

واقعہ سحر میں کامیابی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عرصہ مصر میں گزارا۔ بنی اسرائیل، اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور فرعون کی اسیری سے نجات کے لیے ساری امیدیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وابستہ رکھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ رات کے وقت نکل پڑیں اور ساتھ یہ خبر بھی دی کہ فرعون تمہارا تعاقب کرنے والا ہے۔

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ
حٰشِرِينَ ﴿٥٣﴾ (ادھر) فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے،

۱۔ فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب کے لیے شہروں سے فوجیں بلاتا ہے اور ساتھ یہ اعلان بھی کرتا ہے:
إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٣﴾ (ان کے ساتھ یہ کہلا بھیجا) کہ بے شک یہ لوگ چھوٹی سی جماعت ہیں۔

۲۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں۔ ان کی سرکوبی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل پوری قوم فرعون کے لشکر کے مقابلے میں جھوٹی جماعت تھی۔ اس سے یہ روایت قرین واقع معلوم نہیں ہوتی جس میں کہا گیا ہے بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ سے زائد تھی۔

وَإِنَّهُمْ لَنَا لِعَايِبُونَ ﴿۵۵﴾ اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے۔

۳۔ فرعون کو غصہ اس بات نے دلایا کہ ہماری مرضی کے خلاف ہمارے ہاتھ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہماری غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ہماری اسیری سے بھاگنا چاہتے ہیں۔

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حٰذِرُونَ ﴿۵۶﴾ اور اب ہم سب پوری طرح مستعد ہیں۔

۴۔ حٰذِرُونَ: کے معنی مستعد سے کیے ہیں کہ اب ہم انہیں اپنی اسیری میں دوبارہ واپس لانے اور انہیں اس جرم کی سزا دینے کے لیے پوری طرح مستعد ہیں۔

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتٍ وَ عَيْون ﴿۵۷﴾ چنانچہ ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال دیا ہے۔

وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۵۸﴾ اور خزانوں اور بہترین رہائش گاہوں سے بھی۔

تفسیر آیات

چنانچہ اس الہی تدبیر کے نتیجے میں فرعون اور فرعون نے اپنے باغات، چشموں، خزانوں اور عمدہ رہائش گاہوں (مَقَامٍ كَرِيمٍ) کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل آئے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ نہ صرف بنی اسرائیل کو اپنی غلامی میں واپس نہیں لے سکیں گے بلکہ وہ اپنے عیش و نوش میں بھی واپس نہیں جاسکیں گے۔

كَذٰلِكَ ۙ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۵۹﴾ اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث

بنادیا۔

تفسیر آیات

فرعونوں کو ان کے باغات اور چشموں سے نکالنے کے بعد بنی اسرائیل کو فلسطین میں ان جیسے

باغات اور چشموں کا وارث بنایا، خود انہیں چیزوں کا نہیں کیونکہ فرعون کے غرق آب ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر واپس نہیں گئے۔ اس پر قرآنی تصریحات موجود ہیں کہ یہ قوم سمندر عبور کر کے وادی سینا کی طرف نکل گئی، پھر فلسطین میں آباد ہو گئی۔ موجودہ توریت کی بھی تصریح یہی ہے۔ کسی تاریخ میں بھی ان کے مصر واپس جانے کا ذکر نہیں ملتا۔

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ چنانچہ صبح ہوتے ہی (فرعون کے) لوگ ان کے تعاقب میں نکل پڑے۔

۱۔ صبح طلوع آفتاب کے ساتھ یہ لوگ بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلے۔ مُشْرِقِينَ کے معنی بعض نے یہ کیے ہیں کہ فرعونوں نے بنی اسرائیل کا مشرق کی طرف پیچھا کیا۔ چونکہ بیت المقدس مصر سے مشرق کی طرف ہے۔

فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَ قَالُوا أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦١﴾ جب دونوں گروہ ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا: ہم تو پکڑے جانے والے ہیں۔

۲۔ قَالُوا أَصْحَابُ مُوسَىٰ: حضرت موسیٰ عليه السلام کے صحابیوں نے کہا: ہم تو پکڑے جانے والے ہیں۔ ظاہری صورت تو یہی تھی۔ ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف لشکر فرعون کا سمندر ہے۔ فرعون، جو ان کی اولاد کو قتل کرتا رہا، ان پر اس وقت مظالم کرتا رہا جب بنی اسرائیل اس کی اسیری میں پر امن تھے۔ اب تو ہم ان کی زد میں آنے والے ہیں۔ اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ عليه السلام کے وفادار اصحاب تھے تاہم رازداں نہیں تھے۔ ظاہری حالات دیکھ کر گھبرانا قدرتی بات ہے مگر صرف رازداں کو علم تھا کہ کون کس کی زد میں آنے والا ہے۔

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي ﴿٦٢﴾ موسیٰ نے کہا: ہرگز نہیں! میرا پروردگار یقیناً میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھا دے گا۔

تفسیر آیات

حضرت موسیٰ عليه السلام فرماتے ہیں: مَعِيَ رَبِّي میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ نصرت اور حمایت کی معیت ہے۔ ابتدائے رسالت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا: اِنِّى مَعَكُمْ...۔ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی خصوصی معیت پر بھروسہ تھا کہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ وہی بتا دے گا۔
 فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ ۖ ۶۳۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی اپنا عصا
 بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ ۖ سمندر پر ماریں چنانچہ دریا پھٹ گیا اور اس کا
 كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۖ ۶۴۔ ہر حصہ عظیم پہاڑ کی طرح ہو گیا۔

تشریح کلمات

انفلق: (ف ل ق) الفلق کے معنی کسی چیز کو پھاڑنے اور اس کے ٹکڑے ایک دوسرے سے الگ کرنے کے ہیں۔

الطود: (ط و د) الطود بلند پہاڑ۔

تفسیر آیات

بنی اسرائیل جب مشکل ترین صورت حال میں دوچار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ بنی اسرائیل کو ایک واضح معجزے کے ذریعہ نجات دلانا ارادہ الہی سے مربوط ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ یہ نجات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی عمل سے مربوط ہو۔ چنانچہ عصائے موسیٰ مارنے سے سمندر شق ہو گیا اور دونوں طرف پانی بلند پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ نہ صرف سمندر شق ہو گیا بلکہ راستہ خشک بھی ہو گیا تھا۔ سورہ طہ میں فرمایا:
 فَأَضْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا... ۱۔ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دیں۔
 لہذا اس واضح عبارت اور صراحت کے خلاف یہ کہنا کہ بنی اسرائیل ساحل سمندر سے بہ سلامت گزر گئے اور فرعونوں کو سمندر سے اٹھنے والے ایک طوفان نے غرق کر دیا یا سمندر کے مدوجزر سے غرق ہو گیا، قرآن کی صراحت کو مسترد کر دینے کے مترادف ہے۔

وَأَرْزَلْنَاهُمُ الْآخَرِينَ ۖ ۶۴۔ اور وہاں ہم نے دوسرے گروہ کو بھی نزدیک
 کر دیا،

وَأَرْزَلْنَاهُمُ الْآخَرِينَ: فرعونوں کو سمندر کے اس راستے کے قریب لے آیا۔ تھے جہاں سمندر شق ہو گیا تھا وہاں
 تک ان کو لے آیا اور اسی راستہ پر چلا دیا۔

وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ ۖ ۶۵۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں

أَجْمَعِينَ ﴿١٥﴾ کو بچالیا۔
 ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْرَيْنَ ﴿١٦﴾ اس کے بعد دوسروں کو غرق کر دیا۔
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّوَمَا كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ اس واقعے میں ایک نشانی ہے پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔

تفسیر آیات

۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھیوں کو نجات دینے اور فرعون و فرعونوں کو غرق کرنے میں اس بات کی نشانی اور دلیل تھی کہ اللہ ہی رب العالمین ہے۔ نجات دینا، عذاب دینا، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، فرعون اور فرعونوں کے خود ساختہ خداؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
 وَمَا كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ: ان تمام معجزات اور دلائل کے باوجود اکثر لوگوں نے اللہ کو رب العالمین تسلیم نہیں کیا، اپنے موہوم ارباب کے ساتھ وابستہ رہے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٨﴾ اور یقیناً آپ کا پروردگار ہی بڑا غالب آنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

تفسیر آیات

اپنے رسول ﷺ کی طرف خطاب کا رخ ہو گیا۔ جس میں دو باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی:
 i۔ آپ کا رب، الْعَزِيزُ ہے، بالادست ہے۔ جس طرح قوم فرعون کا انجام ہلاکت پر منتہی ہو گیا، ہر مجرم قوم کا یہی حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غالب آنے والا کوئی نہیں۔
 ii۔ الرَّحِيمُ: وہ جہاں دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے بالادست ہے وہاں اپنے بندوں کو نجات دینے کے لیے مہربان ہے۔ لہذا اللہ کی قہاریت کے تحت دشمن کی نابودی اور رحیمیت کے تحت دوستوں کی نجات کی توقع رکھو۔

اہم نکات

- ۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تمام معجزے دکھائے جو اللہ ہی کے مدبر اور رب ہونے کے دلائل پر مبنی تھے۔
- ۲۔ اللہ اپنی قہاریت کے تحت دشمنوں کو تباہ کرتا ہے اور رحیمیت کے تحت دوستوں کو نجات دیتا ہے۔

وَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٩﴾ اور انہیں ابراہیم کا واقعہ (بھی) سنا دیجیے:

اِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَ قَوْمِهِ مَا ٤٠۔ انہوں نے اپنے باپ (چچا) اور اپنی قوم
تَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ سے کہا: تم کس چیز کو پوجتے ہو؟
قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظُرُ لَهَا ٤١۔ انہوں نے جواب دیا: ہم بتوں کو پوجتے
عِكْفِينَ ﴿٤١﴾ ہیں اور اس پر ہم قائم رہتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ بَنَاتٍ: قریش کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیں۔ اول تو قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے کے بھی مدعی ہیں۔ ثانیاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایسے نقوش ہیں جنہیں سامنے رکھنے سے جرأت اور ہمت میں اضافہ ہوتا اور ان کی سیرت میں اپنے مشن کی کامیابی کی نوید ملتی ہے۔

۲۔ مَا تَعْبُدُونَ: اپنے چچا اور قوم سے ایک سوال اٹھاتے ہیں جس کا مقصد گفتگو کو آگے چلانا ہے ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم ہے کہ وہ کس چیز کی پوجا کرتے ہیں۔

۳۔ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا: کہا: ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔

عہد ابراہیمی میں لوگ ستارہ پرست تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ روئے زمین پر گزرنے والے واقعات کا ستاروں کے ساتھ تعلق ہے اس سے وہ ستاروں کی تعظیم کرنے لگے۔ پھر وہ انہی ستاروں کو مدبر عالم کہنے لگے۔ پھر ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ چونکہ ستارے غروب ہو کر غائب ہو جاتے ہیں اس لیے ان کی شبیہ بنانے کی رسم بھی شروع ہو گئی۔ پھر رفتہ رفتہ مدیریت کے شعبے بنائے گئے۔ ان میں سے کسی ستارے کو کسی ایک شعبہ سے مربوط سمجھا گیا۔ چنانچہ ستارہ زہرہ کیف و سرور کا رب ہے۔ اسے ایک جوان لڑکی کی شکل دے دی گئی۔ خون خرابہ کو مرنخ کے ساتھ اور علم و حرمت کو عطار کے ساتھ مربوط سمجھا گیا وغیرہ۔

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ ٤٢۔ ابراہیم نے کہا: جب تم انہیں پکارتے ہو تو
تَدْعُونَ ﴿٤٢﴾ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟
أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٤٣﴾ ٤٣۔ یا تمہیں فائدہ یا ضرر دیتے ہیں؟
قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ ٤٤۔ انہوں نے کہا: (نہیں) بلکہ ہم نے تو اپنے
يَفْعَلُونَ ﴿٤٤﴾ باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے۔

تفسیر آیات

کسی کی بندگی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندگی کرنے والے کے امور زندگی اس معبود کے ہاتھ میں ہیں، اسے راضی رکھنے کے لیے اس کی عبادت کی جائے۔ حاجت کے وقت اسے پکارا جائے تاکہ اس پکار کو سن کر وہ اس کی حاجت روائی کرے۔ یہ بت چونکہ بے شعور جامد ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی تدبیری نقطے کو سامنے رکھ کر فرمایا: کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا وہ تمہیں نفع و ضرر پہنچا سکتے ہیں؟

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا: ان کے پاس کوئی منطق اور دلیل نہیں تھی۔ صرف اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کا حوالہ دیا۔

۷۵۔ ابراہیم نے کہا: کیا تم نے ان کی حالت دیکھی ہے جنہیں تم پوجتے ہو؟
قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۷۵﴾
۷۶۔ تم اور تمہارے گزشتہ باپ دادا بھی (پوجتے رہے ہیں)۔
أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿۷۶﴾
۷۷۔ یقیناً یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے،
فَاللَّهُمَّ عَذِّبْ لِي الْأَرْبَابَ الْعَالَمِينَ ﴿۷۷﴾

تفسیر آیات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم سوچ لیا ہے کہ جنہیں پوجتے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا میرے دشمن ہیں۔ جنہیں تم پوجتے ہو ان کی بندگی اور جن کا تم حوالہ دیتے ہو ان کی اندھی تقلید، یہ دونوں میرے لیے مہلک ہیں۔ ان سے اسی طرح بیزار ہوتا ہوں جس طرح ایک دشمن سے بیزار ہوا جاتا ہوتا ہے۔ یہ بت میری دعوت کی راہ میں رکاوٹ اور دشمنوں کی طرح میرے لیے سد راہ ہیں۔ اسی طرح یہ بت اپنی پوجا کرنے والوں کے لیے بھی سد راہ ہیں۔ اس لیے یہ ان کے بھی دشمن ہیں ورنہ بت جمادات ہیں۔ نہ دوست بن سکتے ہیں نہ دشمن۔

اللَّارِبَ الْعَالَمِينَ: اس کائنات میں رب العالمین ہی میرا دوست ہے۔ اسی سے وابستہ رہتا ہوں۔ کیوں؟

۷۸۔ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت
الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿۷۸﴾

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٤٩﴾ دیتا ہے،
 ۴۹۔ اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے،
 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٥٠﴾ ۸۰۔ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے
 شفا دیتا ہے۔
 وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٥١﴾ ۸۱۔ اور وہی مجھے موت دے گا پھر مجھے زندگی
 عطا کرے گا۔

تفسیر آیات

حضرت ابراہیم علیہ السلامؑ رب العالمین سے اپنی وابستگی کے دلائل پیش فرما رہے ہیں۔
 ۱۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرا خالق ہے جسے مشرکین بھی مانتے ہیں لہذا وہ میرے امور زندگی کا
 مدبر ہے کیونکہ خلق و تدبیر ناقابل تفریق ہے۔ جو خالق ہے وہی تدبیر کر سکتا ہے اور جو خالق نہیں وہ ان امور
 کی تدبیر ہی نہیں کر سکتا جنہیں اس نے وجود نہیں دیا۔ ان کے رگ و پے کو وہ کیا جانے۔

۲۔ فَهُوَ يَهْدِينِ: ان تدبیری امور میں ایک اہم چیز ہدایت و رہنمائی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے
 ہر قدم اور آخرت کی نجات و سعادت کے لیے اس کی ہدایت کی ضرورت ہے جو اس نے میرے وجود میں
 ودیعت فرمائی ہے۔ فَهُوَ يَهْدِينِ کی فاء تفریع سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت، تخلیق کا نتیجہ ہے چونکہ
 وہی میرا خالق ہے پس وہی میری ہدایت کرتا ہے:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ
 ثُمَّ هَدَى ﴿٥١﴾
 موسیٰ نے کہا: ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی
 خلقت بخشی پھر ہدایت دی۔

اس کی طرف سے ملنے والی ہدایات میں میری بقا و ارتقا کا راز مضمون ہے۔ اس کی عطا کردہ ہدایت نہ
 ہوتی تو میں نہ ماں کی چھاتی چوسنے کا سلیقہ رکھتا، نہ میرا معدہ ماں کے دودھ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا۔
 اس کی عنایت کردہ ہدایت نہ ہوتی تو میرے پاس ایسا ضمیر نہ ہوتا جس سے میں اپنے خالق اپنے معبود کو
 پہچان سکوں۔

۳۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ: میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ میرے جسم کی
 ضرورت کی تمام چیزیں خلق فرماتا ہے اور انہیں میری دست رسی میں رکھتا ہے۔ اشارہ ہے مشرکین کے اس
 عقیدے کی رد کی طرف جو اپنے بعض معبودوں کو رزق کا رب سمجھتے ہیں۔

۴۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ: جب میں اپنی نادانی کی وجہ سے فطرت الہی کی خلاف ورزی کر

بیٹھتا ہوں اور مریض ہو جاتا ہوں یا کسی ناگہانی حادثے کی وجہ سے میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ مشرکین کے اس نظریے کی رد، جو شفا اپنے بعض معبودوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

۵۔ وَالَّذِي يُمَيِّنُنِي لِمَا يَجْعَلُنِي: میرا رب صرف اس زندگی کا مدبر نہیں ہے بلکہ کل دنیوی و اخروی زندگی کا مدبر ہے۔ موت و حیات اس کی تدبیر کا ایک اہم حصہ ہیں۔

اہم نکات

۱۔ میرا رب وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں میری خلقت، ہدایت، رزق، شفا، حیات اور موت ہے اور جو میری امیدوں کا مرکز ہے۔

۸۲۔ اور میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت
خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿۸۲﴾
میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔

تفسیر آیات

۱۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي: میرا رب وہ ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطا معاف فرمائے گا۔

واضح رہے انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں۔ معصوم جب اپنی طرف کسی خطا یا گناہ کی نسبت دیتے ہیں تو یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ وہ خطا اور گناہ انہی معنوں میں ہے جن کا ہم مرتکب ہوتے ہیں۔ ہماری خطا اور گناہ مولا کی نافرمانی کے معنوں میں ہے جب کہ معصوم کی خطا اور گناہ، نافرمانی کے معنوں میں نہیں بلکہ آداب بندگی کے تحت بندگی کا حق ادا نہ ہونے کا اعتراف ہے کہ کبھی غیر عبادت میں کوئی وقت گزرا ہے۔ کھانے پینے، سونے میں۔ معصوم اسے خطا تصور کرتے ہیں یا دن رات عبادت کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ عبادت کا حق ادا نہ ہوا۔ وہ اللہ کی عظمتوں اور نعمتوں کے مقابلے میں اپنی عبادت کو بچ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے:

مَا عَبْدًا نَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ۔
ہم نے تیری اس طرح بندگی نہیں کی کہ بندگی کا حق ادا ہو جائے۔

اہم نکات

۱۔ حقیقی بندگی یہ ہے کہ ہر ممکن عبادت کر کے اسے بچ سمجھا جائے۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنَی بِالصَّالِحِينَ ﴿۸۳﴾
۸۳۔ پروردگار! مجھے حکمت عطا کر اور صالحین میں شامل فرما۔

تفسیر آیات

۱۔ حُكْمًا: حکم کے بارے میں اقوال بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کے معنی حقائق کا فہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی تعریف بیان کرنے کے بعد عملاً اسی سے اپنی وابستگی کا اظہار فرماتے ہیں اور اپنے لیے ایک ایسی چیز کی درخواست کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اولوالعزم نبی کی نظر میں سب سے اہم ہے۔ وہ ہے: رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا۔ پروردگار مجھے فہم عنایت فرما کہ میں اس راز کو سمجھوں جس کے بعد میرا ہر فیصلہ صائب ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سن لی:

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ
وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿۱﴾
اور تحقیق ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے کامل عقل عطا کی اور ہم اس کے حال سے باخبر تھے۔

حکم یعنی حقائق کا فہم ایک ایسی اہم چیز ہے جو انبیاء کو عنایت ہوتی ہے۔
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا... ﴿۲﴾
اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کی۔

وَلَوْ طَأَّ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا... ﴿۳﴾
اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔
فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا
وَعِلْمًا... ﴿۴﴾
تو ہم نے سلیمان کو اس کا فیصلہ سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا۔

۲۔ وَالْحَقْنَی بِالصَّالِحِينَ: جس صلاح کی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اول الصالحین درخواست کر رہے ہیں وہ ایسی صلاح ہے جو رہتی دنیا تک تمام عالمین کے لیے صلاح کا نمونہ ہو۔ شیخ طوسی علیہ الرحمۃ صلاح کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:

و هو الاستقامة على ما امر الله به
و دعا اليه۔
صلاح، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اور جس چیز کی طرف دعوت دی ہے اس میں استقامت دکھانے کو کہتے ہیں۔

الصالحین سے مراد وہ انبیاء ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ جلیل القدر نبی، خلیل خدا ہیں تاہم اپنے آباء و اجداد سے وابستگی کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔

وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾
اور آنے والوں میں مجھے حقیقی ذکر جمیل
عطا فرما۔

تفسیر آیات

میرے لیے آخر میں آنے والی امتوں میں لسان صدیق عطا فرما یعنی ذکر جمیل۔ یہ دعوت کے تسلسل کی دعا ہے کہ جس لسان صدیق کی ابتدا انہوں نے خود کی تھی اس کا سلسلہ ان کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ لسان صدیق کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے: آنے والوں میں مجھے سچی زبان عطا کر۔ سچی زبان توحید کی دعوت کی زبان ہے:

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٨٥﴾
اس (توحید پرستی) کو ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقیہ
قرار دیا تاکہ وہ (اللہ کی طرف) رجوع کریں۔

چنانچہ آج روئے زمین پر جتنے بھی توحید پرست لوگ ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کا نتیجہ ہیں۔ علامہ بدخشی نے مفتاح النجاة میں، امر تسری نے ارجح المطالب صفحہ ۷۱ پر کشفی نے مناقب مرتضوی صفحہ ۵۵ پر روایت کی ہے کہ یہ آیت حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ شیعہ مصادر میں تو متعدد راویوں سے یہ روایت موجود ہے۔

اہم نکات

۱۔ محمد و آل محمد دعائے ابراہیم ہیں: انا دعوة ابراهيم۔ (حدیث)ؑ

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾
اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں
قرار دے۔

تفسیر آیات

جنت کے لیے دعا کرنا انبیاءؑ کی سیرت ہے جہاں عاشقان خدا کے لیے اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔

مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ: جنت کے وارثوں میں قرار دینے کی دعا میں شاید یہ نکتہ پنہاں ہے کہ انسان خواہ مقام غلیلی پر ہی فائز کیوں نہ ہو جنت کا بذات خود نہیں، از روئے وراثت مستحق ہو سکتا ہے۔ حضرت خلیلؑ کی طرف سے تواضع ہے کہ مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ جنت کی وراثت کے بارے میں سورہ مومنون آیت

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ - اس روز نہ مال کچھ فائدہ دے گا اور نہ اولاد۔

تفسیر آیات

دنیا کی زندگی، دنیوی علل و اسباب کی زندگی ہے جس میں مال اور اولاد کام آتے ہیں۔ آخرت کی زندگی، اخروی علل و اسباب کی زندگی ہے۔ وہاں کے علل و اسباب میں مال و اولاد کا کوئی کردار نہیں ہے۔ قیامت کے دن اگر کسی کے پاس مال، اولاد زیادہ ہیں تو اس کے کام نہیں آئیں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ دنیا کی زندگی میں مال و اولاد کے ذریعے اعمال صالح بجالائے جاسکتے ہیں اور اولاد باقیات الصالحات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ تو آپ نے دنیا میں مال و اولاد کو آخرت کے لیے مفید بنایا، آیت کا نقطہ کلام یہ ہے کہ اگر مال و اولاد سے آخرت کے لیے استفادہ نہیں کیا ہے تو قیامت کے دن یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ - سوائے اس کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے۔

تفسیر آیات

آخرت میں صرف اس قلب کی قدر ہوگی جس میں غیر اللہ کا شائبہ نہ ہو، جو ہر قسم کے شرک خفی و جلی سے پاک ہو۔ حب دنیا بھی شرک خفی میں آتی ہے۔ چنانچہ قلب سلیم کے بارے میں حدیث میں آیا ہے: هُوَ الْقَلْبُ الَّذِي سَلِمَ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا۔ قلب سلیم وہ ہے جو حب دنیا سے سالم ہو۔ دوسری حدیث میں آیا ہے:

الَّذِي يَلْقَى رَبَّهُ وَ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ قَلْبُ سَلِيمٍ وَه دَلْ هَ كَ اِپْنَه رِبْ سَه مَلَا قَات سِوَاهُ... ٤

انسان کے اعمال و کردار اس کے شعور کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اس شعور کے مطابق عزم و ارادے ہوتے ہیں۔ لہذا قلب ہی پر تمام اعمال و کردار کا دار و مدار ہوتا ہے۔

اہم نکات

۱۔ قلب سلیم ہی کردار ساز ہوتا ہے۔

وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ⑩
۹۰۔ اس روز جنت پر ہیزگاروں کے نزدیک لائی
جائے گی۔

تشریح کلمات

أَزْلَفَتِ: (زل ف) الزلفة کے معنی قرب اور مرتبہ کے ہیں۔

تفسیر آیات

عالم آخرت میں زمان و مکان کا وہ تصور نہ ہوگا جو عالم دنیا میں ہے۔ جنت کا نزدیک کرنا بتاتا ہے کہ وہاں مسافتوں کا وہ مفہوم نہ ہوگا جو یہاں ہے۔ لہذا متقین جس میدان حشر میں ہوں گے وہاں سے جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی مسافت طے کرنا نہیں پڑے گی۔ أَزْلَفَتِ الْجَنَّةُ جنت نزدیک لائی جائے گی سے معلوم ہوتا ہے کہ متقین کو جنت کے نہیں بلکہ جنت کو متقین کے نزدیک لایا جائے گا۔

اہم نکات

۱۔ متقین کے جنت سے زیادہ، جنت متقین کی مشتاق ہوگی۔

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ ⑪
۹۱۔ اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کی جائے گی۔

تشریح کلمات

غاوین: (غ و ی) الغوی، گمراہ غلط رو کے معنی میں ہے۔

تفسیر آیات

جہنم کے بارے میں بھی مسافت کا وہ مفہوم نہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا: جہنم ظاہر کی جائے گی۔ تعبیر کا فرق بتاتا ہے کہ جنت متقین کا استقبال کرے گی جب کہ جہنم اپنے پورے غیض و غضب کے ساتھ نمودار ہو جائے گی۔ چنانچہ جنت کے لیے أَزْلَفَتِ قریب کرنے اور جہنم کے لیے بُرِّزَتِ ظاہر کرنے کی تعبیر اختیار فرمائی۔

وَقِيلَ لَهُمْ أَيُّكُمْ كُنْتُمْ
تَعْبُدُونَ ⑫
۹۲۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا: تمہارے وہ
معبود کہاں ہے؟

مِنْ دُونِ اللَّهِ ۱۰ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ
أَوْ يَنْتَصِرُونَ ⑬
۹۳۔ اللہ کو چھوڑ کر (جنہیں تم پوجتے تھے) کیا
وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں یا خود کو بچا سکتے ہیں؟

تفسیر آیات

عذاب کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جن معبودوں کی خاطر عمر بھر حق سے دشمنی کی ہے، جی بھر کر اس کی مخالفت کی ہے اور اپنے معبودوں کے نہ ماننے والوں کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کامیاب، باوقار عزت و تکریم کے ساتھ ہیں اور یہ ذلت و خواری میں ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت یہ طنز، یہ طعنہ سننے کو ملتا ہے: کہاں ہیں تمہارے معبود!! کیا وہ آج اس مشکل دن میں تمہاری مدد نہیں کریں گے؟ یا کم سے کم خود کو بچالیں۔

۹۴۔ چنانچہ یہ خود اور گمراہ لوگ منہ کے بل جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔
۹۵۔ اور سارے ابلیسی لشکر سمیت۔

فَكَبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوَنَ ﴿۹۴﴾
وَجُنُودُ ابْلِيسَ اَجْمَعُونَ ﴿۹۵﴾

تشریح کلمات

کبکبوا: (ك ب ب) الڪب کے معنی کسی کو منہ کے بل گرانے کے ہیں۔ کبکب، گبگب کی تکرار ہے برائے تاکید۔

تفسیر آیات

۱۔ چنانچہ جن بتوں کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے ان کے ساتھ جہنم میں منہ کے بل گرا دیے جائیں گے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا:

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ
حَصَبُ جَهَنَّمَ... ل

پوچتے تھے جہنم کا ایندھن ہیں۔
ان کے ہمراہ جہنم میں ابلیس کے سارے لشکر ہوں گے۔ اَجْمَعُونَ یعنی ابلیس کے جن اور انس دونوں لشکروں پر مشتمل سب ان کے ساتھ منہ کے بل گریں گے۔

۹۶۔ اور وہ اس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے:
۹۷۔ قسم بخدا! ہم تو صریح گمراہی میں تھے۔
۹۸۔ جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر درجہ دیتے تھے۔

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿۹۶﴾
تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۹۷﴾
اِذْ نُسُوِّكُمْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۸﴾

۲۔ جھگڑا اور خصوصیت ناکامی کا لازمہ ہے۔ چنانچہ جہنم والوں کے باہمی جھگڑوں کو ایک حقیقت کے طور پر بیان فرماتا ہے:

لَحَقَّ نَحَاصِمُ أَهْلِ النَّارِ ۱۰۱

جہنمیوں کے باہمی جھگڑے کی حتمی بات ہے۔ اہل آتش کے باہمی جھگڑے حتمی اور حقیقت ہیں۔ چنانچہ شکست خوردہ جماعت اپنی شکست اور رسوائی کے بعد آپس میں جھگڑتی ہے جب کہ کامیابی حاصل کرنے والی جماعت خوشی کا جشن مناتی ہے۔ ۳۔ اب وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ان خود ساختہ معبودوں کو رب العالمین کے برابر لانا کتنی بڑی گمراہی تھی۔ ایک جامد، بے روح جسم کو اس ذات کے برابر لانا جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے خزانے ہیں۔

اہم نکات

۱۔ انسان جب گمراہی کی تاریکی میں جاتا ہے تو ایک جامد، حقیر اور رب العالمین میں فرق سمجھ میں نہیں آتا۔

وَمَا آصَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿۹۹﴾ اور ہمیں تو ان مجرموں نے گمراہ کیا ہے۔

۱۰۰۔ (آج) ہمارے لیے نہ تو کوئی شفاعت کرنے والا ہے

۱۰۱۔ اور نہ کوئی سچا دوست ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ قیامت کے دن انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہیں گمراہ کرنے والے مجرم تھے ورنہ دنیا میں ہدایت دینے والوں کو مجرم ٹھہراتے تھے۔

۲۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین کی شفاعت ہوتے ہوئے دیکھ کر کہہ اٹھیں گے: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ہمارے لیے شفاعت کرنے والے نہیں ہیں؟ شاید وہ دیکھ رہے ہوں گے دوسروں کے لیے تو بہت سے شفاعت کرنے والے ہیں۔

روایات ہیں:

الشفعاء خمسة القرآن والرحم و شفاعت کرنے والے پانچ ہیں: قرآن، رشتہ دار،

الامانة و نبیکم و اهل بیت نبیکم۔ امانت، تمہارے نبی اور تمہارے نبی کے اہل بیت۔

۳۔ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ: جابر بن عبد اللہ راوی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا: جنت میں کوئی شخص یہ

کہے گا: میرے دوست کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ اس کا دوست جہنم میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے دوست کو جہنم سے نکالو تو اہل جہنم کہیں گے ہمارا تو کوئی دوست نہیں۔^۱

یہ حدیث اس آیت کے مطابق ہے:

أَلَا خَلَاءٌ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
الْمُتَّقِينَ ۝^۲
گے سوائے پرہیزگاروں کے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

یہ آیت ہمارے اور ہمارے شیعوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اور ہمارے شیعوں پر فضل و کرم فرمائے گا ہم ان کی شفاعت کریں گے یہ دیکھ کر دوسرے لوگ کہیں گے: فَمَا أَتَانَا مِنْ شَافِعِينَ ہمارے لیے شفاعت کرنے والے نہیں ہیں۔^۳

فَلَوْ أَنَّ لِلنَّاسِ كَفْرَةً فَكَفُّونَ مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ ۝^۴
۱۰۲۔ کاش! ہمیں ایک مرتبہ پھر پلٹنے کا موقع مل
جاتا تو ہم مؤمنین میں سے ہوتے۔

حدیث میں آیا ہے:

الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا۔^۵
لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں جب مر
جاتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔

جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تب آرزو کریں گے ایک مرتبہ پھر موقع مل
جاتا تو ہم مؤمن بن جاتے۔ قرآن نے ان کا حال بتا دیا:
وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ...^۶
اور اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر وہی
کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔

اہم نکات

۱۔ آخرت سے دنیا کی طرف واپسی ناممکن ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝^۷
۱۰۳۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں
اکثر ایمان نہیں لاتے۔

تفسیر آیات

حیات خلیل میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر اور بتوں کے بے حقیقت ہونے پر بھی ایک واضح ثبوت موجود ہے۔ جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ حضرت خلیل ﷺ کے قائم کردہ معجزات اور ثبوت سے بھی ایمان نہیں لائے۔

اہم نکات

۱۔ کافروں کا ایمان نہ لانا انبیاء ﷺ کی طرف سے دلیل اور معجزات کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ تھا۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٣﴾ اور یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب آنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٤﴾ نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ اذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٥﴾ جب ان کی برادری کے نوح نے ان سے کہا: کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے ہو؟

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٦﴾ میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٠٧﴾ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

تفسیر آیات

۱۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ: لفظ قوم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ لفظ ہے جس کا مفرد نہیں ہوتا۔ جیسے رھط وغیرہ۔

۲۔ قوم نوح نے اگر حضرت نوح ﷺ کو شخصی اور ذاتی نیباد پر جھٹلایا ہوتا تو یہ ایک رسول کی تکذیب تھی لیکن وہ نوح رسالت کی تکذیب کرتے تھے جس سے تمام رسولوں کی تکذیب ہوتی ہے۔

۳۔ أَخُوهُمْ نُوحٌ: اپنی قوم کا ایک فرد ہونے کے اعتبار سے أَخُوهُمْ کہا ہے۔ جیسے اخ العرب اور اردو محاورے میں برادری کہتے ہیں۔

۴۔ أَلَا تَتَّقُونَ: تمہیں اپنی فکر نہیں ہے جو غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی عبادت ترک کر کے ابدی خطرہ مول لیتے ہو۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اپنا بچاؤ کرو۔

۵۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو اپنے دین پر قائم رہ کر اپنا بچاؤ کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے تمہاری اطاعت میں بچاؤ ہے؟ جواب میں فرمایا: میں رسول ہوں۔ میری رسالت پر معجزہ اور دلیل قائم ہے اور میں امین ہوں اس بات کو تم خود جانتے ہو۔ تمہارے ہی درمیان ایک عمرگزاری ہے۔ میرے مزاج میرا، طبیعت، کردار تمہارے سامنے ہے۔ ایک امین شخص روزمرہ کی معمولی باتوں میں امانت کو ہاتھ سے نہیں دیتا، رسالت، توحید اور آخرت کے بارے میں امانت کو ہاتھ سے دے سکتا ہوں؟

۶۔ عقل و منطق کا تقاضا ہے کہ میری باتوں کو مان لو اور غیر اللہ کی پرستش ترک کرو۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۹﴾
اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا
میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔
اس رسالت کے ساتھ میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں چنانچہ تم سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا ہوں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝
۱۱۰۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
پس اس بے لاگ رہنمائی کو قبول کرنا چاہیے۔

اہم نکات

۱۔ مذہبی قیادت کے لوگوں سے مادی مفادات وابستہ نہیں ہونے چاہئیں۔

قَالُوا ائْتُونَا بِكُورٍ مِّنْكَ وَاتَّبِعْنَا
الْأَرْذَلُونَ ۝
۱۱۱۔ انہوں نے کہا: ہم تم پر کیسے ایمان لے آئیں
جب کہ ادنیٰ درجے کے لوگ تمہارے پیروکار ہیں۔

تفسیر آیات

ادنیٰ درجے سے مراد مادی اور مالی اعتبار سے ہے کیونکہ فقیر اور نادار لوگ ہمیشہ دعوت انبیاء پر لبیک کہتے اور پہل کرتے ہیں۔ جن کے دلوں پر مال و دولت کا پردہ اور خواہشات کی میل کچیل نہیں ہوتی وہی دعوت انبیاء کو قبول کرتے ہیں۔ جب کہ خوشحال لوگ ہمیشہ اس دعوت کے مخالف رہے ہیں کیونکہ انبیاء کی دعوت عدل کی دعوت ہے اور مجرم لوگ عدل کے حق میں نہیں ہوتے اس لیے اس دعوت پر نادار لوگ لبیک کہتے ہیں یا نوجوان لوگ جنہوں نے ابھی مفادات کے میدان میں قدم نہیں رکھا ہے۔

اہم نکات

۲۔ جن کے دلوں پر مال و دولت کے پردے پڑے ہوتے ہیں ان پر ایمان کا اثر نہیں ہوتا۔

قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾
 ۱۱۲۔ نوح نے کہا: مجھے علم نہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں۔
 إِنَّ جِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾
 ۱۱۳۔ ان کا حساب تو صرف میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم اسے سمجھتے۔
 وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾
 ۱۱۴۔ اور میں مومنوں کو دھتکار نہیں سکتا۔
 إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾
 ۱۱۵۔ میں تو صرف صاف اور صریح انداز میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔

تفسیر آیات

۱۔ بعض نے کہا ہے: کافروں کا مقصد یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ پیشے کے ساتھ کردار میں بھی کمتر درجے کے ہیں۔ اس توجیہ سے آیات میں ربط معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: ایمان لانے سے پہلے وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ ان کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ یعنی ایمان سے ان کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
 ۲۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ: ایمان لانے کے بعد کوئی رسول کسی کو اپنی درگاہ سے نہیں دھتکارتا۔ چنانچہ قریش نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ اگر ایمان لائیں بھی تو ہم عمار، بلال اور صہیب جیسے لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں سورہ انعام آیت ۵۲ میں رسول اللہ کے لیے یہ حکم آیا:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ....
 اور جو لوگ صبح وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کریں۔

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنْوَحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾
 ۱۱۶۔ ان لوگوں نے کہا: اے نوح! اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ضرور سنگسار کر دیا جائے گا۔
 ۳۔ الْمَرْجُومِينَ: اگر تم باز نہ آئے تو رجم ہونے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اس کے دو معنی ہیں:

ایک سنگسار دوسرے معنی میں پھینکارے ہوئے۔ اہل لغت نے یہ دونوں معنی کیے ہیں۔ میں ان میں پہلے معنی کو ترجیح دیتا ہوں چونکہ حضرت نوح علیہ السلام توحید کی دعوت اور ان کے معبودوں کو مسترد کرنے کی وجہ سے ان مشرکین کی نظر میں پہلے ہی پھینکارے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ باز نہ آنے کی صورت میں کوئی سنگین تر

قدم اٹھانے کی دھمکی ہو سکتی ہے، وہ سنگسار ہے۔

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٤﴾
 فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا
 وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٥﴾

۱۱۷۔ نوح نے کہا: اے میرے پروردگار! تحقیق
 میری قوم نے میری تکذیب کی ہے۔
 ۱۱۸۔ پس تو ہی میرے اور ان کے درمیان حتمی
 فیصلہ فرما اور مجھے اور جو میرے ساتھ مؤمنین
 ہیں ان کو نجات دے۔

تفسیر آیات

۱۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ قوم نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی ہے لیکن ازراہ شکوہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔
 ۲۔ فَافْتَحْ: فیصلہ کن حکم کے ذریعے حقیقت کا چہرہ کھول دے۔
 ۳۔ وَمَنْ مَعِيَ: مجھے اور جو میری معیت میں ہیں انہیں نجات دے۔ قرآن انبیاء علیہم السلام کے
 ساتھیوں کو ”معیت“ کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے جو ہر قدم پر ساتھ دینے کے معنوں میں ہے۔ جیسا کہ اللہ ہر
 قدم پر ساتھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں:

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿١٠٠﴾

میرا پروردگار یقیناً میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ
 دکھا دے گا۔

یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا... ﴿١٠١﴾

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
 أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ... ﴿١٠٢﴾

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے
 ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت گیر اور آپس میں مہربان ہیں۔

ان لوگوں کا ذکر ہے جو ہر قدم پر ساتھ دیتے ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ فتح آیت ۲۹۔

اہم نکات

۱۔ نجات، ہر قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے والوں کے لیے ہے۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِّ
 الْمَشْحُونِ ﴿١١٦﴾

۱۱۹۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور جو ان کے ہمراہ بھری
 کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا۔

حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی معیت میں جو مؤمنین تھے انہیں اس کشتی کے ذریعے نجات دی جو انسانوں اور دیگر حیوانات سے بھری ہوئی تھی:

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۗ
تو ہم نے کہا: (اے نوح!) ہر جوڑے میں سے دو
دو کشتی پر سوار کرو۔۔۔

ثُمَّ آغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ اس کے بعد ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔
مؤمنین کو نجات دینے کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔

حضرت شیخ محمد حسین کاشف الغطاء اپنی کتاب الارض والتربة الحسينية میں فرماتے ہیں:
طوفان نوح شاید آسمان سے ایک چھوٹا سا سیارہ سمندر میں گرا ہوگا جس سے یہ طوفان
آگیا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ بہت بڑے سونامی کی وجہ سے طوفان آیا ہو۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں
سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔

اس واقعہ میں اس بات پر واضح دلیل اور نشانی تھی کہ اس کائنات کی تدبیر اللہ تعالیٰ کے دست
قدرت سے ہو رہی ہے۔ اللہ نجات دیتا اور غرق کرتا ہے۔ اس واضح نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان
نہیں لاتے کہ اللہ ہی رب العالمین ہے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے
والا، رحم کرنے والا ہے۔

کائنات کی تدبیر اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو بالادست ہونے کے باوجود مہربان ہے۔

كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ قوم عاد نے پیغمبروں کی تکذیب کی۔

تفسیر آیات

كَذَّبَتْ کی تائید اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ عاد سے مراد قبیلہ عاد ہے۔ یہ قوم بھی اللہ کی طرف
سے کسی مرسل کے آنے کا عقیدہ نہیں رکھتی تھی لہذا وہ تمام مرسلین کی تکذیب کے ضمن میں حضرت ہود علیہ السلام

کی تکذیب کرتی تھی۔

۱۲۴۔ جب ان کی برادری کے ہود نے ان سے
تَتَّقُونَ ﴿۱۲۴﴾
کہا: کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟
۱۲۵۔ میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں۔
۱۲۶۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
۱۲۷۔ اور اس کام پر میں تم سے اجر نہیں مانگتا،
میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوْدٌ أَلَا
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۲۵﴾
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ ﴿۱۲۶﴾
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۷﴾

تفسیر آیات

انبیاء ﷺ کی دعوت، منطق، سیرت ایک ہی ہے۔ سب کی دعوت کا مرکزی محور توحید ہے۔ امانت
تمام انبیاء ﷺ کا شیوہ ہے۔ لوگوں کو ہلاکت سے بچانا ان کی منزل ہے۔ اپنی دعوت کسی مادی مفاد کے ساتھ
وابستہ نہ رکھنا ان کی سیرت ہے۔

۱۲۸۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک بے سود یادگار بناتے
ہو؟
أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً
تَعْبَثُونَ ﴿۱۲۸﴾

تشریح کلمات

ریع: (ری ع) سطح مرتفع۔ بلند جگہ کو کہتے ہیں جو دور سے ظاہر ہو۔

تفسیر آیات

یادگار عمارت صرف اس غرض سے بنانا کہ اپنی شان و شوکت کا اظہار ہو اپنی مہارت اور تمدن پر فخر و
مہابت کرنا مقصود ہو، اس کے علاوہ کوئی معقول مصرف نہ ہو تو ایسی عمارتوں کا بنانا عبث ہے۔ جیسا کہ آج کل
رانج ہے کہ ایک غریب اور مقروض ملک جس کے بچوں کو تعلیم اور شہریوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا وہاں
کروڑوں روپے کی یادگار عمارتیں بنائی جاتی ہیں جن کا کوئی مصرف نہیں ہے۔

۱۲۹۔ اور تم بڑے محلات بناتے ہو گویا تم نے ہمیشہ
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ

تَخْلَدُونَ ﴿١٣٧﴾

رہنا ہے۔

تشریح کلمات

مَصَانِعَ: (ص ن ع) معزز، پر رعب مقامات کو مصانع کہتے ہیں۔

تفسیر آیات

تصور اور محلات ایسے بناتے ہو گویا کہ تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ان عمارتوں کی بناوٹ، ان کے استحکام، ان پر صرف ہونے والے سرمایے اور محنت میں سے کسی ایک میں ایسی کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے چند دن زندہ رہنے والے نے بنایا ہے۔

قوم عاد کے بارے میں قرآنی آیات سے جو معلومات سامنے آتی ہیں ان سے اس قوم کے تمدن، طاقت و قوت کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے۔ ارم ذات العماد، ستونوں والی ارم کی عمارت اس قوم نے بنائی: **الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ** ۱۔ جس کی نظیر کسی ملک میں نہیں بنائی گئی۔ دنیا میں اونچے ستونوں والی عمارت بنانا پہلی بار اس قوم نے شروع کیا تھا۔

اہم نکات

۱۔ عمارت کسی مقدس نظریے اور موقف کی شناخت کے لیے نہ ہو صرف فخر و مباہات کے لیے ہو تو اسراف اور قابل مذمت ہے۔

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٨﴾ ۱۳۸۔ اور جب تم (کسی پر) حملہ کرتے ہو تو نہایت جبارانہ انداز میں حملہ آور ہوتے ہو۔

تفسیر آیات

جب کسی کمزور قوم پر حملہ کرتے ہو تو تمام قدروں کو پامال کرتے ہو۔ آج کل کی استعماری طاقتیں من و عن بھی کرتی ہیں۔ اپنے ملکوں میں لایعنی قسم کی عظیم یادگاریں بناتی ہیں اور جب کسی کمزور قوم پر ہاتھ ڈالتی ہیں، جَبَّارِينَ کا صحیح مصداق بن جاتی ہیں اور تمام انسانی و اخلاقی قدریں پامال کرتی ہیں۔

اہم نکات

۲۔ کسی پر حملہ دفاع کرنے کے لیے نہ ہو تو جَبَّارِينَ ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۳۱ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

تفسیر آیات

ان جرائم کو ترک کر کے عدل الہی سے بچو۔ بچنے کا واحد راستہ میری اطاعت ہے۔

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا

۱۳۲۔ نیز اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے

تَعَلَّمُونَ ۝۱۳۲

تمہاری مدد کی جن کا تمہیں (بخوبی) علم ہے۔

۱۳۳۔ اس نے تمہیں جانوروں اور اولاد سے نوازا۔

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ۝۱۳۳

۱۳۴۔ نیز باغات اور چشموں سے مالا مال کر دیا۔

وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝۱۳۴

تفسیر آیات

حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی ان نعمتوں کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں جن کے تحت وہی ذات معبود ہو سکتی ہے جس نے ان نعمتوں سے نوازا ہے اور وہی ذات تمہاری زندگی کو چلاتی ہے جس نے تمہیں باغات اور چشموں، چوپاؤں اور اولاد سے نوازا ہے۔

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

۱۳۵۔ بلاشبہ مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے

يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۱۳۵

دن کے عذاب کا خوف ہے۔

تفسیر آیات

غیر اللہ کو اپنا معبود بنا کر تم نے بہت بڑے عذاب سے اپنے آپ کو دوچار کیا ہے۔ میں تمہیں اس عذاب سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں۔

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ

۱۳۶۔ انہوں نے کہا: تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے

لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۝۱۳۶

لیے یکساں ہے۔

تفسیر آیات

وہ اپنی سرشت کا خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تمہاری نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوگا۔

حقیقت بھی یہی ہے جو لوگ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے تو ان کے دلوں پر نہ نصیحت اثر کرتی ہے نہ معجزہ۔ جب لوگ اللہ کے پیغام کو بے اثر قرار دیتے ہیں اور اثر پذیری کا امکان ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ دو کاموں میں سے ایک کام انجام دیتا ہے: یا تو ان پر فوری عذاب نازل کرتا ہے یا ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتا اور ڈھیل دیتا ہے۔ واضح رہے ڈھیل دینا بدتر عذاب کا پیش خیمہ ہے۔

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٤﴾ یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادات ہیں۔
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٣٥﴾ اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔

تفسیر آیات

یہ ڈرانا پرانے لوگوں کی عادت ہے اس قسم کی باتیں پہلے بھی بہت سے لوگ کرتے رہے ہیں۔ یہ تمہاری کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کی طرف اس سے پہلے بھی متعدد پیغمبران مبعوث ہوئے ہیں۔

اس کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے: جس دین پر ہم قائم ہیں وہ ہمارے پرانے لوگوں کی عادت اور روایات ہیں۔ ہم اس پر کار بند ہیں۔

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ: ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ کافر باطل پر یقین رکھتا ہے یا ناامید ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کا انجام بد ہوا کرتا ہے۔ جب کہ مؤمن کی علامت یہ ہے کہ وہ خوف ورجاء اور بیم و امید کے درمیان مستعد اور ہوشیار رہتا ہے۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ (اس طرح) انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔

۱۔ فَكَذَّبُوهُ: وہ تکذیب پر مصر رہے۔

۲۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ: پھر اللہ نے ان کو ہلاک و تباہ کر دیا:

وَأَمَّا عَادُ فَاهْتَكَمُوا بِرِجِّ صَرَصِرٍ
عَائِيَةٍ... ۗ
اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔

۳۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً: اگر سمجھنے کے لیے کوئی دل ہوتا تو ان واقعات میں اللہ کے رب العالمین ہونے پر ایک بین ثبوت موجود ہے۔

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۳۰﴾ اور تحقیق آپ کا پروردگار ہی بڑا غالب آنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔

۴۔ وَاِنَّ رَبَّكَ: اگر وہ اللہ کے مقام رحیمی سے استفادہ کرتے تو اللہ کی قہاریت کی زد میں نہ آتے۔

كَدَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۳۱﴾ (قوم) ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔
اِذْ قَالْ لِهٖمْ اٰخُوهُمْ صٰلِحٌ اٰلًا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۳۲﴾ جب ان کی برادری کے صالح نے ان سے کہا: کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟

اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ﴿۱۳۳﴾ میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں۔
فَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۱۳۴﴾ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۳۵﴾ مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔

تفسیر آیات

تمام انبیاء ﷺ کی منزل ایک ہے تو راستہ ایک ہے۔ ہدف ایک ہے تو طرز کلام ایک ہے۔ مقصد ایک ہے تو منطق ایک ہے۔ نیت ایک ہے تو سیرت ایک ہے۔

حضرت صالح ﷺ کے بارے میں سورۃ الاعراف آیات ۷۳ تا ۷۹ سورہ ہود اور سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہو چکا ہے۔

اَتْتَرَكُوْنَ فِیْ مَا هُمْنَا اٰمِيْنٌ ﴿۱۳۶﴾ کیا تم لوگ یہاں پر موجود چیزوں (نعمتوں)

میں یوں ہی بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے؟
فِیْ جَنَّتٍ وَّ عٰیُوْنٍ ﴿۱۳۷﴾ باغوں اور چشموں میں،

وَزُرُوْعٍ وَّ نَخْلٍ طَلَعَتْهَا هَضِيْمٌ ﴿۱۳۸﴾ اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے نرم خوشے

ہیں،

تشریح کلمات

هَضِيمٌ: (ھ ض م) الھضم کے اصلی معنی کسی نرم چیز کو کچلنا کے ہیں۔

تفسیر آیات

حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ کیا تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا؟ کیا جن نعمتوں میں تم اب امن و سکون سے زندگی گزار رہے ہو ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ یہ امن و سکون، باغات، چشمے، لہلہاتے کھیت اور نرم یا گھنے خوشوں پر مشتمل نخلستان ہمیشہ رہیں گے؟

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ۱۴۹۔ اور تم پہاڑوں کو بڑی مہارت سے تراش کر گھر بناتے ہو۔

فَرِهِينَ ﴿۱۴۹﴾

تشریح کلمات

وَتَنْحِتُونَ: (ن ح ت) نَحَتَ کے معنی لکڑی، پتھر یا اس قسم کی سخت چیزوں کو تراشنے کے ہیں۔
فَرِهِينَ: (ف ر ہ) اترانے نیز مہارت کے معنوں میں آتا ہے۔

تفسیر آیات

کیا تمہیں پہاڑوں کو تراش کر بڑی مہارت سے گھر بناتے رہنے دیا جائے گا۔ ان گھروں سے تمہارے جنازے نہیں اٹھیں گے؟ قوم ثمود کی ان تراشیدہ عمارتوں کے آثار آج بھی نمایاں طور پر مدینے اور تبوک کے درمیان العلا اور الحجر کے مقامات پر موجود ہیں۔

کھوج لگانے والوں کو الحجر کے علاقوں میں بہت سے آثار اور کتبے ملے جن سے اس قوم کے تمدن کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو دائرۃ المعارف الاسلامیہ مترجم ۷: ۳۱۹۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۱۵۰

۱۵۰۔ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۱۵۱

۱۵۱۔ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کے حکم کی

اطاعت نہ کرو۔

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي

۱۵۲۔ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح

نہیں کرتے۔

الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۱۵۲

تفسیر آیات

جب تمہیں اس عیش و آرام کی حالت میں نہیں رکھا جائے گا اور ایک دن تمہیں یہ باغات و اشجار چھوڑ کر جانا ہیں تو اس کا ایک حل پیش کرتا ہوں کہ میری اطاعت کرو اور اسراف پسند لوگوں کی اطاعت چھوڑ دو تو تمہیں دنیا کے باغات و چشموں سے جدائی کی حسرت نہ ہوگی چونکہ آخرت کی ابدی زندگی ان چیزوں سے بدرجہا بہتر ہے۔

أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ: امر سے مراد خود امر کرنے والا ہے اور مسرفین سے مراد حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ چنانچہ بعد کی آیت میں مسرفین کی تشریح مفسدین سے کی ہے۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾
 ۱۵۳۔ لوگوں نے کہا: تم تو بلاشبہ سحرزدہ آدمی ہو۔
 ۱۵۴۔ اور تم ہم جیسے بشر کے سوا اور کچھ نہیں ہو،
 مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ
 ۱۵۴۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی (معجزہ) پیش
 إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾
 کرو۔

تفسیر آیات

قوم صالح نے اس نصیحت کا یہ جواب دیا: اے صالح تم سحرزدہ آدمی ہو۔ جس پر جادو کیا گیا ہو وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔

جب کہ تم ہماری طرح کے ایک انسان ہی تو ہو۔ تمہیں اللہ نے کیسے نبی بنا دیا۔ فَأْتِ بِآيَةٍ پھر بھی اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو۔ دیکھتے ہیں تمہارا دعویٰ کہاں تک سچائی پر مبنی ہے۔

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾
 ۱۵۵۔ صالح نے کہا: یہ ایک اونٹنی ہے، ایک مقررہ دن اس کے پانی پینے کی باری ہوگی اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی پینے کی باری ہوگی۔
 وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يُّوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾
 ۱۵۶۔ اور اسے بری نیت سے نہ چھونا ورنہ ایک بڑے (ہولناک) دن کا عذاب تمہیں گرفت میں لے لے گا۔

تفسیر آیات

طلب معجزہ کے جواب میں فرمایا: هَذِهِ نَاقَةٌ يَهْدِيهَا رَبِّي لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ...
آچکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔۔۔

اس میں صراحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ ناقہ ایک معجزہ ہے۔ آیت کا لفظ قرآنی اصطلاح میں معجزے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

بعض کے نزدیک اس ناقہ کا معجزہ اس کے پہلو میں تھا کہ اگر اس کو تکلیف دی اور اس کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوا تو عذاب نازل ہوگا۔
بعض مفسرین معجزے کا یہ پہلو نکالتے ہیں کہ ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ ایک دن ناقہ پانی پیئے اور ایک دن بستی والے۔ یہاں پانی کی قلت تھی اور کنویں کا سارا پانی ایک اونٹنی پی جاتی تھی۔ یہی ان کے لیے ایک امتحان تھا۔

قرآنی تصریحات کے مطابق اس اونٹنی کے بارے میں درج ذیل معلومات سامنے آتی ہیں:
i- قوم صالح کی طرف سے معجزہ کے طلب کے جواب میں اونٹنی بطور معجزہ ظاہر ہوئی: فَآتَتْ بِأَيِّئِهِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ...۔۔۔

ii- اونٹنی اور بستی والے باری باری پانی لیتے تھے: نَهَا شَرِبَ وَلَكُمْ شَرِبَ...۔۔۔

iii- اس اونٹنی کو تکلیف پہنچانے کی صورت میں عذاب آئے گا۔

iv- چنانچہ اس اونٹنی کی کونچیں انہوں نے کاٹ ڈالیں تو عذاب آگیا۔

ان نکات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ناقہ معجزانہ طور پر وجود میں آئی تھی۔

اہم نکات

۱- ناقہ صالح ایسا معجزہ ہے جو لوگوں کے مطالبے پر دیا گیا تھا اس لیے انکار پر عذاب آیا۔

فَعَقَرُوْهَا فَاصْبَحُوْا نِدْمِيْنَ ۝۵۴
فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۵۵
۱۵۷- تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں
پھر وہ ندامت میں مبتلا ہوئے۔
۱۵۸- چنانچہ عذاب نے انہیں گرفت میں لے
لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں
سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔

تفسیر آیات

اونٹنی کی کوچیوں کا ٹٹنے کے بعد ندامت اس وقت ہوئی ہوگی جب عذاب سامنے آیا۔ کوچیوں تو ایک آدمی نے کاٹی تھیں مگر نسبت سب کی طرف دی گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیگر لوگ اس عمل پر راضی تھے۔ چنانچہ نہج البلاغہ خطبہ ۲۰۱ میں ارشاد ہے:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَجْمَعُ النَّاسَ الرِّضَا
وَالسُّخْطُ وَإِنَّمَا عَقَرَ نَاقَةَ ثَمُودَ
رَجُلٌ وَاحِدٌ فَعَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ
لَمَّا عَمَّوهُ بِالرِّضَا....

اے لوگو! (افعال و اعمال چاہے مختلف ہوں مگر) رضا و ناراضگی کے جذبات تمام لوگوں کو ایک حکم میں لے آتے ہیں۔ آخر قوم ثمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے پے کیا تھا لیکن اللہ نے عذاب سب پر کیا کیونکہ وہ سارے کے سارے اس پر رضامند تھے۔

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ: چنانچہ کوچیوں کا ٹٹنے کے بعد انہیں تین دن کی مہلت دی گئی۔ اس کے بعد

عذاب نازل ہوا:

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتُّوْا فِى دَارِكُمْ
ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ... ل

پس انہوں نے اونٹنی کی کوچیوں کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا: تم لوگ تین دن اپنے گھروں میں بسر کرو۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۵۹﴾
اور بے شک آپ کا پروردگار ہی بڑا غالب
آنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔
ان لوگوں نے اللہ کی رحمت سے دوری اختیار کی تو قہاریت کی زد میں آ گئے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۶۰﴾
اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا
تَتَّقُونَ ﴿۱۶۱﴾

۱۶۰۔ قوم لوط نے (بھی) رسولوں کی تکذیب کی۔
۱۶۱۔ جب ان کی برادری کے لوط نے ان سے
کہا: کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟

إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۶۲﴾
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رِسَالَتِي ﴿۱۶۳﴾
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۴﴾

۱۶۲۔ میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں۔
۱۶۳۔ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
۱۶۴۔ اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں
مانگتا میرا اجر تو بس رب العالمین پر ہے۔

تفسیر آیات

وہی الہی پیغام جو تمام انبیاء علیہم السلام کا پیغام ہے۔ پیغام کی وحدت، پیغام دہندہ کی وحدت کی دلیل ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام ایک ہی رب کی طرف سے آئے ہیں۔

آتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ کیا ساری دنیا میں سے تم (شہوت رانی کے

لیے) مردوں کے پاس ہی جاتے ہو؟

اس آیت کی دو تشریح متصور ہیں:

i- کیا ساری دنیا میں صرف تم مردوں سے ہم جنس بازی کرتے ہو۔

ii- کیا ساری دنیا کی عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں سے ہم جنس بازی کرتے ہو۔

پہلی تشریح پر دوسری آیت مؤید ہو سکتی ہے:

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٦﴾ کیا تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ تم

سے پہلے دنیا میں کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔

دوسری تشریح کے لیے اگلی آیت تشریح بن سکتی ہے:

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ

مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ اور تمہارے رب نے جو بیویاں تمہارے لیے

خلق کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد

سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔

تفسیر آیات

اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی بقا کے لیے جو دو صنف، مرد و زن خلق فرمائے ہیں، ہم جنس بازی اس

غرض خلقت اور فطرت مرد و زن کی خلاف ورزی ہے۔ مرد و زن کی خلقت خود گواہ ہے کہ مرد، زن کے لیے

اور زن مرد کے لیے ہے اور ان دونوں میں جو کشش ہے، اسی میں نوع انسانی کی بقا مضمحل ہے۔

اہم نکات

۱- ہم جنس بازی، فطرت سے بغاوت ہے۔

قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَه يَلُوطُ ۖ ۱۶۷۔ وہ کہنے لگے: اے لوط! اگر تو باز نہ آیا تو
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَخْرُجِينَ ﴿۱۶۷﴾ تجھے بھی ضرور نکال دیا جائے گا۔

تفسیر آیات

حضرت لوط علیہ السلام یہاں کے باشندہ نہ تھے۔ آپ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے اردن کی اس سرزمین کی طرف آئے تو انہیں اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا اور اس خلاف فطرت عمل زشت سے روکنے کا حکم ہوا تو اس قوم نے ان کو اپنے ہاں سے ملک بدر کرنے کی دھمکی دی کہ تو ایک اجنبی شخص یہاں آ کر ہمیں اپنی خواہشات پر عمل کرنے سے روکنے والا کون ہے؟

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ ﴿۱۶۸﴾ لوط نے کہا: میں تمہارے اس کردار کے
سخت دشمنوں میں سے ہوں۔

تشریح کلمات

القلی: (ق ل ی) شدة البغض کے معنوں میں ہے۔

تفسیر آیات

ملک سے اخراج کی دھمکی کو اعتنا میں نہیں لاتے بلکہ اپنی نفرت کا برملا اظہار فرماتے ہیں۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ منکرات کو اگر عملاً روکنا ممکن نہ ہو تو قلباً اس سے نفرت کرنی چاہیے۔

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۹﴾ پروردگارا! مجھے اور میرے گھر والوں کو ان
کے (برے) کردار سے نجات عطا فرما۔

چونکہ پوری آبادی میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے علاوہ کوئی شخص دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ فرمایا:

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۷۰﴾ وہاں ہم نے ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر
نہ پایا۔

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۷۰﴾ چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل خانہ

الْأَعْجُوزَاتُ فِي الْغَيْرِينَ ﴿١٤١﴾
 ثُمَّ دَمَّرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٤٢﴾
 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءً ﴿١٤٣﴾
 مَطَرًا مُنذَرِينَ ﴿١٤٤﴾

کونجات دی۔
 ۱۴۱۔ سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں
 میں رہ گئی۔
 ۱۴۲۔ پھر ہم نے باقی سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔
 ۱۴۳۔ اور ان پر ہم نے بارش برسائی، پس تشبیہ شدہ
 لوگوں پر یہ بہت بری بارش تھی۔

تفسیر آیات

۱۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کے افراد کو اللہ نے بچا لیا چونکہ یہی ایک گھر مسلمان
 تھا لہذا وَأَهْلَهُ أَهْلُ بَيْتِ مِثْلِ دَمَّرْنَا مَوْتِينَ كَوَشَامِلِ سَمْعِنَا كَلِمَةً لِيَكُونَ كَوَيْلًا لِمَنْ يَشَاءُ
 ۲۔ الْأَعْجُوزَاتُ: اس عورت سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ چنانچہ سورۃ
 الاعراف، النمل اور الحجر میں اس کی صراحت موجود ہے کہ یہ عورت ایک نبی کی زوجہ ہونے کے
 باوجود بدکار قوم کی حامی تھی۔

۳۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا: تدمیر تباہ کر دینے کے معنوں میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو
 بچانے کے بعد باقی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔
 ۴۔ وَأَمْطَرْنَا: اس قوم پر بارش برسائی گئی۔ بارش سے مراد پانی کی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ہے
 جیسا کہ سورۃ الحجر آیت ۷۴ میں فرمایا:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ۝ اور ہم نے ان پر کنکر لیلے پتھر برسائے۔

چنانچہ ایک آتش فشانی دھماکے سے ان پتھروں کی بارش ہوئی ہوگی۔ فاخذتهم الصحیة مشرقین
 سورج نکلنے وقت انہیں خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا۔ یہ آتش فشانی کے دھماکے کی آواز ہو سکتی ہے۔

طبقات الارضی ماہرین کے مطابق اردن کے بحر مردار میں بہت سی بستیاں غرق ہیں۔ اس بحیرہ
 کے قرب و جوار میں بعض قلعوں کی بقایا کا پتہ چلا ہے اور اس کے ساتھ وہ مذبح بھی ہے جہاں قربانیاں پیش
 کی جاتی تھیں۔ (ظلال القرآن)

ماہرین کا خیال ہے کہ وادی سدیم بحر مردار میں غرق ہے جس میں قوم لوط کی بڑی بڑی بستیاں
 آباد تھیں۔ ایک زلزلے میں یہ وادی دھنس گئی۔ اس پر بحر مردار کا پانی جمع ہو گیا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ كَانَ ۝۱۴۴۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں

سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ ۱۷۵۔ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۵﴾

تفسیر آیات

اگر سمجھنا چاہتے تو اس واقعہ میں ایک مکمل ثبوت اور دلیل موجود تھی لیکن ان کا ایمان نہ لانا دلیل و ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا۔ اس لیے وہ ان معجزوں کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے۔

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۷۶﴾ ۱۷۵۔ اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے

والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔

اگر یہ لوگ اللہ کے مقام عزت و غلبہ اور مقام رحمت کو سمجھتے تو یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔

كَذَّبَ اصْحَابُ بُيُوتِكُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۷۷﴾ ۱۷۶۔ ایکہ والوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔

تفسیر آیات

حضرت شعیب علیہ السلام مدین اور ایکہ دونوں کے باشندوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں فرمایا: وَ اِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور اس سورہ میں فرمایا: اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ لِّكُنْ يٰ هٰؤُلَاءِ اٰتِلَافٌ مَّوْجُودٌ ہے کہ کیا مدین اور ایکہ دو مختلف علاقے اور قومیں ہیں یا یہ دونوں ایک ہی قوم کے دو نام ہیں؟ بعض اہل تحقیق کے مطابق یہ دونوں ایک قوم اور دو قبیلے تھے۔

قرآنی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق اصحاب مدین سے تھا چونکہ قرآن نے فرمایا: وَ اِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ایکہ کے بارے میں اَخَاهُمْ نہیں فرمایا۔

اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۷۸﴾ ۱۷۷۔ جب شعیب نے ان سے کہا: کیا تم اپنا

بچاؤ نہیں کرتے؟

اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ﴿۱۷۹﴾

۱۷۸۔ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۱۸۰﴾

۱۷۹۔ اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں

وَمَا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ

مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔

اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۸۱﴾

ان آیات کی تشریح ہو چکی ہے۔

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
 الْمَخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾
 ۱۸۱۔ تم پیمانہ پورا بھرو اور نقصان پہنچانے والوں
 میں سے نہ ہونا۔
 وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾
 ۱۸۲۔ اور سیدھی ترازو سے تولو کرو۔
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
 تَتَعَوَّافِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾
 ۱۸۳۔ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا
 کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ
 الْأُولَىٰ ﴿١٨٤﴾
 ۱۸۴۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور
 گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔

تفسیر آیات

حضرت شعیب علیہ السلام نے ایکہ کے معاشرے میں جن تجارتی بے ایمانیوں کی نشاندہی فرمائی عیناً انہی
 تجارتی بے ایمانیوں کی نشاندہی قوم مدین کے بارے میں فرمائی۔ چنانچہ سورۃ الاعراف آیت ۸۵ میں فرمایا:
 فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا
 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ...
 لہذا تم ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی
 چیزیں کم کر کے نہ دو۔
 اس سے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں علاقے ایک قسم کی بے ایمانی میں مبتلا تھے۔ چنانچہ
 ان علاقوں کے تجارتی شاہراہوں پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ لوگ رہزنی کی وارداتیں بھی کرتے تھے۔
 چنانچہ سورۃ اعراف آیت ۸۶ میں اس کی صراحت آگئی:

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ... ہر راستے پر (راہزن بن کر) نہ بیٹھا کرو۔
 چونکہ علاقے بھی باہم متصل تھے اور قوم بھی ایک تھی اس لیے ان دونوں کی طرف ایک ہی رسول
 حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ مدین اور ایکہ حجاز اور شام کے درمیان تجارت کی ایک اہم منڈیاں
 تھیں۔ اس لیے یہاں سے تجارتی قافلوں کا گزر ہوتا تھا۔ حجاز والے شام سے اور شام والے حجاز سے آنے
 والی اشیاء خریدتے ہوں گے۔ اس سلسلے میں جو بے ایمانیاں ہوتی تھیں ان کے لیے حکم ہوا: اول پیمانہ پورا
 بھرو۔ دوم سیدھی ترازو تولو کرو۔ سوم دھوکہ دہی سے باز آ جاؤ کہ لوگوں کو مطلوبہ چیزوں کی جگہ ناقص چیزیں
 دے کر نقصان میں ڈالو: لَا تَبْخَسُوا...۔

چہاں یہ کہ زمین میں فساد مت پھیلا کر۔ تجارت میں بے ایمانیاں کرنا فساد فی الارض ہے:
 لَا تَتَعَوَّافِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ اقتصادی بے ایمانیوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔
 صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے استحصالیوں نے اقتصادی ذرائع سے زمین کو فساد سے پر کیا ہے۔

وَأَتَّقُوا الذِّئْبَ خَلَقَكُمْ: اس اللہ کی عدالت سے بچے رہو جس نے تمہیں اور تمہاری آبا و اجداد کو خلق فرمایا ہے۔ الْجِبِلَّةُ، الخلقة یعنی الخلق الاولین جن گزشتہ نسلوں کی یہ لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں اللہ ان کا بھی خالق ہے۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ ﴿١٨٥﴾ ۱۸۵۔ انہوں نے کہا: تم تو بس سحر زدہ ہو۔
وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ ۱۸۶۔ اور تم تو بس ہم جیسے انسان ہو نیز ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔

تفسیر آیات

۱۔ تمام انبیاء علیہم السلام پر جادو کا الزام اس لیے لگاتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے ساتھ معجزات لے کر آتے تھے۔ ان معجزوں کو وہ جادو کہہ کر ٹھکراتے اور بشر اور انسان کو رسالت کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۱۸۷۔ پس تم سچے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر
إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿١٨٧﴾ گرا دو۔
۲۔ عذاب کی نوعیت کا بھی خود تعین کرتے ہیں کہ آسمان سے ٹکڑے ہم پر برسائے جائیں۔

قَالَ رَبِّيٰٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ ۱۸۸۔ شعیب نے کہا: میرا پروردگار تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔

۳۔ عذاب نازل کرنا میرے رب کا کام ہے جس کے علم میں تمہاری تمام حرکتیں ہیں۔ وہی جانتا ہے کہ تم عذاب کے مستحق ہو۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ ۱۸۹۔ انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، چنانچہ سائبان
وَاللُّظُلَّةِ ۱۸۹۔ انہوں نے انہیں گرفت میں لے لیا
عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ بیشک وہ بہت بڑے (ہولناک) دن کا عذاب تھا۔

تشریح کلمات

الظُّلَّةِ: (ظ ل ل) چھتری۔ سائبان۔



تفسیر آیات

چنانچہ انہیں ساتبان کے دن کے عذاب نے گرفت میں لے لیا۔ اس جگہ مزید تشریح، آیات اور مستند احادیث سے نہیں ملتی۔ ممکن ہے جیسے ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آسمان سے ان پر ٹکڑا گرے، اسی ساتبان سے ان پر بڑا عذاب آگ کے ٹکڑوں کی شکل میں گرا ہو۔

ایکہ اور مدین کے علاقے مختلف ہونے پر ایک قرینہ یہ ہے کہ ان دونوں علاقوں پر آنے والے عذاب مختلف تھے۔ مدین والوں پر عذاب دھا کے کی شکل میں آیا: فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ... لہ اور ایکہ والوں پر يَوْمَ الظُّلَّةِ کا عذاب آیا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اگر معجزے سے ایمان لانے والے ہوتے تو ان بڑے بڑے معجزوں سے ایمان لے آتے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾ اور یقیناً آپ کا پروردگار ہی بڑا غالب آنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔
وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ جسے روح الامین نے اتارا،
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ آپ کے قلب پر تاکہ آپ تنبیہ کرنے
عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ والوں میں سے ہو جائیں،

تفسیر آیات

۱۔ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ: یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ سات انبیاء علیہم السلام کے ذکر کے بعد قرآن کا ذکر شروع ہوا کہ جس طرح ان کو مبعوث فرمایا، ان کی تکذیب کی گئی اور تکذیبی قومیں تباہ ہوئیں بالکل اسی طرح یہ قرآن آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے۔ اسی یکتا رب کی طرف سے جو عالمین کا رب ہے۔

۲۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ: اس قرآن کو روح الامین یعنی جبرئیل نے قلب رسول پر نازل فرمایا ہے۔ یہاں جبرئیل کا نام لینے کی جگہ روح الامین فرمایا یہ باور کرانے کے لیے کہ اس قرآن کو نازل ایسے فرشتے کے ذریعے کیا ہے کہ جس میں خواہشات کا میلان نہیں ہے۔ مادی خواہشات کا اس میں وجود تک نہیں

ہے۔ خالص روح اور امین ہے۔

عَلَى قَلْبِكَ: قرآن قلب رسول پر نازل ہوا ہے۔ نزول وحی کے بارے میں مقدمہ اور سورہ بقرہ آیت ۹۷ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قلب سے مراد صنوبری شکل کا عضوی نہیں ہے بلکہ قلب اس مرکزی قوت کا نام ہے جو نفس اور روح کے ماوراء میں موجود ہے۔ قلب رسول پر وحی نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم وحی کا ادراک علم حضوری کے طور پر اپنے پورے وجود سے کرتے تھے، نہ محسوسات کی طرح حواسِ خمسہ سے۔

چنانچہ رسول کریم ﷺ پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے اور غشی طاری ہوتی تو آپ فرشتہ وحی کو دیکھ لیتے اور آواز سن لیتے تھے جب کہ گرد و پیش کے لوگ نہ کوئی آواز سنتے تھے، نہ کسی کو دیکھتے تھے۔ اگر عام حواس کے ذریعہ وحی ہوتی تو دوسرے لوگ بھی سن لیتے۔

لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ بشیر و نذیر ہیں لیکن بشارت پر نذارت یعنی تنبیہ کو قرآن زیادہ اہمیت دیتا ہے: اِنَّمَا اَنْتَ مُنذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ چونکہ انسانی کردار میں انحراف کا خطرہ زیادہ ہے اور خواہشات کا غلبہ انسان پر ہر وقت ہو سکتا ہے جس سے انسان بنیادی طور پر منحرف واقع ہوا ہے اس لیے تنبیہ کو بشارت سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔

اہم نکات

۱۔ مؤمن کو کردار سازی میں انحراف پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿۱۹۵﴾ ۱۹۵۔ صاف عربی زبان میں۔

تفسیر آیات

عربی زبان کا ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو نہایت واضح اور دل نشین ہو۔ لحن کلام ایسا ہے کہ سننے کو دل چاہتا ہے اور دل میں عناد رکھنے والا بھی اس کلام کی طرف کھنچ جاتا ہے تاکہ کوئی یہ عذر پیش نہ کرے کہ کلام مبہم واضح المعنی نہ ہونے کی وجہ سے ہم سمجھ نہ سکے۔

وَ اِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْاُولٰٓئِنَ ﴿۱۹۶﴾ ۱۹۶۔ اور اس (قرآن) کا ذکر (انبیائے) ماسلف

کی کتب میں بھی ہے۔

توحید، رسالت، آخرت کی تعلیمات پر مشتمل یہ قرآن کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے۔ یہی تعلیمات تمام

انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں موجود ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی رسالت کی اساس انہی تعلیمات پر مبنی ہے۔ خاص کر رد شرک کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ شرک کے مسئلے پر نبرد آزما رہے ہیں۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ
عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٤﴾
نہیں ہے کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء
جانتے ہیں۔

تفسیر آیات

اہل مکہ خود تو سابقہ آسمانی کتابوں سے واقف نہ تھے لیکن انہیں یہ علم تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء جو تعلیمات بتاتے ہیں وہ بھی انہی تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ مکہ والوں نے علمائے بنی اسرائیل سے مختلف مناسبتوں میں سن لیا تھا کہ یہ تعلیمات وہی ہیں جو ہماری کتاب میں ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر طیارؓ کی دعوت پر بیس افراد پر مشتمل ایک وفد مکہ آیا اور کفار قریش کے سامنے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ آپؐ کیا تعلیمات لائے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں چند قرآنی آیات تلاوت فرمائیں۔ یہ آیات سن کر ان کی آنکھیں اشکبار ہوئیں اور ایمان لے آئے۔ اس قسم کے دیگر واقعات سے مکہ والوں کو علم ہو گیا تھا کہ قرآنی تعلیمات آسمانی تعلیمات کا ایک تسلسل ہے۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ
الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾
اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی پر
نازل کرتے،
١٩٩۔ اور وہ اسے پڑھ کر انہیں سنا دیتا تب بھی یہ
اس پر ایمان نہ لاتے۔

تشریح کلمات

اعجم: (ع ج م) غیر فصیح اور جو اپنے مافی الضمیر کو بیان نہ کر سکے۔

تفسیر آیات

یہ قرآن جو عربی میں واضح البیان ہے اگر کسی غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ کہہ کر اسے رد

کرتے کہ اس پر ہم کیسے ایمان لے آئیں اس کی زبان ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے۔
بعض اس آیت کی اس طرح تفسیر کرتے ہیں:

ہم نے قرآن کو عربی زبان میں عربی بولنے والے شخص پر نازل کیا تو تم نے کہا: یہ اس نے خود تصنیف کیا ہے لیکن اگر ہم یہ قرآن عربی زبان میں کسی غیر عرب پر نازل کرتے اور وہ تم کو پڑھ کر سناتا تو بھی تم یہ کہہ کر ایمان لانے سے انکار کرتے کہ یہ صریح جادو ہے کیونکہ غیر عرب عربی میں بات کر رہا ہے۔

یہ تفسیر سورہ حم سجدہ کی آیت ۴۴ کی روشنی میں قابل قبول نہیں ہے جس میں ارشاد فرمایا:
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا يَهْدِيهِ إِلَّا أَعْيُنُهُمْ فَوَجَدُوا لَهَا آيَاتٍ كَذِبًا
یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیوں نہیں کیا گیا؟

غیر عربی ہونے کی وجہ سے ان کے لیے مبہم ہوتا اور اسی کو بہانہ بنا کر رد کرتے۔ جب کہ اب یہ قرآن فصیح اور واضح البیان عربی میں ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

اہم نکات

۱۔ جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا ان کے لیے عذر بنانا مشکل نہیں ہوتا۔

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝
۲۰۰۔ اس طرح (کے دلائل دے کر) ہم نے اس قرآن کو ان مجرموں کے دلوں میں سے گزارا ہے۔
لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝
۲۰۱۔ پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب دیکھ نہ لیں۔

تفسیر آیات

۱۔ مجرمین جب کلام الہی سن لیتے ہیں تو اہل ایمان کی طرح ان آیات کو دل کی گہرائیوں میں نہیں اتارتے بلکہ وہ اپنے دلوں سے غور و خوض کیے بغیر گزار لیتے ہیں۔ کلام الہی کے سامنے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرتے، دلوں کو چھوئے بغیر گزار لیتے ہیں۔ انہیں ایسی حالت سے دوچار اللہ نے کیا ہے۔ یعنی جب یہ لوگ ایمان کے اہل ثابت نہ ہوئے تو اللہ نے ان سے ایمان کی توفیق سلب کر لی۔ چنانچہ وہ عذاب سر پر آنے تک ایمان نہیں لائیں گے۔

فِيَاتِيهِمْ بَعْتَهُ وَ هُمْ لَا ۲۰۲۔ پس یہ عذاب ناگہاں اور بے خبری میں
يَشْعُرُونَ ﴿۲۰۲﴾ ان پر واقع ہوگا۔

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿۲۰۳﴾ ۲۰۳۔ تو وہ کہیں گے: کیا ہمیں مہلت مل سکے گی؟

تفسیر آیات

۲۔ چنانچہ ایسے مجرمین پر عذاب دفعہ آجاتا ہے۔ عذاب دیکھ فوراً اپنی گزشتہ زندگی سامنے آئے گی اور جرائم یاد آئیں گے۔ فوراً ذہنوں میں ایک ارمان ابھرے گا کہ کاش گزشتہ زندگی پلٹ آئے یا ایک موقع اور دیا جاتا تو اس عذاب سے بچنے کا سامان کر لیتے۔

أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۲۰۴﴾ ۲۰۴۔ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے عجلت
کر رہے ہیں؟

تفسیر آیات

۳۔ کیا منکرین اس عذاب کے لیے عجلت کر رہے ہیں جو ہم نے ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے اور وہ ہماری سنت و طریق کار کے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا؟

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿۲۰۵﴾ ۲۰۵۔ یہ تو بتلاؤ کہ اگر ہم انہیں برسوں سامان
تُمْ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا
زندگی دیتے رہیں،

يُوعَدُونَ ﴿۲۰۶﴾ ۲۰۶۔ پھر ان پر وہ عذاب آجائے جس کا ان
کے ساتھ وعدہ ہوا تھا،

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يُمْتَعُونَ ﴿۲۰۷﴾ ۲۰۷۔ تو وہ (سامان زندگی) ان کے کسی کام نہ
آئے گا جو انہیں دیا گیا تھا۔

تفسیر آیات

۱۔ اَفَرَأَيْتَ: پہلے بھی بیان ہوا کہ اَفَرَأَيْتَ کی ترکیب اخباری یہ تو بتلاؤ کے معنی میں آتی ہے۔ فرمایا: یہ تو بتلاؤ تم جس عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو وہ ابھی نہیں آتا بلکہ تمہیں ڈھیل دی جاتی ہے لیکن جب یہ عذاب دفعہ آجائے گا تو یہ ڈھیل تمہارے کس کام کی ہوگی۔ اس ڈھیل سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا بلکہ اس ڈھیل میں ان لوگوں نے اپنے جرائم میں اضافہ کیا ہے۔

اہم نکات

۱۔ مہلت سے مؤمن اپنے حسنات اور کافر اپنے جرائم میں اضافہ کرتا ہے۔

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا لَهَا
مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ
کہ اس بستی کو تنبیہ کرنے والے تھے۔
ذِكْرِي وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ یاد دہانی کے لیے، اور ہم کبھی بھی ظالم نہ تھے۔

تفسیر آیات

۱۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے رسول بھیجتا ہے۔ وہ رسول اپنی رسالت کی حقانیت پر دلیل و معجزہ لے کر آتے اور اپنی قوم کو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ رسول قوم کی طرف سے ہونے والی اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب ناقابل ہدایت ہوتی ہے تو اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں نو سو پچاس سال تبلیغ کی۔ اس کے بعد طوفان کی شکل میں عذاب آیا۔
۲۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ: اللہ فرماتا ہے کہ ہم ظالم نہ تھے۔ یعنی اگر حجت پوری کرنے سے پہلے ان پر عذاب نازل کرتے تو ہم ظالم ہوتے۔

واضح رہے مسلمانوں کے ایک کلامی مکتب کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ جو کام بھی کرے گا وہ ظلم نہ ہوگا۔ اس نظریے کے تحت اللہ کا فرمان ہم ظالم نہیں ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے ظلم صادر ہی نہیں ہو سکے گا۔ جو کام بھی ہم سے صادر ہوگا وہ ظلم نہ ہوگا۔ خواہ تمام مؤمنین کو جہنم میں اور کافروں کو جنت میں ڈال دیں۔

شیعہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ظلم قبیح ہے اور اللہ کی ذات قبائح سے پاک و منزہ ہے۔ لہذا اللہ ظلم نہیں کرتا، نہ یہ کہ ظلم کر نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر اللہ مؤمن کو ثواب اور کافر کو عذاب نہ دے تو یہ ظلم اور ناانصافی ہوگی، غرض خلقت کی نفی اور خلقت عبث ہو جائے گی اور اللہ عبث کاری سے پاک ہے۔ لہذا اللہ سے ظلم صادر نہیں ہو سکتا۔

اہم نکات

۱۔ اللہ کی طرف سے ظلم کا خطرہ نہیں، رحمت کی امید ہوتی ہے۔

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٢١٠﴾ اور اس قرآن کو شیاطین نے نہیں اتارا۔

وَمَا يَتَّبِعِي لَهُمْ وَ مَا ۲۱۱۔ اور نہ یہ کام ان سے کوئی مناسبت رکھتا ہے
اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں۔
يَسْتَطِيعُونَ ۱۱
۲۱۲۔ وہ تو یقیناً (وحی کے) سننے سے بھی دور رکھے
إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُؤُونَ ۱۲ گئے ہیں۔

تفسیر آیات

کفار قریش کا سب سے بڑا الزام یہ تھا: محمد کا ہن ہے دوسرے کا ہنوں کی طرح۔ محمد کا شیاطین سے
رابطہ قائم ہوا ہے اور یہ شیاطین اس قسم کا کلام بنا کر لاتے ہیں۔
جواب میں فرمایا: یہ شیاطین کا کلام نہیں ہے پھر اس کی وجوہات بیان فرمائیں:
اول: یہ کہ وَمَا يَتَّبِعِي لَهُمْ اس کلام اور شیاطین میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کہاں یہ ملکوتی کلام
اور کہاں شیاطین۔ قرآنی تعلیمات، افکار، اخلاق، حقائق، رموز، اسرار اور شیاطین کی شرارت،
خرافات اور فسادات میں کوئی تناسب نہیں ہے۔ خود وقت کے کاہن بھی تو گواہی دیتے تھے کہ
اس قرآن کی کاہن کے کلام کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔
دوم: یہ کہ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ شیاطین کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کلام پیش کریں۔ اگر
ممکن ہوتا تو خود مشرکین، کاہنوں کے ذریعے جنات و شیاطین سے رابطہ کر کے قرآن کا مقابلہ
کرتے اور شیاطین کے ذریعے قرآن جیسا کلام پیش کرتے۔
سوم: یہ کہ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُؤُونَ شیاطین آسمانی خبریں سننے سے دور رکھے گئے ہیں۔ اب وہ
لیکتے شعلوں کی زد میں ہیں۔

اہم نکات

۱۔ خود کلام الہی میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ ۲۱۳۔ پس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ
پکاریں ورنہ آپ بھی عذاب پانے والوں میں
مِنَ الْمَعَذَّبِينَ ۱۳
شامل ہو جائیں گے۔

تفسیر آیات

خطاب رسول کریم ﷺ سے ہے اور اس خطاب کے ذریعے ایک حقیقت بیان کرنا مقصود ہے کہ

اگر بفرض محال خود رسول اللہ ﷺ کسی غیر خدا کو معبود بنا لیتے ہیں تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ رسول کا معصوم ہونا اپنی جگہ درست ہے۔ معصوم سے شرک سرزد نہ ہو گا تاہم معصوم بھی شرک سے بچنے کے مکلف ضرور ہیں۔ عصمت کی وجہ سے غیر مکلف نہیں ہوتے۔ قرآن میں اس کی دیگر مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً فرمایا: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ...! اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور حبط ہو جائے گا۔

وَإِنذُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۲۱۴﴾ اور اپنے قریب ترین رشتے داروں کو تنبیہ کیجیے۔

تشریح کلمات

عشيرة: عشيرة الرجل قرابته: عشيرة سے مراد قریبی رشتے دار ہیں چونکہ قریبی رشتہ دار باہم معاشرت کرتے ہیں اس لیے عشیرہ کہا گیا ہے۔

تفسیر آیات

انبیاء علیہم السلام تبلیغ وارشاد کا سلسلہ اپنے قرابتداروں سے شروع فرماتے ہیں۔ الْأَقْرَبِينَ میں بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب شامل ہیں۔ (جلالین)

الْأَقْرَبِينَ قریبی ترین رشتہ داروں سے دعوت کی ابتدا اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ رسول کی حیات میں یہی لوگ سب سے زیادہ رسول کے حامی ہوں گے اور رسول کی حیات کے بعد تبلیغ کا بوجھ اٹھانے والے یہی ہوں گے۔

نیز دعوت اپنے قریبی ترین رشتہ داروں سے شروع کرنے میں یہ راز بھی ہے کہ اگر قریبی لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے تو ذہنوں میں ایک سوال اٹھ سکتا تھا کہ اپنے قریبی رشتہ دار چونکہ محمد کو قریب سے جانتے ہیں، اگر یہ دعوت حق پر مبنی ہوتی تو رشتہ داروں کو پہلے دعوت دینا چاہیے تھا۔ رسول اللہ کی دعوت یا خود رسول اللہ میں کوئی کمزوری ہوتی تو قریب سے جاننے والوں سے پرہیز کرتے۔

الْأَقْرَبِينَ: قریبی ترین رشتہ دار۔ بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب قریبی ترین شامل ہیں جیسا کہ لفظ عشیرة کی تاکید اور مزید وضاحت کے لیے اقریبین فرمایا۔

لہذا وہ روایات جن میں کہا ہے کہ رسول اللہ نے قریش کے تمام قبائل کو بلایا۔ قرآنی صراحت کے خلاف ہے۔ ساتھ ان روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دعوت کے موقع پر تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ! نازل ہوئی ہے اس کے مطابق لازم آتا ہے سورہ شعراء، سورہ تبت سے پہلے نازل ہوا ہو جب کہ ترتیب نزول میں سورہ تبت چھٹا سورہ ہے اور سورہ شعراء ۴۷ واں سورہ ہے۔

شان نزول: عبد اللہ بن عباس حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: جب رسول اللہؐ پر آیہ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہؐ نے مجھے بلایا فرمایا: یا علی! اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قریبی ترین رشتہ داروں کی تنبیہ کروں۔ اس حکم سے میرا دل تنگ ہو گیا۔ مجھے علم تھا کہ میں جب یہ کام شروع کروں گا تو ان کا رد عمل نامناسب ہوگا۔ میں نے خاموشی اختیار کی تو جبرئیل نازل ہوئے اور کہا: اے محمد! اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو اللہ آپ کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔

لہذا اے علی! ایک صاع کھانا تیار کرو۔ ایک بھیڑ کی ران اور ایک پیالہ دودھ سے بھر دو۔ پھر عبدالمطلب کے خاندان کے افراد کو جمع کرو کہ میں ان سے بات کروں اور جس چیز کا مجھے حکم ملا ہے وہ ان تک پہنچا دوں۔

میں نے حکم کی تعمیل کی اور سب کو بلایا جو چالیس افراد بنے تھے۔ ایک کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ ان میں ان کے چچا عباس، حمزہ، ابوطالب، ابولہب شامل تھے۔ جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو مجھ سے کھانا پیش کرنے کے لیے فرمایا۔ جب میں نے پیش کیا تو رسول اللہؐ نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اپنے دانتوں سے اس کو چیرا پھر اسے برتنوں کے کناروں پر ڈال دیا پھر فرمایا: لے لو بسم اللہ۔

چنانچہ سب نے کھایا اور سب سیر ہو گئے۔ جب کہ اس اللہ کی قسم! جس کے قبضے میں علی کی جان ہے جو کھانا میں نے پیش کیا تھا وہ ان کا ایک آدمی کھا سکتا تھا۔ پھر فرمایا: ان کو پلاؤ۔

پھر میں نے وہ پیالہ پیش کیا تو سب نے پیا اور سب سیراب ہو گئے جب کہ قسم بخدا ان کا ایک آدمی یہ سارا پی سکتا تھا۔ رسول اللہؐ نے بات شروع کرنا چاہی تو ابولہب نے پہل کی اور کہا:

تمہارے اس ساتھی نے تو پہلے بھی ایسے جادو کیے ہیں۔

جس سے لوگ متفرق ہو گئے۔ دوسرے دن رسول اللہؐ نے فرمایا:

اے علی! اس شخص نے پہل کی۔ میرے بات کرنے سے پہلے لوگ متفرق ہو گئے۔ تم پہلے کی طرح ان کے لیے کھانا تیار کرو۔

میں نے ایسا کیا اور سب کو جمع کیا۔ گذشتہ کل کی طرح کھانا پیش کیا۔ سب نے سیر ہو کر کھایا اور سیراب ہو کر پیا۔

پھر رسول اللہ نے بات شروع کی۔ فرمایا:

اے عبدالمطلب کی اولاد! میں کسی عرب جوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کی طرف اس چیز سے بہتر لے کر آیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اسی بھلائی کی طرف دعوت دوں۔

آپ میں سے کون ہے جو اس سلسلے میں میرا ہاتھ بٹائے کہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ بن جائے۔

سب رک گئے میں نے کہا:

حالانکہ میں ان سب میں کم سن، آشوب چشم والا، ابھرے شکم والا، نازک پنڈلی والا تھا۔ یا نبی اللہ! میں آپ کا ہاتھ بٹانے والا ہوں گا۔

رسول اللہ نے میری گردن پر ہاتھ رکھ کر فرمایا:

ان هذا اخي و وصبي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و اطيعوا۔

یہ میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے۔ اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔

اس پر لوگ ہستے ہوئے کھڑے ہوئے اور ابوطالب سے کہا:

تجھے اپنے بیٹے کی بات سننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔

یہ حدیث درج بالا الفاظ کے ساتھ طبری نے اپنی تاریخ، تاریخ الامم و الملوك ۲: ۳۱۹ میں

اور ابو جعفر اسکافی نے نقض العثمانیة ۳۰۳ میں روایت کی ہے اور کہا ہے:

انه روى في الخبر الصحيح۔

اور شہاب الدین خفاجی نے شرح الشفا ۳: ۳۵ میں نقل کیا ہے اور آخر میں کہا ہے:

وقد ذكر دلائل البيهقي وغيره بسند صحيح۔

۲۔ دوسرے الفاظ میں یہ حدیث اس طرح آئی ہے:

فايكم يياي عنى على ان يكون اخي تم میں کون ہے جو میری اس بات پر بیعت کرے

وصاحبي و وارثي۔ کہ وہ میرا بھائی، میرا ساتھی اور میرے وارث ہو۔

تین بار ان جملوں کی تکرار فرمائی۔ آخر میں علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔

ان الفاظ میں امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند ۲: ۳۵۷ میں روایت کی ہے اور اس روایت

کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ امام نسائی نے الخصائص اور السنن الكبرى ۵: ۱۲۵ میں روایت کی ہے۔

ملاحظہ ہو الغدیر ۲: ۳۹۹۔

۳۔ تیسرے الفاظ میں یہ حدیث اس طرح آئی ہے:

من يباعدني على ان يكون اخي و
صاحبي و وليكم بعدى۔ فمددت
يدي و قلت انا اباعدك۔
کون میرے ہاتھ اس بات پر بیعت کرے گا کہ وہ
میرا بھائی، میرا ساتھی اور میرے بعد تمہارا ولی ہو تو
میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا: میں آپ کی بیعت
کرتا ہوں۔

ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے حافظ ابن مردويه نے جس کا سیوطی نے جمع الجوامع
میں ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو کنز العمال ۱۳: ۱۷۴

۴۔ چوتھے الفاظ میں یہ حدیث اس طرح منقول ہے:

فقال اجلس فانك اخي و وزيرى و
وصيى و وارثى و خليفتى من بعدى۔
وصى، میرا وارث اور میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔
فرمایا: علی بیٹھ جاؤ۔ تو میرا بھائی، میرا وزیر، میرا
حافظ ابو حاتم اور حافظ بغوی نے ان الفاظ میں روایت کی ہے۔ ملاحظہ ہو السيرة

الحلبية ۱: ۲۸۶

۵۔ پانچویں الفاظ میں یہ حدیث اس طرح منقول ہے۔

ثم قال: من يواخيني و يوازرني و
يكون وليى و وصيى بعدى و
يخلفنى فى اهلى يقضى دينى۔
پھر فرمایا: کون میرا بھائی اور وزیر ہوگا کہ میرے بعد
میرا ولی اور وصی اور میرے اہل بیت میں میرا خلیفہ
بن جائے اور میرا قرض ادا کرے۔

الكشف والبيان ثعلبى ۷: ۱۸۲ نے یہ روایت بیان کی ہے۔ ملاحظہ ہو كفاية الطالب

گنجی صفحہ ۲۰۴۔

مصر کے مقتدر ادیب اور شاعر عبدالمسیح انطاکی نے اپنے اشعار میں اس واقعہ کو نظم کیا
ہے۔ آخر میں کہتے ہیں:

كذاك حيدرة ماشى النبوة مذ نادى بها المصطفى لبي منادياها
وشارك المصطفى من يوم ان وضع الا ساس حتى انتهت عليا مبانها
اس طرح حیدر نبوت کے ساتھ چلتے رہے۔ جب بھی مصطفیٰ نے ندا دی آپ نے لبیک
کہا۔ جس دن محمد مصطفیٰ نے اس دین کی بنیاد رکھی ہے اس دن سے لے کر اس عمارت
کی تکمیل تک آپ مصطفیٰ کے شریک رہے۔

حدیث کی تحریف: طبری نے یہ حدیث اپنی تاریخ میں مکمل بیان کی ہے لیکن اپنی تفسیر میں اس

حدیث میں تحریف کر ڈالی۔ چنانچہ علی ان یكون اخي و وصيى و خليفتى فيكم کے الفاظ میں سے

وصیی و خلیفتی فیکم کی جگہ و کذا و کذا لکھ دیا۔ حدیث کے آخر میں بھی ان ہذا انھی کے بعد وصی اور خلیفتی کی جگہ و کذا و کذا لکھ دیا۔

ابن کثیر اپنے مصادر میں تاریخ طبری کو سرفہرست رکھتے ہیں لیکن اس حدیث کی نقل میں تاریخ طبری کی جگہ تفسیر طبری کی تحریف شدہ روایت انہیں زیادہ پسند آئی اور اپنی تاریخ البدایة والنهاية ۳: ۵۳ میں اور تفسیر میں وصیی و خلیفتی کی جگہ و کذا و کذا لکھ دیا۔

آیت میں تحریف: صحیح مسلم میں ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی:

وانذر عشیرتک الاقرین و رهطک منہم المخلصین۔ کہتے ہیں پھر نسخ ہو گئی۔
شاید آیت پہلے نازل ہوئی پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی پھر اس کا ایک حصہ سورہ شعراء میں دوبارہ نازل ہوا ہے۔

تفسیر قرطبی میں کہا ہے:

وظاهر هذا انه كان قرانا يتلى و انه اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ (و رهطک منہم المخلصین) قرآن کا حصہ تھا اور تلاوت نسخ۔

بھی ہوتی تھی جو بعد میں نسخ ہو گیا۔

اس قسم کی روایات کے تحت اس قسم کی عبارتوں کو اہل سنت کے علماء قرآن کا حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ پھر نظریہ نسخ تلاوت کے ذریعہ منسوخ فرض کرتے ہیں۔

ہم نے مقدمہ میں وضاحت سے لکھا ہے کہ اس قسم کی روایات میں اہل تشیع اور اہل سنت کے موقف میں بنیادی فرق یہ رہا ہے کہ شیعہ ایسی روایات کے تحت اس قسم کی عبارتوں کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے اور ان عبارتوں کو قرآن تسلیم کرنے سے پہلے توجیہ تاویل یا مسترد کرتے ہیں۔ اہل سنت ایسی عبارتوں کو قرآن کا حصہ تسلیم کرنے کے بعد ایک متنازعہ نظریے کے تحت منسوخ سمجھتے ہیں۔ وہ متنازعہ نظریہ نسخ تلاوت ہے۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا نسخ تلاوت ایک مفروضہ ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نسخ تلاوت ثابت نہ ہونے کی صورت میں اس قسم کی عبارتیں قرآن کا حصہ رہتی ہیں۔ اس سے تحریف قرآن لازم آتی ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

اعتراض: کیا ایک نابالغ بچے کو وصی، وارث اور خلیفہ بنایا جاتا ہے؟ کیا بزرگوں کو دعوت دینے کے لیے ایک بچے سے کام لیا جاتا ہے؟ کیا رسول اللہ ایک بچے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس سے بیعت لے سکتے ہیں؟
جواب: کیا حضرت علی علیہ السلام غیر مکلف، غیر عاقل تھے؟ تو کیا رسول اللہ نے ایک غیر مکلف اور غیر عاقل کو ایمان کی دعوت دی؟ کیا رسول اللہ نے علی علیہ السلام کے ایمان کو قبول نہیں کیا؟ اگر دعوت دی ہے تو

کیا یہ دعوت بحکم خدا تھی یا ذاتی خواہش پر؟
چونکہ رسول اللہ نے علیؑ کے علاوہ کسی بچے کو اسلام کی دعوت نہیں دی لہذا علیؑ حضرت آدمؑ کی طرح ہیں کہ وجود میں آنے کے فوراً بعد ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰؑ کی طرح کہ ابھی ایک دن کے تھے، اپنی نبوت کا اعلان کیا اور حضرت یحییٰؑ کی طرح ہیں جنہیں طفولیت میں حکمت دے دی گئی اور حضرت سلیمانؑ کی طرح ہیں جو گیارہ سال کی عمر میں حضرت داودؑ کے جانشین ہوئے۔

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ ۝۲۱۵ اور مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کریں
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۱۵﴾ ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔

تشریح کلمات

وَ اخْفِضْ: (خ ف ض) الخفض جھکنے کے معنوں میں ہے۔

جَنَاحَكَ: (ج ن ح) الجناح پرندے کا بازو۔

تفسیر آیات

۱۔ وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ: کا لفظی ترجمہ پروں کا نیچے رکھنا ہے۔ یہ محاورہ ہے نرمی برتنے، مہر و محبت کا اظہار کرنے کے لیے چونکہ پرندے زمین پر اترتے ہوئے پروں کو نیچے کر دیتے ہیں اور مہر و محبت کے پر اپنے چوزوں کے لیے پھیلا کر نیچے کر دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم مل رہا ہے کہ جو چند افراد اس وقت مومن بن گئے ہیں ان کی مہر و محبت کے ساتھ حفاظت کرو۔

چنانچہ سورہ توبہ آیت ۱۲۸ میں فرمایا:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ

مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

تحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاق گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق، مہربان ہے۔

وہ تمہارے بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق مہربان ہے۔ من المؤمنین سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے چند افراد مومن تھے۔ وہ حضرت خدیجہ (س) کے گھر کے تمام افراد مومن تھے۔

اہم نکات

۱۔ رحیم و مہربان رب کا نمائندے اللہ کی رحمت و مہربانی کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ ۝۲۱۶ - اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے
مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۱۶﴾
کہہ دیجیے کہ میں تمہارے کردار سے بیزار ہوں۔

تفسیر آیات

ان قریبی رشتے داروں میں سے جو لوگ مؤمن ہیں اور آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کے لیے مہر
و محبت اور تواضع کریں اور جو لوگ آپ کی دعوت کی نافرمانی کرتے ہیں اور ابولہب کی طرح اپنی بت پرستی پر
قائم رہتے ہیں تو ان سے بیزاری کا اظہار کیجیے۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت ہے:

إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ إِنْ
بَعَدَتْ لُحْمَتُهُ وَ إِنْ عَدُوُّ مُحَمَّدٍ مَنْ
عَصَى اللَّهَ وَ إِنْ قَرَبَتْ قَرَابَتُهُ لـ
محمد ﷺ کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے
اگرچہ ان سے کوئی قرابت نہ ہو اور ان کا دشمن وہ
ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ قریبی نزدیکی
قرابت رکھتا ہو۔

اہم نکات

۱۔ مؤمن اگر حضور کی کئی زندگی جیسے حالات میں ہے تو لوگوں کے برے اعمال سے بیزاری کرنا چاہیے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿۲۱۷﴾
۲۱۷۔ اور بڑے غالب آنے والے مہربان پر
بھروسہ رکھیں۔

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۲۱۸﴾
۲۱۸۔ جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب
آپ (نماز کے لیے) اٹھتے ہیں۔

وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجْدَيْنِ ﴿۲۱۹﴾
۲۱۹۔ اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نشست
و برخواست کو بھی۔

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲۲۰﴾
۲۲۰۔ وہ یقیناً بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔

تفسیر آیات

اس دعوت کے بعد پیش آنے والی مشکلات کے لیے اس ذات پر بھروسہ کرو جس کے یہ اوصاف ہیں:

۱۔ الْعَزِيزُ: بالادست غالب آنے والا ہے۔ ہر سازش، ہر طاقتور دشمن کی دشمنی پر غالب آنے والا ہے۔
۲۔ الرَّحِيمُ: وہ غالب آنے والا ہونے کے ساتھ مہربان بھی ہے۔ اس ذات پر بھروسہ کرنے میں لطف آنا چاہیے جو عین طاقت ہونے کے ساتھ مہربان بھی ہے ورنہ طاقتور بے رحم ہوا کرتے ہیں۔

۳۔ الَّذِي يَرَاكَ: جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے:

الف: حِينَ نَقُورُ: جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رات کی تاریکی میں وہی مہرباں ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے یا رسالت کا بوجھ اٹھا کر قیام کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔

ب: وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّجِدِينَ: بعثت کے ابتدائی دنوں کی بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ ﷺ کو اللہ کی طرف سے تائید و حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی تبلیغ رسالت میں اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے خواہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا سجدہ گزاروں میں ہوں یعنی ہر حالت میں آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔

اس آیت کی ایک تفسیر تو یہی ہے کہ ساجدین سے مراد نماز گزار لوگ ہیں جن میں رسول کریم ﷺ نشست و برخاست فرماتے تھے۔

دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ روایت میں آیا ہے:

جب تہجد کی نماز کا وجوب منسوخ ہو گیا تو اس رات رسول کریم ﷺ اپنے اہل ایمان کے گھروں کو ان کا حال دیکھنے تشریف لے گئے تو ذکر و تلاوت کی آواز اس طرح آرہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں ہیں۔

اس روایت کے تحت آیت کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ اللہ آپ کی رفت و آمد کو بھی دیکھ رہا ہے جو آپ سجدہ گزاروں کے درمیان کرتے ہیں۔

تیسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ اللہ آپ کے سجدہ گزار آباء و اجداد میں منتقل ہونے کو دیکھ رہا تھا۔ اس تفسیر کے مطابق شیعہ و سنی مصادر میں روایات موجود ہیں۔

تفسیر قرطبی اور الدر المنثور میں ابن عباس کی یہ روایت ہے:

یہ آیت رسول اللہ ﷺ کے آباء آدم، نوح، ابراہیم علیہم السلام کے بارے میں ہے یہاں تک آپ ﷺ کو نبی بنا کر (اپنے پدر کے صلب سے) پیدا کیا۔

شیعہ امامیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے آباء و اجداد سب مومن موحد تھے۔

اہم نکات

۱۔ اللہ اپنے رسول کو اپنی خاص نگرانی میں رکھتا ہے۔

هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ ۚ ۲۲۱- کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین کس پر اترتے
الشَّيَاطِينُ ۚ ﴿۳۶﴾
تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ﴿۳۷﴾ ۲۲۲- ہر جھوٹے بدکار پر اترتے ہیں۔
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ ۚ ۲۲۳- وہ کان لگائے رکھتے ہیں اور ان میں اکثر
كَاذِبُونَ ﴿۳۸﴾
جھوٹے ہیں۔

تشریح کلمات

آفَاكٍ : (ا ف ك) الافك ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو۔
أَثِيمٍ : (ا ث م) الاثم وہ اعمال و افعال ہیں جو ثواب سے روکنے والے ہوں جس کا ترجمہ ”گناہ“ سے کیا جاتا ہے۔

تفسیر آیات

هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ : آیت ۲۱۰ میں فرمایا کہ یہ قرآن شیاطین کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ شیاطین اور قرآن میں کوئی تناسب نہیں ہے۔
اس آیت میں فرمایا: شیاطین کا تناسب کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ شیاطین کے افکار ان کاہنوں کے ساتھ ملتے ہیں جو دروغ بانی کرتے ہیں۔ آفَاكٍ ہیں، خود ساختہ باتیں کرتے ہیں۔ أَثِيمٍ ہیں، جرائم پیشہ ہیں۔ لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو غیب کی باتیں کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں۔
يُلْقُونَ السَّمْعَ: القاء السمع کان لگا کر سننے کو کہتے ہیں۔ فرمایا: یہ لوگ کان لگا کر سنتے ہیں۔ کون لوگ کس سے سنتے ہیں؟ دو رائے ہیں: ایک یہ کہ یہ کاہن شیاطین کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں پھر ان باتوں کو حقیقت کا روپ دے کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں جو بیشتر جھوٹی ہیں۔
دوسری رائے یہ ہے کہ شیاطین کان لگائے بیٹھتے ہیں کہ فرشتوں سے کوئی معلومات ہاتھ آئیں۔ اگر کوئی ایک آدھ جملہ ہاتھ آجائے تو اسے کاہنوں کو بتا دیتے ہیں۔ ان میں بھی اکثر جھوٹ پر مبنی ہیں۔
سیاق آیت کے مطابق پہلی رائے قابل ترجیح ہے چونکہ أَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ کاہنوں کے بارے میں ہے۔ اس جملے سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ان کاہنوں کی ایک آدھ بات صحیح نکل آتی ہے جس کی بنیاد پر ان کے جھوٹ کے لیے مارکیٹ بن جاتی ہے۔

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۳۹﴾ ۲۲۴- اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔

تفسیر آیات

کفار کا ایک الزام یہ تھا کہ محمدؐ شاعر ہیں:

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ
الْمُنُونِ ۝۱

کیا یہ لوگ کہتے ہیں: یہ شاعر ہے، ہم اس کے
بارے میں گردش زمانہ (موت) کے منتظر ہیں؟

اس آیت میں فرمایا الشُّعْرَاءُ کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔

الشُّعْرَاءُ: قرآن کن لوگوں کو شعراء کہتا ہے؟ بعض کے نزدیک شعراء ان جنات کو کہتے ہیں جو
وحی کی باتیں سن کر کاہنوں کو بتاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے آپ نے اس
آیت کے ذیل میں فرمایا:

ہم القصاص۔ ۱
شعراء سے مراد قصہ گو لوگ ہیں۔

حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت ہے۔ فرمایا:

ہل رأیت شاعراً يتبعه احد انما هم
قوم تفقهوا لغير الدين فضلوا
واضلوا۔ ۲

کیا تو نے کسی شاعر کو دیکھا ہے اس کی کوئی پیروی
کر رہا ہو۔ یہاں شاعر سے مراد وہ قوم ہے جو غیر
مذہبی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ گمراہ
ہوتی اور گمراہ کرتی ہے۔

لہذا آیت میں شعراء سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقائق اور واقع نفس الامری سے دور خیالات اور
تصورات کی ایک موہوم دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ شاعری سے مراد وہ معنی نہیں ہو سکتے جو ہمارے درمیان
متعارف ہیں چونکہ مشرکین قرآن کو شعر اور رسول کو شاعر کہتے تھے۔ ان لوگوں کے مطابق قرآنی آیات حقائق
کی نشاندہی نہیں کرتیں بلکہ یہ خیالات و تصورات کی باتیں ہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ
يَهِيمُونَ ﴿۱۷﴾

۲۲۵۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ ہر وادی
میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔

تفسیر آیات

کیا آپ نہیں دیکھتے یہ شعراء لوگ قرآن کی طرح ایک منزل، ایک مقصد اور ایک ہدف کی طرف
نہیں جاتے بلکہ وہ ہر وادی میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ کبھی حق کو باطل اور باطل کو حق دکھایا۔ کبھی بزدل کو
بہادر اور بہادر کو بزدل بنایا۔ کبھی بخیل کو سخی اور سخی کو بخیل ظاہر کیا۔ وہ ہر حق و حقیقت سے دور و ہمسایہ کی وادیوں

میں بے مقصد سرگرداں ہوتے ہیں۔

وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾
اور جو کہتے ہیں اسے کرتے نہیں۔

شاعروں کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے اقوال ان کی سیرت و کردار کے مطابق نہیں ہوتے۔ خود بخیل ہوتے ہیں، سخاوت کی تعریف کرتے ہیں۔ خود بزدل ہوتے ہیں، بہادری کی تعریف کرتے ہیں جب کہ رسول اللہ ﷺ جو بات بھی ارشاد فرماتے ہیں اس کا اعلیٰ ترین نمونہ ان کی ذات میں پایا جاتا ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ... ل

تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔۔۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا
مَنْ بَعْدَ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

۲۲۷۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اور کثرت سے اللہ کو یاد کریں اور مظلوم واقع ہونے کے بعد انتقام لیں اور ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ کر جائیں گے۔

تفسیر آیات

البتہ اسلام فن شعری کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے:

إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لِحِكْمَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا۔ ۱

کبھی شعر حکمت پر مشتمل ہوتا ہے اور بیان میں جادو ہوتا ہے۔

۱۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا: اگر شعراء ایمان اور عمل صالح والے ہیں تو ان میں وہ تین باتیں نہ ہوں گی جو غیر مومن شعراء میں ہیں۔ وہ عمل صالح بجا لانے والے ہوں گے۔ اس لیے اپنے اشعار کو وہ عمل صالح کے لیے استعمال کریں گے۔

۲۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا: ان کے اشعار ان کو ذکر خدا سے غافل کرنے کا سبب نہیں بنتے بلکہ ذکر خدا کا سبب بنتے ہیں کہ وہ اپنے اشعار کو اللہ کی رضا کے لیے مختص کرتے ہیں۔

۳۔ وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا: اپنے اشعار کو ظالموں سے انتقام لینے کا ذریعہ بنائیں۔

مظلوم واقع ہونے کے بعد اگر ضرب سنان ممکن نہ ہو تو ضرب لسان بہترین ذریعہ ہے ظالموں سے انتقام لینے کا:
لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ اللَّهُ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی (کسی کی) برملا
إِلَّا مَنْ ظَلَمَ...! برائی کرے، مگر یہ کہ مظلوم واقع ہوا ہو

چنانچہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ان شعراء کی قدر کرتے تھے جو اہل بیت کی مدح اور دشمنان اہل بیت کی ہجو
میں شعر کہتے تھے۔ چنانچہ لوگ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل میں شعر کہتے ہیں اور ان کے مصائب کے سلسلے
میں مرثیہ کہتے ہیں۔ وہ سب وَأَنْتَصِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمْتُمْ کے مصداق میں شامل ہوں گے البتہ ایمان و عمل
صالح اور ذکر خدا کے ساتھ ہوں، ان کی جگہ نہ ہوں جیسا کہ بعض ناداں خیال کرتے ہیں۔

۴- وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا: اس میں عصر علیہم السلام کے مشرکین کے بارے میں اور بعد میں
آنے والے ہر ظالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ایک کلی قانون کی طرف اشارہ ہے کہ ظالم کا انجام بہت برا
ہوگا:

يَوْمَ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ مَظْلُومِ الظَّالِمِ عَلَى الْمَظْلُومِ۔
کے دن سے زیادہ شدید ہوگا۔
بعض شیعہ روایات میں اس آیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

سيعلم الذين ظلموا (حق آل محمد) ای منقلب ينقلبون.

درمیان میں حق آل محمد روایت کا حصہ ہے جو مصداق بیان کرنے کے سلسلے میں ہے۔ قرآن کا
حصہ نہیں ہے۔ اس بات پر دوسرے بہت سے یقینی دلائل کے ساتھ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے
دوسرے مقامات پر جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو ”حق آل محمد“ کے بغیر تلاوت فرمائی ہے۔



خالی



سُورَةُ التَّائِيَاتِ



خالی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس سورۃ المبارکہ کی آیات کی تعداد کوفہ کے قاریوں کے مطابق ۹۳ آیت، بصرہ کی قرأت کے مطابق ۹۴ آیت اور حجاز والوں کی قرأت کے مطابق ۹۵ آیت ہے۔ کوفہ کی قرأت چونکہ قاری عاصم نے قاری ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے انہوں نے حضرت علیؑ سے اخذ کیا ہے۔ اس لیے قاری عاصم کی قرأت زیادہ مستند ہے۔ یہ سورۃ بالاتفاق مکی ہے دیگر سورہ ہائے قرآن کی طرح اس سورۃ کی کسی آیت کے بارے میں نہیں کہا گیا یہ مدنی ہے۔ تفسیر خازن کے مطابق یہ سورۃ المبارکہ ایک ہزار تین سو ستترہ (۱۳۱۷) کلمات اور چار ہزار سات سو نوے (۴۷۹۰) حروف پر مشتمل ہے۔



خالی



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 طَسَّ تِلْكَ اٰیَةُ الْقُرْآنِ وَ
 كِتَابٍ مُّبِیْنٍ ۝۱
 هُدًى وَبُشْرٰی لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝۲

۱۔ ط، سین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات
 ہیں۔
 ۲۔ مومنین کے لیے ہدایت و بشارت ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ طَسَّ: حروف مقطعات کے بارے میں سورہ بقرہ اور سورہ مریم میں ذکر ہو چکا ہے۔
 ۲۔ تِلْكَ اٰیَةُ الْقُرْآنِ: اس سورہ میں پیش نظر آیات، قرآن کی آیات ہیں جو کتاب مبین ہے۔
 قرآن اور کتاب مبین دونوں ایک ہیں۔

مجمع البیان میں فرمایا:

دو صفات اس لیے بیان ہوئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ”قرآن“
 قرأت اور ”کتاب“ کتابت کے ذریعے ظاہر ہوگا اور مبین اس لیے فرمایا یہ
 قرآن ایک ناطق کی طرح ہے جو امر و نہی، حلال و حرام، وعدہ اور وعید کو بیان
 کرتا ہے۔

۲۔ هُدًى: یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے اگرچہ یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے
 لیے ہے: هُدًى لِّلنَّاسِ.... لہذا ہم اس سے عملاً ہدایت لینے والے صرف مومنین ہیں۔ لہذا نتیجتاً یہ صرف
 مومنین کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔

۳۔ وَبُشْرٰی: یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت سے مستفید ہوتے ہیں یا یہ معنی بھی ہو

سکتے ہیں: ہدایت تو سب کے لیے ہے لیکن بشارت صرف مؤمنین کے لیے۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ ﴿٥﴾

۳۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں
اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

تفسیر آیات

قرآن ہمیشہ ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر فرماتا ہے۔ یہاں عمل صالح کی جگہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا کہ اعمال صالحہ کے اولین مصداق نماز اور زکوٰۃ ہیں۔ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے کہ قرآن کی بشارت صرف ایمان کے دعویٰ سے نہیں ملتی، جب تک اس کے ثبوت کے لیے نماز و زکوٰۃ جیسے گواہ موجود نہ ہوں۔

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ: اگر اعمال صالحہ کے ساتھ آخرت پر ایمان نہیں ہے یہ اعمال حبط ہو جاتے ہیں جیسا کہ:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ... ۱

اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی پیشی کی
تکذیب کی ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ
يَعْمَهُونَ ﴿٥﴾

۴۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً ان
کے لیے ہم نے ان کے افعال خوشنما بنا دیے
ہیں پس وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ عقیدہ آخرت، دنیوی زندگی کو معقولیت اور خواہشات کو لگام دیتا ہے جب کہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے یہی زندگی سب کچھ ہے اور انہیں کسی جوابدہی کا خوف نہیں ہے۔ اس لیے ان کی خواہشات کو لگام نہیں لگتی، جس کے نتیجے میں ان سے اطمینان و سکون سلب ہو جاتا ہے: فَهُمْ يَعْمَهُونَ۔

۲۔ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ: ان کے اعمال ہم نے خوشنما بنا دیے۔ آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کی تمام رعنائیاں دنیاوی خواہشات میں مجتمع اور منحصر ہو جاتی ہیں۔ مؤمن کے لیے دنیا کی زندگی وسیلہ

آخرت ہے جب کہ منکر کے لیے دنیا کی زندگی خود مقصد ہے۔ لہذا دنیا پرستی پر مبنی ان کے اعمال کا ان کے لیے خوشنما ہونا قدرتی بات ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَ هُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخْسَرُونَ ﴿٥﴾
۵۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔

۳۔ منکرین قیامت جو خسارہ اٹھانے والے ہیں اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ چونکہ جب یوم آخرت آجائے گا تو منکر کو علم ہوگا کہ میں کسی وقتی مسئلے میں نہیں ابدی زندگی کے مسئلے میں خسارے میں ہوں: ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿٥﴾

اہم نکات

۱۔ سب سے بڑا خسارہ، آخرت کی زندگی کا خسارہ ہے۔

وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾
۶۔ اور (اے رسول) یہ قرآن آپ کو یقیناً ایک حکیم، دانایا کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔

تفسیر آیات

ابتداءً بعثت میں حضور ﷺ کو جن حوصلہ شکن مشکلات کا سامنا تھا ان کے تناظر میں اس آیت کی تلاوت کی جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے:

یہ قرآن ایک حکیم و علیم ذات کے پاس سے آپ کو عطا کیا جا رہا ہے اور آپ کو مشکلات کا سامنا کرنے کا جو حکم دیا ہے، یہ حکم دینے والے میں حکمت کا فقدان ہے اور نہ علم کی کمی ہے۔

لَتَلْقَى الْقُرْآنَ: تلقی کوئی چیز وصول کرنے کو کہتے ہیں۔ القاء کسی بات کا ذہن میں ڈال دینا، تعلیم دینا۔ اسی سے تلقین ہے: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٦﴾

یہ لفظ اس صورت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وصول اور عطا کرنے کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ چنانچہ ارسال ایصال اور انزال میں واسطہ ہونہ ہو، دونوں صورتوں کے لیے ہے۔

مِنْ لَدُنْ: یہ لفظ عند کے معنوں میں ہے یعنی پاس سے۔ اس میں واسطہ کی نفی کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ وحی، قلب رسول پر اللہ کی طرف سے براہ راست نازل ہوتی ہے اور جبرائیل امین واسطہ یا حائل نہیں ہیں۔ صرف آواز کی طرح کا ایک ذریعہ ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہونے والے قرآنی قصے اس وحی کی عملی صورت کا بیان ہیں۔

اہم نکات

۱۔ قرآن خدائے حکیم ودانا کی طرف سے رسول کے لیے ایک عطیہ ہے۔

اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِيهِ إِنِّي
أَنْسَتُ نَارًا ۗ سَاتِيكُمْ مِنْهَا
بَخْبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ قَبَسٍ
لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۱۰﴾

۷۔ (اس وقت کا ذکر کرو) جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا: میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں جلد ہی اس میں سے کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آتا ہوں یا انگارا سلگا کر تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔

تشریح کلمات

شہاب: (ش ہ ب) الشہاب کے معنی شعلہ کے ہیں۔
قَبَسٍ: (ق ب س) آگ کا شعلہ یا اس کی چنگاری جو شعلے سے لی جائے۔
اِنْسَتْ: (ان س) الانس کے معنی کسی چیز سے انس پانا یا دیکھنا کے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۳۰

مدین میں چند سال گزارنے کے بعد مصر واپس جاتے ہوئے صحرائے سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ پیش آیا۔

۱۔ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِيهِ: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے افراد خاندان کے ساتھ تھے۔ اس لیے جمع کا صیغہ سَاتِيكُمْ استعمال فرمایا۔

۲۔ اِنْسَتْ نَارًا: میں نے آگ دیکھی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی ہے۔ ہم نے پہلے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام سے رابطہ عام بشری حواس کے ذریعہ نہیں فرماتا بلکہ ان تمام حواس سے بالاتر ذریعہ سے رابطہ فرماتا ہے جو دوسروں کے لیے قابل درک نہیں ہوتا۔ نہ دوسروں کو نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے۔

۳۔ سَاتِيكُمْ مِنْهَا حَبِيرٌ: اس سے ظاہر ہوتا ہے رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کا راستہ بھول گئے تھے مگر منزل پر پہنچ گئے تھے۔ یعنی نبوت کی منزل پر۔
۴۔ بِشَهَابٍ قَبَسٍ: موسم بھی سردیوں کا تھا۔ تاپنے کی ضرورت پیش آرہی تھی۔

۸۔ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو ندا دی گئی:
فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ
مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا
وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

بابرکت ہو وہ (جس کا جلوہ) آگ کے اندر ہے اور (بابرکت ہو) وہ جو اس کے پاس ہے اور پاکیزہ ہے سارے جہاں کا پروردگار اللہ۔

تفسیر آیات

۱۔ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ: حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ندا آتی ہے: بابرکت ہو وہ جو آگ میں ہے۔ جس کی تجلی آگ میں ہے۔ وہ نہ خود آگ میں ہے، نہ آگ کے گرد و پیش میں۔ وہ کسی مکان میں نہیں ہو سکتا۔

۲۔ وَمَنْ حَوْلَهَا: اور بابرکت ہے وہ جو آگ کے گرد و پیش میں ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ذات جو ندا دے رہی ہے اور وہ جو یہ ندا سن رہا ہے، دونوں بابرکت ہیں۔ البتہ اللہ بذات خود بابرکت ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے بابرکت ہو گئے۔ پہلے برکت دینے اور لینے والے کی بات ہو گئی۔ چونکہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کی سعادت کے لیے کسی نبی کو مبعوث اور ہدایت کے لیے کسی کتاب و شریعت کو نازل فرماتا ہے تو اللہ مقام خیر و برکت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝

بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو۔

سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: اس جملے سے اللہ کے جسم و جسمانیات سے پاک ہونے کی وضاحت فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درخت میں حلول کیا یا درخت کو اپنا مستقر بنایا ہو یا اس کا وجود روشنی کی شکل میں کسی حاسہ بصر میں سمویا گیا ہو۔ ان تمام مخلوقات کی صفات سے پاک ذات ہے۔

يُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ ۝ ۹۔ اے موسیٰ! یقیناً میں ہی غالب آنے والا، حکمت

① الْحَكِيمُ

والا اللہ ہوں۔

تفسیر آیات

تمہیدی کلمات کے بعد اصل وحی اور توحید کا تعارف شروع ہو جاتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور دو اوصاف: عزیز و حکیم کا مالک ہوں۔ عزیز یعنی بالادست غالب آنے والا اور حکمت کا مالک ہوں۔ کسی طاقت سے دبنے اور حقائق سے دور والے کی نہیں، خدائے عزیز و حکیم کی یہ آواز ہے۔

اہم نکات

۱۔ انبیاء علیہم السلام کا مبعوث ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکات کا ایک اہم مظہر ہے۔

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا
تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا
وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لَمَّا يَعْقِبُ
يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي
لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسَلُونَ ⑩

۱۰۔ اور آپ اپنا عصا پھینک دیں، جب موسیٰ نے دیکھا کہ عصا سانپ کی طرح جنبش میں آ گیا ہے پیٹھ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر (بھی) نہ دیکھا (ندا آئی) اے موسیٰ! ڈریے نہیں، بے شک میرے حضور مرسلین ڈرا نہیں کرتے۔

إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حِسَابًا بَدْعًا
سُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑪

۱۱۔ البتہ جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہو پھر برائی کے بعد اسے نیکی میں بدل دیا ہو تو یقیناً میں بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔

تشریح کلمات

۱۳۲

جَانٌّ: (ج ن ن) چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں۔

تفسیر آیات

سورہ طہ آیت بیس (۲۰) میں اس مطلب کی تشریح ہو گئی کہ عصا کا سانپ بن جانا معجزہ ہے اور معجزہ عام طبیعیاتی قوانین کے مطابق نہیں ہوا کرتے۔

۱۔ كَأَنَّهَا جَانٌّ: گویا یہ چھوٹا سانپ ہے۔ یعنی جنبش اور حرکت کی تیزی میں چھوٹے سانپ کی طرح تھا۔ لہذا یہ تعبیر دوسری آیات میں موجود تعبیر کے ساتھ متصادم نہیں جن میں کبھی ثعبان سے کہا جو بڑے اژدھے کو کہتے ہیں۔ کبھی حیاۃ سانپ کہا ہے۔ بعض اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ عصا پہلی مرتبہ چھوٹے

سانپ کی شکل میں آیا تھا اور فرعون کے دربار میں اژدھے کی شکل میں آیا تھا۔
۲- وَلِي مُدْبِرًا: پیٹھ پھیر کر پلٹ گئے۔ یہ خوف ایک قدرتی امر تھا جس کی تشریح سورہ طہ میں ہو گئی ہے۔

۳- لَا تَخَفْ: ”خوف نہ کرو“ فراہمی امن کے اظہار کے لیے ہے۔ چنانچہ سورہ القصص آیت ۳۱ میں آئے گا جہاں فرمایا: وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔

۴- لَا يَخَافُ كَذَى الْمُرْسَلُونَ: پیغمبروں کو اللہ کی بارگاہ میں جو قرب حاصل ہے اس کے تحت امن حاصل رہے گا۔ موسیٰ عليه السلام کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے وہ ڈرا نہیں کرتا۔

۵- إِلَّا مَنْ ظَلَمَ: خوف اسے لاحق ہونا چاہیے جو اپنے نفس اور دوسروں پر ظلم کر کے میری بارگاہ میں آئے۔ ایسے ظالم کو میری عدالت سے خوف ہونا چاہیے۔

۶- ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا: حتیٰ کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کے لیے بھی چارہ کار موجود ہے کہ وہ میری بارگاہ میں اطمینان سے آئے۔ وہ چارہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے ظلم کو نیکی سے بدل دے تو میں اس کے گناہ کو بخش دوں گا۔ ظلم کو نیکی سے بدلنے کی دو صورتیں متصور ہیں: ایک یہ کہ توبہ کر لے۔ دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ظلم کو ترک کر کے اس کی جگہ نیکیاں کرنا شروع کرے تو إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ... لے نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں جیسے شرک چھوڑ ایمان لے آئے تو ظلم نیکی میں بدل جاتا ہے۔

وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ
تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ
فِي تَسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ
إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْوَمًا فَسِقَاتٍ ۝۱۲

۱۲- اور اپنا ہاتھ تو اپنے گریبان میں ڈال لیے بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا، یہ ان نونشانیوں میں سے ہے جنہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف (آپ کو جانا ہے) بے شک وہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔

تشریح کلمات

جَيْبِكَ: (ج ی ب) جیب گریبان کو کہتے ہیں۔

تفسیر آیات

حضرت موسیٰ عليه السلام کا دوسرا معجزہ یہ بیضاء چمکتا ہاتھ ہے۔ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ یہ چمک عیب کی وجہ سے نہیں

ہے۔ عیب معجزہ نہیں، نقص ہوتا ہے۔ اس جملے سے توریت کی رد منظور ہے جو کہتی ہے: یہ چمک برص کی بیماری کی وجہ سے تھی۔

فِي تَسْبِيحِ آيَاتٍ: عصا اور ید بیضاء، ان نو معجزات میں سے ہیں جو حضرت موسیٰ عليه السلام کو دیے گئے:

i- عصا کا اڑدبا بن جانا۔

ii- ید بیضاء۔

iii- جادو گروں کو ٹھکست دینا۔

iv- طوفان۔

v- ٹڈی دل سے فصلوں کی تباہی۔

vi- سرسریوں کی آفت، غلوں کی نابودی۔

vii- مینڈک۔ دریائے نیل سے اتنی مقدار میں ان کی نسل بڑھی کہ ان کا گھروں میں زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔

viii- خون۔ دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔

ix- قحط سالی۔

اہم نکات

۱- عناد میں آنے والے کافر معجزوں سے ایمان نہیں لاتے۔

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً ۝۱۳ جب ہماری نشانیاں نمایاں ہو کر ان کے پاس
قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۳﴾ آئیں تو انہوں نے کہا: یہ تو صریح جادو ہے۔

تفسیر آیات

حضرت موسیٰ عليه السلام کے معجزات نمایاں سے نمایاں تر ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تمام انبیاء عليهم السلام کی تاریخ میں یہ بات اپنی جگہ واضح ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ انبیاء کے ساتھ آنے والے ابتدائی معجزے پر ایمان لے آتے ہیں چونکہ تمام انبیاء عليهم السلام شروع ہی میں اپنی حقانیت کے لیے معجزہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جن لوگوں نے انکار کیا ان کے سامنے جتنے بھی معجزے رکھے گئے، ایمان نہیں لائے۔ فرعون اور فرعونینوں کی مثال سامنے ہے۔

اہم نکات

۱- لوگ معجزے کے مطالبہ ایمان کے لیے نہیں، بہانہ جوئی کے لیے کرتے ہیں۔

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا ۱۳- وہ ان نشانیوں کے منکر ہوئے حالانکہ ان
 أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُكُوفًا کے دلوں کو یقین آ گیا تھا، ایسا انہوں نے ظلم
 فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اور غرور کی وجہ سے کیا، پس اب دیکھ لو کہ ان
 الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۳﴾ مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔

تشریح کلمات

جَحَدُوا: (ج ح د) جحد دل میں قبول، زبان سے انکار یا دل میں انکار، زبان سے قبول کرنے کو
 کہتے ہیں۔ (راغب)

تفسیر آیات

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزے انبیاء علیہم السلام کو دیے جاتے ہیں ان میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا کہ
 انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر پوری طرح دلیل نہ بنیں اور شک و شبہ کے لیے کوئی گنجائش چھوڑ دیں۔
 وہ ان معجزات کو قلباً تسلیم کر لینے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ اس کے دو محرکات ہیں:
 i- ظُلْمًا: ایک عناد اور دشمنی کی بنیاد پر جسے قرآن نے ظلم سے تعبیر کیا ہے۔
 ii- وَ عُكُوفًا: دوسرا محرک ان کا احساس برتری اور تکبر ہے۔ کہتے ہیں: اَنْوَمُنْ لِبَشَرٍ مِثْلَنَا۔
 کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں۔ مکہ کے کفار کہتے تھے: کیا ہم عبد اللہ کے
 یتیم کی بالادستی قبول کریں؟

اہم نکات

۱- ایمان نہ لانا، دلیل میں نقص کی وجہ سے نہیں، عناد و تکبر کی وجہ سے ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ۱۵- اور تحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا اور
 عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي کے دونوں نے کہا: ثنائے کامل ہے اس اللہ
 فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵﴾ بندوں پر فضیلت عنایت فرمائی۔

تفسیر آیات

۱۔ حضرت داود و سلیمان علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کا ایک خاص مقام عنایت فرمایا۔ مفسرین اس علم کے تعین کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ آیت میں مطلق رکھا ہے جس کا اطلاق ہر قسم کے علم پر ہوتا ہے۔ اگر علم پر الف لام ہوتا تو سوال پیدا ہوتا کہ کس علم کی طرف اشارہ ہے۔

۲۔ فَضَّلْنَا: یہ تفضیل ان دو ہستیوں کو بہت سی باتوں میں ملی ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تخیر اور بادشاہت کا مقام بھی دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات، وحشیوں، پرندوں اور ہوا کو مسخر کیا اور پرندوں کی بولی کی بھی تعلیم دی۔

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ
وَأَوْتَيْنَا مَن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا
لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ⑩

۱۶۔ اور سلیمان داؤد کے وارث بنے اور بولے:
اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی
ہے اور ہمیں سب طرح کی چیزیں عنایت ہوئی
ہیں، بے شک یہ تو ایک نمایاں فضل ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ: حضرت سلیمان، حضرت داود علیہما السلام کے وارث بنے۔ کس چیز کے

وارث بنے؟

ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ مال و حکومت کے وارث بنے کیونکہ باپ کی وفات پر اس کا مال اولاد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے لیکن علم و نبوت میں ایسا نہیں ہے کہ باپ کا انتقال ہوتے ہی باپ کا علم اولاد کی طرف منتقل ہو جائے۔ اسی طرح نبوت بھی ہے۔ چنانچہ باپ عالم ہوتا ہے، بیٹا جاہل۔ نبوت میں بھی ایسا ہے۔ باپ نبی ہیں، بیٹا نہیں۔

حتیٰ اگر باپ بیٹا دونوں نبی ہیں تو بھی بیٹے کی نبوت اللہ کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے نہیں۔ البتہ باپ کے بعد مسند نبوت پر فائز ہونے کی صورت میں مجازاً وارث کہتے ہیں۔

لہذا یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ میراث کا اطلاق مال پر حقیقتاً ہوتا ہے، علم و نبوت پر مجازاً۔ جیسے إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، میں علماء کو وارث کہا ہے۔

آیت میں وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ اطلاق ہے جو مالی وراثت پر حقیقتاً صادق آتا ہے۔ البتہ مال

کے علاوہ علم و نبوت اس میں شامل ہونے پر دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر اطلاق مقصود نہ ہوتا تو مفعول دوم کا ذکر ہوتا۔ مثلاً وَوَرِثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ عَلِمًا هُوَ۔

فخر الدین رازی سیاق آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ وراثت سے مراد صرف مال نہیں ہو سکتا اس کی چند وجوہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اگر کوئی مال و حکومت دونوں کے وارث ہونے کا قائل ہو جائے تو آیت کے سیاق پر مبنی وجوہات کی بنا پر نہیں، حدیث کے ظاہری معنی کی بنا پر رد کیا جاسکتا ہے۔

فخر الدین رازی کو اعتراف ہے کہ آیت کے حقیقی مصداق سے ہاتھ اٹھانے کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔

پس معلوم ہوا وَوَرِثَ کے حقیقی معنی مالی وراثت ہے اور حدیث اس حقیقی معنی کے مقابلے میں ہے۔ پس یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن سے انبیاء ﷺ کی مالی وراثت ثابت ہے۔ بات صرف حدیث کی رہ جاتی ہے۔ ذیل میں ہم حدیث پر گفتگو کرتے ہیں:

i۔ رسول اللہ ﷺ پر آیہ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کی تنبیہ کرو) کے تحت خصوصی طور پر واجب ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے حلال و حرام بیان کریں۔

تو کیا رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبزادی کو نہیں بتایا کہ آپ کو میری میراث نہیں ملے گی؟ جب کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کو علی الاعلان بتاتے ہیں:

فاطمہ بضعة منی یوذینی ما فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو فاطمہ کو اذیت پہنچائے اس یوذیہا۔^۱ نے مجھے اذیت پہنچائی۔

کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم اپنی اولاد تک نہیں پہنچایا؟ یا جناب سیدہ (س) نے اپنے بابا رسول اللہ ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے میراث کا مطالبہ کیا؟ آپ ان دونوں باتوں میں سے کس بات کو اختیار کریں گے؟

ہم پر یہ سوال نہیں آتا چونکہ ہم یہ موقف رکھتے ہیں کہ ایسا کوئی حکم ہے ہی نہیں کہ انبیاء ﷺ کے وارث نہیں ہوتے بلکہ ہم تو قرآنی تصریحات کے مطابق اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء ﷺ کی اولاد اپنے آباء و اجداد کی وارث بنتی ہے۔

البتہ آپ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں: اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔

اس حدیث کے بارے میں ہم یہ موقف اختیار کرتے ہیں:

ii- رسولؐ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے: جو چیز ہم بطور صدقہ چھوڑ جاتے ہیں اس کا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، نہ یہ کہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ لفظ: صدقہ نہیں، صدقہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے صدقات بہت تھے جو بطور فنی آپؐ کی ملکیت میں آئے تھے۔

چنانچہ امام شمس الدین سرہسی نے اپنی شہرہ آفاق فقہی کتاب المبسوط جلد ۱۲ صفحہ ۳۶ باب الوقف طبع دار الکتب العلمیۃ بیروت میں حدیث کے یہی معنی کیے ہیں۔ ان کی عبارت ملاحظہ ہو:

ہمارے بعض اساتذہ نے وقف کے ناقابل تنسیخ ہونے پر رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے: انا معاشر الانبیاء لا نورث ماتر کناہ صدقہ۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے: جو مال بطور صدقہ (وقف) ہم نے چھوڑا ہے وہ ارث میں نہیں جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں انبیاء کے اموال کے وارث نہیں ہوتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٓدَ فَمَآیَا فَهَبَ لِیْ مِنْ لَدُنْکَ وِلِیًّا ۙ یَّرِثُنِیْ وَیَرِثُ مِنْ اِلٰی یَعْقُوْبَ پس ممکن نہیں رسول اللہ ﷺ قرآن کے خلاف بات کریں۔ حدیث کی اس توجیہ سے معلوم ہوا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے وقف ناقابل تنسیخ ہونا ایک خصوصی بات ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وعدے دوسرے لوگوں کے معاہدے کی طرح ہیں۔

واستدل بعض مشایخنا رحمہم اللہ تعالیٰ بقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام: انا معاشر الانبیاء لا نورث ماتر کناہ صدقہ۔ فقالوا معناه ما ترکناہ صدقہ لا یورث ذلک۔ وليس المراد ان اموال الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام لا تورث وقد قال اللہ تعالیٰ: وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٓدَ۔ فَهَبَ لِیْ مِنْ لَدُنْکَ وِلِیًّا ۙ یَّرِثُنِیْ وَیَرِثُ مِنْ اِلٰی یَعْقُوْبَ .. فحاشا ان یتکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخلاف المنزل فعلى هذا التاویل فی الحدیث بیان ان لزوم الوقف من الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام خاصۃ بناء علی ان الوعد منهم کالعهد من غیرہم۔

ابن عطیہ اندلسی اپنی تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز ۴: ۲۵۳ میں اور قرطبی اپنی مشہور تفسیر الجامع لاحکام القرآن ۱۴: ۱۶۳ میں اس حدیث کے یہ معنی کرتے ہیں:

اور احتمال ہے انا معاشر الانبیاء لا نورث کا مطلب یہ ہو کہ وارث نہ بنانا انبیاء کا اپنا عمل اور سیرت ہے ورنہ ان میں ایسے انبیاء ہیں جن کے مال کے وارث تھے جیسے زکریا۔ جیسا کہ مشہور قول ہے۔

ویحتمل قولہ علیہ السلام "انا معاشر الانبیاء لا نورث" ان یرید ان ذلک من فعل الانبیاء و سیرتہم وان کان فیہم من ورث مالہ کزکریا علی اشہر الاقوال۔

ابن عطیہ اپنی تفسیر المحرر الوجیز ۴: ۵ سورہ مریم آیت ۵ کے ذیل میں لکھتے ہیں:
 ويحتمل قول النبي صلى الله عليه
 وسلم انا معشر الانبياء لا نورث ان
 لا يرثه العموم بل انه غالب امرهم.
 قاضي عياض نے اپنی کتاب الالمام صفحہ نمبر ۱ میں صدقہ کی بالفتح اور بالرفع دونوں
 صورتیں ممکن ہے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

iii- خود حضرت ابوبکر نے اس حدیث کے خلاف عمل کیا۔ جب عباسؓ اور حضرت علیؓ میں رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمامہ اور تلوار کی میراث میں اختلاف ہوا تو ان چیزوں کو بطور میراث حضرت علیؓ
 کے حق میں فیصلہ دیا۔ اگر صدقہ ہوتا تو حضرت علیؓ کے لیے صدقہ حرام تھا۔

iv- مصر کے نامور عالم محمود ابوریہ کہتے ہیں:
 حضرت ابوبکر کو چاہیے تھا کہ ترکہ رسول میں سے کچھ بطور عطیہ حضرت زہرا کو دے
 دیتے جیسا کہ انہوں نے زبیر بن عوام اور محمد بن مسلمہ کو ترکہ رسول میں سے
 دے دیا تھا۔

v- زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے یہی فدک حضرت عثمان نے مردان کو دے دیا۔ مردان راندہ رسول،
 جسے رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی میں شہر بدر کیا تھا وہ آج ترکہ رسول پر قابض ہے اور بنت رسول محروم۔
 vi- حضرت عمر نے اس حدیث کے خلاف عمل کیا جب خیبر کی جائیدادوں کو ازواج نبی میں تقسیم
 کیا۔ کہتے ہیں ازواج کے حق مہر میں دیا تھا۔ جب کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان ہے کہ ازواج کا
 مہر رسول اللہ نے زندگی میں ادا کیا تھا۔ ملاحظہ ہو:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ
 الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ... ۳
 اس جگہ ابن ابی الحدید نے نہج البلاغۃ کی شرح میں حضرت علیؓ کے اس فرمان بلی کانت
 فی ایدینا فدک کے ذیل میں لکھا ہے:

میں نے علی بن الفارقی، جو المدرسۃ الغربیۃ بغداد کے مدرس تھے، سے
 پوچھا: کیا فاطمہ سچی تھیں؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ میں نے کہا: پھر حضرت ابوبکر
 نے فدک ان کو کیوں نہیں دیا؟ مسکرا کر کہا: اگر آج فدک دے دیتے تو کل فاطمہ
 اپنے شوہر کی خلافت کا بھی دعویٰ کرتیں تو ابوبکر کو اپنے مقام سے ہٹا دیتیں۔

ابن ابی الحدید کہتے ہیں:

بات اپنی جگہ درست ہے اگرچہ اسے بطور مذاق کہا گیا ہے۔

یہاں وہ احادیث قابل توجہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کو ناراض کرنے، اذیت دینے کے بارے میں خصوصی طور پر ارشاد فرمائیں جو صحاح وغیر صحاح، شیعہ اور سنی مصادر میں موجود ہیں۔

فاطمہ بضعة منی	فمن اغضبها اغضبني
فاطمہ بضعة منی	یو ذینی ما یو ذیہا
فاطمہ بضعة منی	من آذاها فقد آذانی
فاطمہ بضعة منی	ومن ساءها فقد ساءنی
فاطمہ بضعة منی	یسخطنی ما اسخطها

۲۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ: یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ پرندے، حیوانات اور حشرات باہمی افہام و تفہیم کے لیے ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ مختلف حالات میں مختلف آواز نکالتے اور مختلف انداز اختیار کرتے ہیں اور اللہ کا یہ فرمان بھی سب کے سامنے ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ
دوپروں سے اڑنے والے سارے پرندے بس تمہاری
طرح کی امتیں ہیں۔

یہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ انسان آوازوں میں سے ایک خاص ارتعاش کوسن سکتا ہے جو ۱۶ سے ۳۲ ہزار فی سیکنڈ کے درمیان ہو۔ اس سے کم یا زیادہ کو انسان نہیں سن سکتا۔

لہذا اللہ کے وہ رسول جو وحی کی لطیف آواز کوسن سکتے ہیں ان کے لیے پرندوں کی بولی سن اور سمجھ لینا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔

جو لوگ اس کی تاویل و توجیہ کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کو فاعل مختار، ہر شے پر قادر نہیں سمجھتے بلکہ وہ اللہ کو طبعیاتی اشیاء کی طرح لیتے ہیں جن سے ان سے مربوط چیزیں صادر ہو سکتی ہیں۔ جیسے پانی سے رطوبت اور آگ سے حرارت اور بس

۳۔ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: ہمیں ہر چیز عنایت ہوگئی ہے۔ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز سے مراد ہر وہ نعمت ہے جس سے دنیا میں انسان بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ چنانچہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی:

وَهَبْ لِي مَلِكًا لَا يَكْبَغِيَ لِأَحَدٍ مِنْ
مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے
بعدي... ۲

شایان شان نہ ہو۔

اہم نکات

- ۱- میراث کا قانون عام ہے۔ جہاں اس عام کی شمولیت نہیں ہوتی ہے اس کا شریعت میں ذکر ہے۔ جیسے کفر، قتل، عاق۔ ان میں نبوت کا ذکر نہیں ہے۔
- ۲- پرندے مربوط بولی بولتے ہیں جسے انبیاء ﷺ کی حسّ لطیف درک کر سکتی ہے۔

وَحِشْرَ لِّسَلِيمٍ جُوْدُهُ مِنْ
الْحِجْرِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ
يُوزَعُونَ ﴿١٥﴾

۱۷- اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کی جاتی تھی۔

تشریح کلمات

يُوزَعُونَ: (وزع) وزعتہ کے معنی کسی آدمی کو کسی کام سے روک دینا۔ لشکر کو روکنے کا مطلب نظم و ضبط میں رکھنا۔

تفسیر آیات

۱- حضرت سلیمان ﷺ کو وہ بادشاہی عنایت ہوئی تھی جو کسی نبی کو نہیں ہوئی۔ ان کی بادشاہی کا دائرہ انسان کے علاوہ جنات اور پرندوں تک وسیع تھا۔ چنانچہ اس آیت میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ان کے لشکر میں جنات، انسان اور پرندے جمع تھے۔ اس صراحت کے خلاف تاویل کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے کہ ظاہری معنی مراد لینا ممکن نہ ہو۔ جیسے:

وَيَنْقُي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلِيلِ
وَالْإِكْرَامِ ﴿١٠﴾

اور صرف آپ کے صاحب عزت و جلال رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔

وَجْهٌ: سے ذات مراد لینا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ صرف چہرہ باقی رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جن سے پہاڑی قبائل اور پرندوں سے گھوڑ سواروں کے دستے مراد لینا کسی محاورہ اور کسی استعارہ و مجاز کے دائرے میں نہیں آتا۔

۲- فَهُمْ يُوزَعُونَ: عسکری تنظیم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لشکر مختلف النوع ہونے کے باوجود اس میں جماعت بندی تھی۔ افراتفری کا شکار نہ تھا۔

اہم نکات

۱- جنات اور پرندے انسان کے لیے مسخر ہو سکتے ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ ۙ
قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
مَسْكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ
سُلَيْمَانُ وَ جُنُودُهُ ۗ وَ هُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

۱۸۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں
پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا: اے چیونٹیو! اپنے
اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان
کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ
چلے۔

تشریح کلمات

يَحْطِمَنَّكُمْ: (ح ط م) الحطم کے اصل معنی کسی چیز کو توڑنے کے ہیں۔ پھر کسی چیز کو ریزہ ریزہ کرنے اور روندنے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ: النَّمْل سے مراد چیونٹی ہے۔ چنانچہ معنی حقیقی پر محمول کرنے کے لیے کسی قرینہ و دلیل کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آیت میں معنی حقیقی یعنی چیونٹی ہی مراد لینے پر قرینہ بلکہ دلیل موجود ہے۔ پہلا قرینہ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ ہے کہ کہیں سلیمان تمہیں روند نہ ڈالیں۔ دوسرا قرینہ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ہے چونکہ اگر النَّمْل سے مراد قبیلہ نمل کے افراد ہوتے جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں تو ان کا کچلے جانے کا سلیمان ﷺ کے لشکر کو پتہ ہی نہ چلے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ گھروں میں گھسنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ لہذا یقینی طور پر النمل سے مراد چیونٹی ہے۔ مَسْكِنَكُمْ سے مراد چیونٹیوں کے بل ہیں۔

۲۔ قَالَتْ نَمْلَةٌ: ایک چیونٹی نے کہا: اے چیونٹیو! اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اس سے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

i۔ چیونٹیوں میں رہنما اور رعیت کا نظام ہے جو احکام جاری کرتے ہیں اور ان پر عمل ہوتا ہے۔

ii۔ چیونٹیوں میں افہام و تفہیم کا نظام موجود ہے۔

iii۔ چیونٹی انسانوں کو ان کی خصوصیتوں کے ساتھ جانتی ہیں۔ چنانچہ اس چیونٹی نے سلیمان کا لشکر

کہہ کر حضرت سلیمان ﷺ کی شخصیت کا اظہار کیا کہ یہ لشکر ان کا ہے۔ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہہ

کر انسان اور چیونٹی کی نسبت کا اظہار کیا کہ چیونٹی کچل جائے تو انسانوں کو پتہ نہیں چلتا۔

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ①

۱۹۔ اس کی باتیں سن کر سلیمان ہنستے ہوئے مسکرائے اور کہنے لگے: پروردگار! مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجالاؤں جن سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے اور یہ کہ میں ایسا صالح عمل انجام دوں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔

تشریح کلمات

تبسم: (ب س م) مسکرانا، ہنسی سے کمتر یعنی ہونٹ کشادہ کرنا۔ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں آیا ہے: بَلْ كَانَ ضَحِيكُهُ التَّبَسُّمُ الْحَدِيثُ۔ آپ کا مسکرانا ہی پوری ہنسی تھی۔
الضحك: (ض ح ك) ہنسنا۔ تبسم سے بیشتر، دانتوں کے نظر آنے تک ہونٹ کا کھلنا۔ چنانچہ انبیاء ﷺ کی ہنسی تبسم یعنی مسکرانے تک محدود ہوتی ہے۔ اس کے بعد قہقہہ آتا ہے۔ لہذا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا ہنستے ہوئے تبسم کیا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ تبسم ہی انبیاء ﷺ کی ہنسی ہے اس لیے تبسم کو ضحك کہا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا: اس میں صراحت موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی باتیں سمجھ لیں۔ کیسے سمجھ لیں؟ اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے آیت ۱۶ کے ذیل میں بتایا کہ پیغمبران جو وحی الہی کی لطیف آوازیں لیتے ہیں پرندوں اور حیوانوں کی زبان سمجھنا ان کے لیے نہ مشکل ہے، نہ باعث تعجب۔ چونکہ پیغمبر اسے عام عادی قوت سماعت سے نہیں سنتے۔ وہ وحی، اس قوت ادراک سے سنتے ہیں جو اس عام بشری قوت سماعت کے ماوراء میں ہے۔

۲۔ وَقَالَ أَوْزِعْنِي: عرض کیا: پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عنایت کی ہیں۔ اس جملے میں درج ذیل نکات قابل توجہ ہیں:
الف: شکر ادا کرنے کی توفیق خود اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ لہذا اگر کوئی کسی نعمت پر شکر کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس پر اسے شکر کرنا چاہیے۔ اگر شکر ادا ہو گیا تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس پر شکر کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں

ہوسکتا۔ یہاں سے ہے:

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ... ۱
اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے (فائدے کے) لیے شکر کرتا ہے۔

ب: وَعَلَى وَالِدَيْكَ: انسان کو ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جو اس کے والدین کو ملی ہیں۔ چونکہ اولاد کی قسمت والدین کی قسمت سے منسلک ہوتی ہے اور انسان کی شخصیت پر والدین کے وارثی اور تربیتی نقوش مثبت ہوتے ہیں۔

ج: حضرت سلیمان عليه السلام کی والدہ کو قرآن ان بہتانوں سے پاک قرار دیتا ہے جو توریت میں ان پر عائد کیے گئے ہیں۔ ۲

۳- وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ: عمل، صالح اس وقت ہوتا ہے جب یہ عمل موجب رضایت رب واقع ہو۔ حضرت سلیمان عليه السلام اپنے اقتدار و سلطنت کو رضائے رب کے حصول میں صرف کرنے کی دعا کر رہے ہیں۔

۴- وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ: اللہ کے بعض خاص صالح بندے ہوتے ہیں کہ تمام انبیاء عليهم السلام یہی دعا کرتے ہیں کہ ان صالح بندوں میں ان کا شمار ہو۔

اہم نکات

- ۱- نعمت کے بعد شکر نعمت کی توفیق بھی ایک نعمت ہے۔
- ۲- والدین پر اللہ کی نعمت اولاد پر نعمت ہے۔
- ۳- رضائے رب اور صالح بندوں میں شمار ہونا انبیاء عليهم السلام کی منزل ہے۔

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى
الْمُهْدَىٰ هَذِهِ أَمْ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ۝
لَا عَذَابَ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ
لَا أَذْبَحَتْهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطٰنٍ
مُّبِينٍ ۝

۲۰- سلیمان نے پرندوں کا معائنہ کیا تو کہا: کیا بات ہے کہ مجھے ہد نہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟

۲۱- میں اسے ضرور سخت ترین سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا مگر یہ کہ میرے پاس کوئی واضح عذر پیش کرے۔

تشریح کلمات

وَتَفَقَّدَ: (ف ق د) کسی غائب چیز کا طلب کرنا۔ معائنہ کرنا۔

تفسیر آیات

۱۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ: حضرت سلیمان عليه السلام نے پرندوں کا معائنہ کیا تو ہد نہ نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہو گا کہ دنیا بھر کے تمام پرندے ان کی زیر سلطنت ہوں بلکہ ہو سکتا ہے زیر زمین پانی کا کھوج لگانے کے لیے ہد ہد سے کام لیا جاتا ہو چونکہ کہا جاتا ہے کہ ہد ہد کو زیر زمین پانی نظر آتا ہے۔ وہ کسی جگہ اپنا پر ہلائے وہاں زیر زمین پانی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی بات روایات میں بھی آئی ہے:

ان الهدهد يري الماء في بطن الارض كما يري احدكم الدهن في القارورة۔^۱ ہد ہد زیر زمین پانی کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح تم شیشی میں تیل دیکھ لیتے ہو۔
لَا تَقْتُلُوا الْهَدَّهْدَ فَإِنَّهُ كَانَ دَلِيلًا سُلَيْمَانَ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ يَعْرِفُ قُرْبَ الْمَاءِ وَبُعْدَهُ۔^۲ ہد ہد کو نہ مارو یہ سلیمان کے لیے پانی کا کھوج لگانے والا تھا۔ یہ جانتا ہے پانی دور ہے یا نزدیک۔

۲۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ: کیا یہ (ہد ہد) غائب ہونے والوں میں ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کی غیب و حضور پر مشتمل عسکری تنظیم تھی اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے غائب ہونا خلاف ورزی تھی۔

۳۔ لَا عَذَابَ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا: ہد ہد کا غیر حاضر رہنا خلاف ورزی تھی۔ ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے حاضر ہونا پڑے گا ورنہ لَا عَذَابَ لَهُ ”میں اسے سزا دوں گا“ نہ فرماتے۔

۴۔ أَوْ لِيَأْتِيَنَّيَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ: یا وہ اپنے غیب ہونے پر کوئی معقول دلیل پیش کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرندہ حضرت سلیمان عليه السلام کے زیر نگین ایک مکلف فرد کی طرح ڈیوٹی دیتا تھا جسے خلاف ورزی پر سزا دی جاتی ہے اور معقول عذر پیش کرنے پر سزا معاف ہو جاتی ہے؟

مجمع البیان نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے:

پرندے کا بولنا اور اسے اپنے زمانے میں مکلف بنانا حضرت سلیمان عليه السلام کا معجزہ

ہے۔ اس لیے اسے سزا دینا درست ہوا۔

کیا حیوانات مکلف ہیں؟ وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ۔ اور كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔^۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حد تک ذمے داری ہے اور اس ذمے داری کی نوعیت ہمارے لیے مبہم ہے مگر اس ذمے داری پر ثواب و عقاب کا مترتب ہونا معلوم نہیں ہے۔

۲۲۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے (حاضر ہو کر) کہا: مجھے اس چیز کا علم ہوا ہے جو آپ کو معلوم نہیں اور ملک سب سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ
أَحْظْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ
مِنْ سَيِّئَاتِ بَنِي إِفْرَاقٍ ۝۱۲

تشریح کلمات

سَيِّئَاتٍ: یمن کے ایک شہر کا نام ہے جو اس زمانے میں دارالخلافہ تھا۔

تفسیر آیات

۱۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ: زیادہ دیر نہیں گزری۔ مکث کا تعلق حضرت سلیمان عليه السلام سے ہے۔
۲۔ أَحْظْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ: مجھے اس چیز کا علم ہوا ہے جس کا آپ کو علم نہیں۔
اس جملے میں دو نکتے قابل توجہ ہیں: ایک یہ کہ اس سے حضرت سلیمان عليه السلام کی حسمت پر ایک قسم کا طنز معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز کا علم ہوا جو آپ کے علم میں نہیں ہے لیکن یہ طنز نہیں ہے کیونکہ حضرت سلیمان عليه السلام ایسا کوئی دعویٰ نہیں رکھتے تھے کہ میں دنیا کے ہر کونے پر علمی احاطہ رکھتا ہوں۔
دوسرا نکتہ یہ ہے کہ انبیاء عليهم السلام کے لیے ضروری نہیں کہ ہر چیز ان کے احاطہ علمی میں آجائے۔

۲۳۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو ان پر حکمران
اِنَّیْ وَجَدْتُ امْرَاةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَاَلْهَاعَرْشِ
عَظِيْمٍ ۝۱۳

ہے اور اسے ہر قسم کی چیزیں دی گئی ہیں اور اس کا عظیم الشان تخت ہے۔

تفسیر آیات

ہر ہد کے ان کلمات سے حضرت سلیمان عليه السلام کی مملکت کی محدودیت کا عندیہ مل جاتا ہے۔ اول یہ کہ اگر سلیمان عليه السلام کے بارے میں وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ہے ہمیں ہر چیز عنایت ہو گئی تو اس خاتون کے لیے وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اسے ہر قسم کی چیزیں دی گئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کا تخت عظیم ہے۔ ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ آپ کے تخت سے اس عورت کا تخت عظیم ہے۔

۲۴۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو
وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ
لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ

چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے

لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ
عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾
ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا رکھے ہیں
اور اس طرح ان کے لیے راہ خدا کو مسدود کر
دیا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پاتے۔

تفسیر آیات

۱۔ يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ: قدیم تاریخ سے قرآن کی تائید ہوتی ہے کہ قوم سبا کا مذہب آفتاب
پرستی کا مذہب تھا۔

ہد ہد کا یہ کہنا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر آفتاب پرستی کرتے ہیں، ایک عاقل اور تربیت شدہ موحد بلکہ
تعلیم یافتہ انسان کی طرح معلوم ہوتا ہے۔

۲۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ: شیطان نے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں۔ اگرچہ سیاق
کلام کے مطابق یہ بھی ہد ہد کا کلام ہے لیکن مضمون کلام پیغمبرانہ ہے لہذا یہ جملہ اللہ کا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ
فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ اس پر قرینہ بن سکتا ہے۔

الَّذِي يَخْرِجُ
الْخَبَاءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا
تُعَلِنُوْنَ ﴿٣٥﴾
۲۵۔ کیا وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے جو
آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے
اور وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہری اعمال کو جانتا
ہے؟

تفسیر آیات

۱۔ الَّذِي يَخْرِجُ الْخَبَاءَ: وہ ذات لائق سجدہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ چیزوں کو
نکالتی ہے۔ اصل میں یخرج المخبوء ہے۔ برائے تاکید مزید مصدر الْخَبَاءَ کی طرف نسبت دی ہے۔
اس وسیع و عریض کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے نکالا ہے جو عدم کے پردوں میں پوشیدہ تھی۔
قرآن مجید کی متعدد اور مختلف تعبیرات سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ عبادت اس ذات کی ہو سکتی
ہے جو خالق اور رب ہو۔ اس آیت سے بھی یہی حقیقت ظاہر ہو رہی ہے کہ سجدہ اس ذات کے لیے ہو سکتا
ہے جس نے اس کائنات کو پردہ غیب سے نکالا ہے اور ہر آن، ہر لمحہ پردہ غیب سے عالم شہود پر لانے کا عمل
جاری ہے: كَلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ٢٦- اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

تفسیر آیات

۱- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ: کلام سابق کا نتیجہ ہے کہ جب اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات ہی قابل پرستش ہے تو وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہو سکتا۔
۲- رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ: کسی کی عبادت جب خالقیت اور ربوبیت کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے تو ربوبیت کی منزل پر فائز ذات بھی اسی اللہ کی ہے جو کہ عرش عظیم کا رب ہے۔
عرش کے بارے میں ہم نے یہ موقف واضح طور پر اختیار کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیر کا نام ہے جو ربوبیت اور مالکیت کا لازمہ ہے۔ وہ اس کائنات کے عظیم تدبیری نظام کا مالک ہے۔

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٢٧- سلیمان نے کہا: ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔

قَالَ: یہ کہنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ ہدہد کے اس انکشاف پر نفی اور اثبات کا موقف اختیار کرنے سے پہلے اس پر تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔

إِذْ هَبْ بِنَفْسِي هَذَا فَأَلْقِيهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ٢٨- میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کے پاس ڈال دے پھر ان سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔

تفسیر آیات

یہ ہدایات ایسی ہیں جو کسی سمجھدار شخص کے لیے دی جا سکتی ہیں۔ خط ڈالنے کے بعد ہٹ جائے اور پھر اس کے رد عمل پر نظر رکھے۔ واضح رہے نظر رکھنے والا ان کے سارے رد عمل کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ رد عمل عام فہم بھی ہو سکتا ہے اور پیچیدہ بھی۔ اس قسم کی سفارتی ذمہ داریاں تو آج کل اعلیٰ تعلیم یافتہ، تجربہ کار لوگوں کے لیے ممکن ہیں۔ حضرت سلیمان کے معجزے کے علاوہ اس کی اور توجیہ نہیں ملتی۔

اہم نکات

۱- دو عظیم مملکتوں کے درمیان سفارت کاری کی ذمہ داریاں ایک ہدہد انجام دے، انبیاء علیہم السلام کا

مجزہ ہے۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا ائِنِّي اُنْقِي ائِنِّي ۲۹۔ ملکہ نے کہا: اے دربار والو! میری طرف
کِتَابِ كَرِيْمٍ ۳۰

ایک محترم خط ڈالا گیا ہے۔

تفسیر آیات

ہد ہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو ملکہ سب کے ہاں ڈال دیتا ہے۔ ملکہ اس خط کو ایک قابل احترام خط قرار دیتی ہے۔ اس خط کو کتاب کریم قابل احترام مضمون کے اعتبار سے کہا ہوگا جس کا آغاز ایسے معبود کے نام سے ہوتا ہے جو رحمان رحیم ہے۔ التبیان میں کریم کے معنی بیان فرماتے ہیں:
انہ حقیق بان یوصل الخیر العظیم کریم اسے کہتے ہیں جس سے خیر عظیم ملنے کی توقع من جہتہ۔

ہو۔

ورنہ اس قسم کے مراسلوں کی ابتدا یوں بھی ہو سکتی تھی:

بسم اللہ الجبار القہار۔ خدائے قہار و جبار کے نام سے۔

نیز ہو سکتا ہے یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہونے کی وجہ سے کَرِيْمٌ کہا ہو چونکہ قوم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی عظمت کو جانتی تھی۔ چنانچہ کہا تھا:

اَوْتَيْنَا اَلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۱

ہمیں اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے اور ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں۔

یہ خط اپنے انداز ارسال، انداز کلام اور مضمون کے اعتبار سے غیر معمولی حیثیت کا حامل تھا۔

انداز ارسال: ایک پرندے کے ذریعے۔ کلام بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سے شروع ہوتا ہے جو

اس معاشرے کی ثقافت سے بالکل مختلف اور نا آشنا انداز کلام ہے۔ مضمون میں ایک دعوت ہے اور یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ایک قانونی حکومت کے مقابلے میں ایک باطل نظام کو بڑائی اور سرکشی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۳۰۔ یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ یہ ہے:
خدائے رحمن رحیم کے نام سے

تفسیر آیات

اس آیت میں چند ایک نکات قابل توجہ ہیں:

۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ: قرآن کا حصہ ہے۔ جب یہ قرآنی آیت ہے تو سورہ ہائے قرآن کی ابتدا میں بھی قرآن کی آیت شمار ہوتی ہے جیسا کہ شیعہ امامیہ کا موقف ہے۔ قرآن میں بہت سی آیات مکرر ہیں اور سب قرآن ہیں۔

۲۔ بِسْمِ اللّٰهِ: مکمل لکھنا چاہیے۔ مختصر کر کے لکھنا خلاف سنت انبیاء ہے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین بسم اللہ لکھنا چاہتے تھے جب کہ رسول اللہ ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھنا چاہتے تھے۔ لہذا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی جگہ صرف بسمہ تعالیٰ لکھنا خلاف سنت ہے۔

۳۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے ابتدا کی ہے۔ یہ عربی ترکیب عبرانی زبان کی نقل بالمعنی ہو سکتی ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔

۴۔ ملکہ سب نے پہلی بار یہ کلمات سنے: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ آفتاب پرست ہونے کی وجہ سے یہ کلمات اس کے لیے ایک جدید اصطلاح تھی۔ اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحمت کا مالک اور مہربان ہے۔ ایک مہربان اللہ کے ماننے والے مہربان ہی ہوں گے۔

أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي ۝۳۱- تم میرے مقابلے میں بڑائی مت کرو اور
مُسْلِمِينَ ۝۳۱ فرما نہ بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔

تفسیر آیات

یہ اس خط کا پورا مضمون ہے کہ تم میرے مقابلے میں بڑائی مت کرو اور فرمان بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مضمون یہی ہوتا ہے کہ اپنی بالادستی چھوڑ کر امن و سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطوط میں یہی تحریر فرماتے تھے: اسلم تسلّم۔ اسلام میں داخل ہو جاؤ، سلامتی پاؤ گے۔

۳۲۔ ملکہ نے کہا: اے اہل دربار! میرے اس
معاہدے میں مجھے رائے دو، میں تمہاری غیر موجودگی
میں کسی معاہدے کا فیصلہ نہیں کیا کرتی۔
قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَقْتُونِي فِي
أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا
حَتَّى تَشْهَدُون ۝۳۲

تفسیر آیات

۱۔ اَفْتُونِي فِيْ اَمْرِيْ: مجھے رائے دو اس امر کے بارے میں جو مجھے پیش آیا ہے۔ یہ امر ملک پر بیرونی حملے کا خطرہ ہے۔ اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے۔
 ۲۔ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ: تمہاری غیر موجودگی میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملکہ فہم و فراست کی مالکہ تھی۔ نظام استبدادی ہونے کے باوجود طریقہ کار شوری و جمہوری تھا۔ اس عمل کے مستحسن ہونے کی وجہ سے قرآن نے اس بات کا ذکر کیا۔ کسی غیر معمولی واقعہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل رائے لوگوں سے مشورہ لینا ہر عاقل کے نزدیک ایک مستحسن عمل ہے اور یہ بات کسی مذہب و شریعت سے مربوط نہیں ہے۔

اہم نکات

۱۔ دوسروں کی عقلی قوت سے فائدہ اٹھانا عقلی قوت کی علامت ہے۔

قَالُوا نَحْنُ اَوْلُوْا قُوَّةً وَّاَوْلُوْا
 بَأْسٍ شَدِيْدٍ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكَ
 فَاَنْظِرِيْ مَا ذَا تَاْمُرِيْنَ ۝۳۳

۳۳۔ انہوں نے کہا: ہم طاقتور اور شدید جنگجو ہیں
 تاہم فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھ
 لیں کہ آپ کو کیا حکم کرنا چاہیے۔

تفسیر آیات

۱۔ نَحْنُ اَوْلُوْا قُوَّةً وَّاَوْلُوْا بَأْسٍ شَدِيْدٍ: درباریوں نے متوقع جنگ کے لیے ضرورت کی دو اہم چیزوں کا ذکر کیا۔ وہ عسکری طاقت و قوت اور حربی مہارت ہیں۔ درباریوں نے کہا: یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ عسکری طاقت اَوْلُوْا قُوَّةً اور حربی مہارت اَوْلُوْا بَأْسٍ شَدِيْدٍ کے ذریعے ہم اس حملے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔

درباریوں کا ایک مزاج ہوا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی رعوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حقائق کے ادراک میں رعوت و اقتدار حائل رہتے ہیں اور بادشاہ بھی عموماً درباریوں کے اس مزاج کا شکار رہتے ہیں لیکن یہاں درباری مرد اور بادشاہ عورت ہے۔ عورت عموماً جنگجو نہیں، امن پسند ہوتی ہے۔ درباری اس بات سے واقف تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے درباری مزاج کے مطابق اپنی رعوت کا بھی مظاہرہ کیا اور ساتھ ملکہ، عورت کے امن پسند مزاج کا بھی لحاظ رکھا اور کہا: وَّالْاَمْرُ اِلَيْكَ فَيُفَصِّلُ اِلَيْكَ مَا تَشَاءُ فِيْ بَيْنِ يَدَيْكَ اِنْ رَاَيْتَ اَنَّكَ اَنْتَ اَكْبَرُ اَعْيُنًا وَّ اَنْتَ اَكْبَرُ اَعْيُنًا وَّ اَنْتَ اَكْبَرُ اَعْيُنًا۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ درباری بادشاہ سے درخواست کریں کہ ہمیں اجازت دیں کہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَافَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

۳۴۔ ملکہ نے کہا: بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کرتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔

تفسیر آیات

۱۔ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا: ملکہ نے جنگ کی مذمت کرنا شروع کی اور جنگی نتائج سے درباریوں کو آگاہ کیا کہ جنگ اپنے ہمراہ تباہی لاتی ہے اور معاشرے میں افراتفری پھیلتی ہے۔ عزت دار ذلیل اور ذلیل عزت دار بن جاتے ہیں چونکہ وہ اپنے مفتوحہ علاقے کی ہر چیز کو روند ڈالتے ہیں۔ اس مفتوحہ علاقے کے مزاحمتی عناصر کو خصوصی طور پر نشانہ بناتے ہیں۔ وہ حکومتی و سلطنتی عناصر ہوں گے۔

۲۔ وَجَعَلُوا أَعْرَافَ أَهْلِهَا آذِلَّةً: فاتح قوم جب فتح کے نشے میں چور ہوتی ہے تو اپنے زیر نگیں قوم کی حرمت و عزت کو لوٹ لیتی ہے۔ البتہ اسلامی فاتحوں کے بارے میں گوسٹف لبون اپنی کتاب حضارۃ العرب میں لکھتے ہیں:

چشم تاریخ نے عربوں کی طرح کسی انصاف پسند اور رحمدل فاتح کو نہیں دیکھا۔

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ۗ وَنُظْرَةٌ لِّمَن يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

۳۵۔ اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیج دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اپنی کیا (جواب) لے کر واپس آتے ہیں۔

تفسیر آیات

ملکہ نے ایک ایسی تدبیر اور آزمائش سوچی جس سے اس بادشاہ کے مزاج، نفسیات اور ترجیحات کا اندازہ ہو جائے، اس کے مطابق اگلا قدم اٹھایا جائے۔ وہ یہ کہ اس بادشاہ کو ایک ہدیہ پیش کر کے دیکھتے ہیں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس ہدیہ کو دیکھ کر نرم پڑ جاتا ہے تو اس لالچی بادشاہ کو اسی راہ سے رام کیا جاسکتا ہے اور اگر وہ اسے ٹھکرا دیتا ہے تو اس اصول پرست بادشاہ کی اصول پرستی اور اس کے پیچھے کارفرما عقائد کا مطالعہ کرنا ہوگا۔

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمٌ قَالَ ۖ ۳۶۔ پس جب وہ سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں

اَتِمِدُّوْنَ بِمَالٍ فَمَا آتَى اللهُ
خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ ؕ بَلْ أَنْتُمْ
بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٧﴾

نے کہا: کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟
جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے
بہتر ہے جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے جب
کہ تمہیں اپنے ہدیے پر بڑا ناز ہے۔

تفسیر آیات

چنانچہ ہدیہ کو دیکھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے انتہائی بے اعتنائی برتی اور اس ہدیہ کو ناچیز اور حقیر قرار دیا اس دولت کے مقابلے میں جس سے خود حضرت سلیمان علیہ السلام مالا مال ہیں۔ وہ دولت علم و نبوت اور تسخیر جن و انس جیسی منفرد سلطنت ہے۔

بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ: فرمایا: تمہاری تو یہ حیثیت ہے کہ تم اس ہدیہ پر ناز کرتے ہو جو نہایت حقیر ہے۔ اس حقیر مال کی خاطر اپنی دعوت الی اللہ کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کے تخائف بڑی حقارت کے ساتھ مسترد کیے تو ملکہ سبا پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مسئلہ کشور کشائی اور مال و دولت کا نہیں ہے۔

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ
لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا
أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٨﴾

۳۷۔ (اے اپیلچی) تو انہیں کی طرف واپس پلٹ
جا، ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر ضرور آئیں
گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ہم انہیں
وہاں سے ذلت کے ساتھ ضرور نکال دیں گے
اور وہ خوار بھی ہوں گے۔

تشریح کلمات

قَبْلَ: (ق ب ل) طاقت کو کہتے ہیں۔ لا قبل لهم یعنی لا طاقة لهم۔

تفسیر آیات

اہل سبا کی طرف لوٹ جاؤ اور ان سے کہو: ہم ایسے لشکر کے ساتھ ملک سبا میں داخل ہونے والے ہیں جس کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی۔

وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا: ان کی سرزمین سے ہم ان کو بے دخل کریں گے۔ صرف بے دخلی نہ ہوگی بلکہ
أَذِلَّةً رام و مسخر ہو کر اپنی سرزمین چھوڑیں گے۔ صاغرین خوار ہو کر، یہ خواری اسیری کی شکل میں ہو سکتی

ہے۔ واضح رہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے دو باتوں کا مطالبہ کیا تھا:

۱۔ اَلَا تَخْلُقُوا عَلَيَّ: میرے مقابلے میں بڑائی کا مظاہرہ نہ کرو۔

۲۔ وَآتُونِي مُسْلِمِينَ: فرماں بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔

حق کی دعوت قبول کرو۔ حق کا مقابلہ کرنا ترک کرو۔ ملکہ نے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کا مثبت یا منفی جواب دینے کی جگہ تیسرا راستہ اختیار کیا اور ہدیہ پیش کیا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس نے ہماری دعوت کو قابل اعتناء سمجھنے کی جگہ مال و دولت کا لالچ دینے پر آگئی ہے۔ لہذا یہ تہدید آمیز موقف اختیار کرنا پڑا۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي
بِعَرْشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي
مُسْلِمِينَ ﴿۳۸﴾

۳۸۔ سلیمان نے کہا: اے اہل دربار! تم میں سے
کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے قبل
اس کے کہ وہ فرمانبردار ہو کر میرے پاس آئیں؟

تفسیر آیات

ہدیہ رد ہونے پر ملکہ نے بات سمجھ لی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہونے میں ہی سلامتی ہے۔ اس فیصلے سے آگاہ ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس جگہ خداداد طاقت و قوت کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور اپنی نبوت پر ایک معجزہ پیش کرنا چاہیے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے۔ چنانچہ اپنے درباریوں سے فرمایا ملکہ کے یہاں حاضر ہونے سے قبل اس کا تخت میرے پاس کون حاضر کر سکتا ہے؟

بظاہر یہ تخت ملک سبا سے اروثم تک لانے کی بات اس وقت ہو رہی ہے جب ملکہ اروثم شہر میں داخل ہونے والی ہے۔ لہذا کچھ لوگوں کا یہ خیال کہ یہ تخت ملکہ کے ہمراہ ہو سکتا ہے چونکہ ملکہ کو خدشہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام اس کے لیے تخت فراہم نہیں کریں گے، خلاف ظاہر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سوال بتاتا ہے کہ ان کے درباریوں میں ایسے لوگ موجود تھے جو اس قسم کے کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔

قَالَ عَفْرِيْتُ مِنَ الْجِنَّ اَنَا اَتِيكَ
بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَ
اِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اٰمِيْنٌ ﴿۳۹﴾

۳۹۔ جنوں میں سے ایک عیار نے کہا: میں اسے
آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں قبل اس کے
کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور میں یہ کام انجام
دینے کی طاقت رکھتا ہوں، امین بھی ہوں۔

تشریح کلمات

عَفْرِيَّتٌ: اصل میں سرکش جن کو کہتے ہیں۔ پھر ناقابلِ تخیر طاقتور کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔

تفسیر آیات

بیت المقدس سے ملک سبا کا فاصلہ ڈیڑھ ہزار میل سے کم نہ تھا۔ کسی بشری طاقت کے لیے ممکن نہ تھا کہ چند گھنٹوں میں یہ کام انجام دے لہذا جن سے مراد کوئی بشر نہیں جیسا کہ بعض عقلیت پسند لکھتے ہیں۔
قَبْلِ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ: آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے تخت پیش کروں گا۔ سلیمان عليه السلام
دربار میں چند گھنٹے ہی بیٹھ سکتے ہیں۔

وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ: اس جن کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ اس کام کے لیے مطلوبہ قوت میرے پاس ہے۔

أَمِينٌ: جن ہونے کے اعتبار سے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے اس کا بھی اس جن نے جواب دے دیا کہ میں امین ہوں۔ اس تخت کو بغیر کسی تصرف کے آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔

۴۰۔ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ کہنے لگا: میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں، جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس نصب شدہ دیکھا تو کہا: یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار یقیناً بے نیاز اور صاحبِ کرم ہے۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ۚ لِيَبْلُوَنِي ۚ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَّبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

تفسیر آیات

۱۔ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ: جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ کہنے لگا: میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہوں۔
یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر میں کیسے ممکن ہوا کہ کوئی ڈیڑھ ہزار میل کے فاصلے سے

یہ تحت حاضر کر دے۔ ایسا تو آج کے جوہری دور میں بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ سوال اللہ کی کن فیکونی طاقت کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ بقول آئن سٹائن: انسان کو مکان و زمان میں محدود سمجھنا ایک مفروضہ ہے نیز نظریہ اضافت کے لحاظ سے زمان ہر جگہ یکساں نہیں ہے۔ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والے کے دس منٹ ساکن لوگوں کے سینکڑوں سال کے برابر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ معراج کی بحث میں ہم نے بیان کیا ہے لیکن ہم اس مسئلے کی توجیہ نظریہ اضافت وغیرہ سے نہیں کرتے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سائنسی مفروضے کے تحت بھی ایسا عمل ناممکن نہیں ہے۔

قرآن کی صراحت موجود ہے کہ یہ قدرت جس شخص کے پاس تھی اس کی بنیاد علم تھا اور اس علم کا ماخذ الکتاب ہے اگرچہ ہمیں اس علم اور الکتاب کی نوعیت کا علم نہیں ہے تاہم اس آیت میں علم کی طاقت کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے دعویٰ کو جامہ عمل پہناتے ہوئے چشم زدن میں اس عظیم تخت کو حاضر کر دیا۔

انسان کو اب تک دور سے آواز اور تصاویر چشم زدن میں حاضر کرنے کا طریقہ آ گیا ہے۔ اجسام حاضر کرنے کا طریقہ ابھی نہیں آیا۔ آیت سے معلوم ہوا اس قسم کا علم بھی موجود ہے جس سے اجسام کو دور سے چشم زدن میں حاضر کرنا ممکن ہے۔

۲۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي: جب تحت حاضر پایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس علمی کارنامے کو اللہ کا فضل قرار دیا، تخت کے حصولی کو نہیں چونکہ مال و دولت کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے ہی بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ لہذا یہ فَضْلِ رَبِّي، مما اتانی اللہ ہے جو علم و کمال کی دولت ہے۔ مما اتاکم نہیں ہے جس پر دوسروں کو ناز ہے۔

۳۔ لِيَبْلُوَنِيَ أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ: تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ انہیں اچھی طرح علم ہے کہ اس قسم کے کمالات کی نعمت اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: جو شکر کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔

۴۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ: جو شکر کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے چونکہ شکر کرنا خود اپنی جگہ اہم قدروں میں سے ایک قدر ہے۔ اس قدر کا مالک ہونا خود اپنی جگہ ایک کمال ہے۔ ثانیاً شکر کا نتیجہ خود شکر کرنے والے کے حق میں ہوتا ہے۔ جس کا شکر کیا جاتا ہے اس کے حق میں صرف اتنا ہے کہ وہ اس شکر پر خوش ہوگا۔ لَكِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ... لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ... لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ: لہذا شکر نعمت باعث مزید نعمت ہے: اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنُتُمْ لَأَحْسِنَنَّكُمْ... ۳

اہم نکات

- ۱- علم کی طاقت سب سے بڑی ہے۔
- ۲- انسان ابھی علم انبیاء کو سمجھنے سے قاصر ہے۔
- ۳- نعمتیں آزمائش ہیں۔ شکر کے ذریعے اس میں کامیابی ممکن ہے۔
- ۴- شکر کا فائدہ خود شکر گزار کے لیے ہے۔

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ
أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ
لَا يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾

۳۱- سلیمان نے کہا: ملکہ کے تخت کو اس کے لیے
انجانا بنا دو، ہم دیکھیں کیا وہ شناخت کر لیتی ہے
یا شناخت نہ کرنے والوں میں سے ہوتی ہے۔

تفسیر آیات

- ۱- نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا: حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے تخت کو انجانا بنا دو۔ یعنی اس تخت میں کچھ تبدیلیاں لا کر اس کے رنگ و شکل اور کچھ خصوصیات کو بدل دو۔
 - ۲- نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي: ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ملکہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے۔ ممکن ہے اس عمل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کی فراست کا اندازہ لگانا چاہتے ہوں کہ یہ خاتون کس فہم و فراست کا مالکہ ہے۔ اسی کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے:
- إِنَّ الثَّوَابَ عَلَى قَدْرِ الْعَقْلِ...! ثواب عقل کے مطابق ملتا ہے۔

اہم نکات

- ۱- اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو اس کی عقل و فراست کے مطابق مقام دیتے ہیں۔

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا
عَرْشُكَ ۗ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۗ وَ
أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا
مُسْلِمِينَ ﴿۳۲﴾

۳۲- جب ملکہ حاضر ہوئی تو (اس سے) کہا گیا:
کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا: گویا
یہ تو وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے معلوم ہو چکا
ہے اور ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں۔

تفسیر آیات

- ۱۔ اَهْكَذَا عَرَّشْتُكَ: جب ملکہ حاضر ہوئی تو ملکہ ہی کے تخت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا گیا: کیا آپ کا تخت اس تخت کی طرح ہے؟ سوال کا انداز بھی ایسا ہے جس میں کوئی ایسا شائبہ نہیں ہے کہ یہ وہی تخت ہے۔ مثلاً اگر یہ سوال ہوتا یہ تخت آپ کا تخت تو نہیں؟ تو کچھ اشارہ مل جاتا۔
- ۲۔ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ: جواب میں ملکہ نے کہا: گویا یہ تو وہی ہے۔ نفی اور اثبات میں جواب دینے کی جگہ ”گویا“ کہہ کر ملکہ نے اپنی عقل و فراست کا ثبوت دیا۔ یعنی جب کہا: گویا یہ تخت وہی میرا اپنا تخت ہے تو تخت میں تبدیلی کے باوجود پہچان لیا اور ساتھ محتاطانہ جواب دیا۔
- ۳۔ وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا: ملکہ نے کہا: اس تخت کے یہاں حاضر کرنے کے معجزہ کے مشاہدے سے پہلے ہمیں آپ کی نبوت اور معجزانہ قوت و طاقت کا علم ہو گیا تھا۔
- ۴۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ: ہم پہلے ہی حضرت سلیمان عليه السلام کے فرماں بردار ہو چکے ہیں۔

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ ۗ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ
كُفْرِينَ ﴿۳۴﴾

۴۳۔ اور سلیمان نے اسے غیر اللہ کی پرستش سے
روک دیا کیونکہ پہلے وہ کافروں میں سے تھی۔

تفسیر آیات

اس آیت کی ایک تشریح یہ ہے کہ سلیمان عليه السلام نے ملکہ کو غیر اللہ کی عبادت سے روکا۔ اس صورت میں صد کا فاعل ضمیر سلیمان عليه السلام کی طرف راجع ہے۔ یہی ترجمہ ہم نے اختیار کیا ہے۔

دوسری تشریح یہ ہے کہ سورج کی پرستش نے اسے ایمان باللہ سے روکا۔ سیاق کلام کے مطابق اس تشریح کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہے۔

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا
رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً ۖ وَكَشَفَتْ عَنْ
سَاقِيهَا ۗ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ
مِّنْ قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ اِنِّي

۴۴۔ ملکہ سے کہا گیا: محل میں داخل ہو جائیے،
جب اس نے محل کو دیکھا تو خیال کیا کہ وہاں
گہرا پانی ہے اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول
دیں، سلیمان نے کہا: یہ شیشے سے مرصع محل ہے

ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ
سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٥﴾
ملکہ نے کہا: پروردگارا! میں نے اپنے نفس پر
ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب
العالمین اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔

تشریح کلمات

صرح: (ص ر ح) بلند، منقش و مزین مکان۔
مُمرَّد: (م ر د) ہموار کیا ہوا۔ صاف کیا ہو۔ مرد بے آب گیاہ رہتی، بے سبزہ زمین کو کہتے ہیں اور
بے ریش نوجوان کو امرد کہتے ہیں۔ قَوَارِيرَ قَارِوَةَ کی جمع۔ شیشہ۔

تفسیر آیات

۱۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ: ملکہ سے کہا گیا محل میں داخل ہو جائے تو ملکہ نے دیکھا سامنے گہرا
پانی ہے۔ چونکہ قصر سلیمانی کا صحن شفاف شیشوں سے بنا ہوا تھا اور نیچے پانی کا تالاب تھا اس لیے دیکھنے میں
پانی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ حَسْبَتْهُ لُجَّةٌ خِيَالٌ کیا وہاں گہرا پانی ہے۔ اس لیے ملکہ نے اپنی پنڈلیاں
کھولیں۔ جب معلوم ہوا یہ شیشہ ہے تو حضرت سلیمان عليه السلام کی قوت و سلطنت کو دیکھ کر اللہ کے سامنے سر تسلیم
خم کرنے کے لیے حضرت سلیمان عليه السلام کی معیت میں آ گئیں۔
حضرت سلیمان عليه السلام کی حیات اور ان کی سلطنت و حکومت کے بارے میں توریت کی روایت اور اسرائیلیات
پر مبنی روایات، خرافات اور ناقابل اعتنا ہیں۔ ہم نے ان باتوں کی طرف اشارہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ
صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ
فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٣٥﴾
۳۵۔ اور ہم نے (قوم) ثمود کی طرف ان کی
برادری کے صالح کو (یہ پیغام دے کر) بھیجا
کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق بن کر
جھگڑنے لگے۔

تفسیر آیات

۱۔ أَخَاهُمْ صَالِحًا: حضرت صالح کو قوم ثمود کا بھائی بنا اس لیے کہا گیا کہ ان کا تعلق اسی قوم
سے تھا۔
۲۔ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ: تمام انبیاء عليهم السلام کی دعوت صرف اللہ کی بندگی اختیار کرنے پر مرکوز تھی۔
۳۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ: حضرت صالح عليه السلام کی دعوت قبول اور رد کرنے والوں پر مشتمل

ہمیشہ کی طرح دو فریق وجود میں آ گئے۔

سورة الاعراف آیات ۷۵-۷۶ میں ان دونوں فریقوں کا ذکر آیا ہے جس میں ایمان لانے والوں کو مستضعفین، کمزور کہا ہے اور منکرین کو مستکبرین کہا ہے۔ دعوت انبیاء ﷺ معاشرے کا کمزور طبقہ قبول کرتا آیا ہے۔

ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مستکبرین نے دعوت انبیاء ﷺ کو ہمیشہ ٹھکرایا ہے۔ اس کے دو اسباب ہیں: پہلا سبب یہ ہے کہ جن کے ضمیر مادیت کے تہ در تہ پردوں کے پیچھے ہوتے ہیں ان کے ضمیر تک انبیاء ﷺ کی آواز پہنچ نہیں پاتی۔ دوسرا سبب دعوت انبیاء ﷺ ان کے مفادات کے ساتھ متصادم ہوتی ہے اس لیے تقریباً تمام سرمایہ داروں نے دعوت انبیاء ﷺ کو مسترد کیا ہے۔

اہم نکات

۱- مادیات اور مفادات قبول حق میں رکاوٹ ہیں۔

قَالَ يَقَوْمٍ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ
بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا
تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿۷۵﴾

۳۶- صالح نے کہا: اے میری قوم! نیکی سے پہلے برائی کے لیے کیوں عجلت کرتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟

تفسیر آیات

قوم صالح نے جب اونٹنی کو مار ڈالا تو وہ کہنے لگے:

يٰصَلِحُ اِنَّا بِمَا نَعْدُنَا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ ﴿۷۵﴾

(عذاب) لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔

اس کے جواب میں حضرت صالح ﷺ فرماتے تھے: تم نیکی سے پہلے برائی کے لیے کیوں عجلت کرتے ہو۔ برائی سے مراد یہاں عذاب ہے اور حسنة سے مراد رحمت و مغفرت ہے۔ تم نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کے لیے استغفار کرنی چاہیے تھی کہ اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ اس کی جگہ تم عذاب طلب کرتے ہو۔

قَالُوا الظَّيْرُ نَابِكَ وَيَمْنٌ مَعَكَ ط
 قَالَ ظَيْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ
 قَوْمٌ تَفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

۴۷۔ وہ کہنے لگے: تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگونی کا سبب ہیں، صالح نے کہا: تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم لوگ آزمائے جا رہے ہو۔

تفسیر آیات

۱۔ قَالُوا الظَّيْرُ نَابِكَ: وہ بدشگونی کا سبب قرار دیتے تھے۔ عربوں کے اوہام میں سے ایک وہم یہ تھا کہ وہ پرندوں سے بدشگونی لیتے تھے۔ اس لیے وہ ہر بدشگونی کو اظَّيْرُ کہتے تھے۔ ان کے مطابق حضرت صالح عليه السلام نے ان کے معبودوں کو مسترد کرنے کی دعوت دی تو ان کے معبود ناراض ہو گئے اور بدشگونی کا سبب فراہم ہوا۔ سورۃ الاعراف آیت ۱۳۱ میں بھی بدشگونی کا ذکر ہوا ہے۔

۲۔ قَالَ ظَيْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ: ان کے اپنے محاورے میں جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری بدشگونی یعنی عذاب اللہ کے پاس ہے۔ جو کچھ حوادث پیش آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔

۳۔ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ: یہ بدشگونی نہیں ہے بلکہ جن باتوں کو تم بدشگونی سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے آزمائش ہیں جن سے مؤمن و کافر، نیک اور بد میں امتیاز آ جاتا ہے۔

اہم نکات

۱۔ بدشگونی مشرکوں کا جاہلانہ واہمہ ہے۔

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾

۴۸۔ اور اس شہر میں نو دھڑے باز تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔

تشریح کلمات

رَهْطٍ: (رہ ط) دس آدمیوں سے کم جماعت کو رَهْطٍ کہتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ: حضرت صالح عليه السلام کے شہر میں نو ایسے دھڑے بستے تھے جو فساد کی جڑ تھے اور یہ لوگ اس قوم کے سردار تھے۔ ناقہ صالح کے قتل میں یہی لوگ ملوث تھے۔

۲- يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ: وہ ہر تن فسادی تھے جس کی صراحت اگلے جملے میں ہے۔

۳- وَلَا يُصْلِحُونَ: ان کے کردار میں اصلاح کا شائبہ تک نہیں تھا۔

۴۹- انہوں نے کہا: آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کے وقت صالح اور ان کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے پھر ان کے وارث سے یہی کہیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے اور ہم سچے ہیں۔

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ ﴿۴۹﴾

تفسیر آیات

۱- قَالُوا تَقَاسَمُوا: وہ آپس میں کہنے لگے کہ قسم کھاؤ۔ آیت کے اس حصے میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے کہ تَقَاسَمُوا وقالوا قسم کھا کر کہنے لگے کہ ہم شب خون ماریں گے اور صالح اور ان کے اہل خانہ کو قتل کریں گے۔ پھر ہم کہیں گے رات کی تاریکی میں کیا معلوم کس نے قتل کیا۔ ہم نے تو تاریکی میں دیکھا بھی نہیں۔

۲- وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ: وہ اس مکر و حیلہ کے ذریعے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے پر مطمئن تھے۔

۵۰- اور انہوں نے مکارانہ چال چلی تو ہم نے ایسی حکیمانہ تدبیریں کیں کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔

وَمَكْرُومًا مَّكْرًا وَمَكْرًا نَّامَكْرًا ۝ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۰﴾

تشریح کلمات

مَكْرٌ: (م ك ر) کے معنی کسی شخص کو حیلہ کے ساتھ اس کے مقصد سے پھیر دینے کے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ اچھی اور بری تدبیر دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور جب بری تدبیر کے لیے لفظ مکر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ...۔ حالانکہ بری چال کا وبال اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔

تفسیر آیات

کہاں ان کی تدبیر و حیلہ اور کہاں اللہ کی تدبیر۔ کہاں ان کی ناقص سوچ اور کہاں اللہ کی قدرت۔ جب یہ اللہ کی تدبیر کے زد میں آتے ہیں تو ان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور تباہی میں گر چکے ہوتے ہیں۔

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
مَكْرِهِمْ اَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ
اَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾

۵۱۔ پس دیکھ لو! ان کی مکاری کا کیا انجام ہوا،
ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو نابود کر دیا۔

تفسیر آیات

حضرت صالحؑ کے خلاف اس قوم نے جو حیلہ اور تدبیر اپنائی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خود ہلاک
اور نابود ہو گئے۔

دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ: ان کو تباہ کیا جو حضرت صالحؑ کو شہید کرنے کی تدبیر میں شامل تھے اور
ساتھ ان کی قوم بھی تباہ و نابود ہو گئی چونکہ یہ سب اس جرم میں شریک تھے جو یہ لوگ کرنا چاہتے تھے اور ناقہ کو
قتل کرنے کے جرم میں بھی شریک تھے۔

فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا
ظَلَمُوا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً لِّقَوْمٍ
يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾

۵۲۔ پس ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے نتیجے میں
ویران پڑے ہیں، اس میں علم رکھنے والوں کے
لیے ایک نشانی ہے۔

تشریح کلمات

خَاوِيَةٌ: (خ و ی) الخواء کے معنی خالی ہونے کے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ: وہ ایسے تباہ ہوئے کہ ان کے گھر اپنے مکینوں سے خالی ہو گئے۔
بِمَا ظَلَمُوا اس تباہی کا سبب وہ ظلم تھا جو ان سے صادر ہوا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ظلم کے نتائج میں
سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ نسلیں تباہ اور گھر کے مکین ختم ہو جاتے ہیں۔

۲۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ: اس واقعہ میں ایک نشانی ہے۔ عبرت کی نشانی، ایک درس
عبرت ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ جسے علم ہے کہ کون سا حادثہ کس عمل کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ عالم علل
واسباب کی گہرائی میں علم کی روشنی سے نگاہ کرنے والے اس راز کو جانتے ہیں۔

وَاَنْجَبْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا
يَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾

۵۳۔ اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دی اور
وہی تقویٰ والے تھے۔

تفسیر آیات

اور اہل ایمان کو ہم نے نجات دی۔ ان کو نجات دینے کے پیچھے جو سبب کارفرما تھا وہ تقویٰ تھا۔ جیسا کہ منکرین کو تباہ کرنے کے پیچھے جو سبب تھا وہ ان کا ظلم تھا۔ تقویٰ یعنی بچاؤ۔ وہ اپنے آپ کو آنے والے خطرات سے بچاتے تھے۔

اہم نکات

۱۔ ظلم اور تقویٰ کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔

۵۴۔ اور لوط (کا وہ وقت یاد کرو) جب انہوں
وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ
الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿۵۴﴾
نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم بدکاری کا ارتکاب
کرتے ہو؟ حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔

تفسیر آیات

قوم لوطا اعلانیہ ہم جنس بازی کا ارتکاب کرتی تھی۔ اس کے لیے وہ محفلیں جماتی اور سب کے سامنے اس شرم ناک فعل کو انجام دیتی تھی۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان دونوں ناشائستہ حرکتوں کی طرف اشارہ فرمایا: ایک یہ کہ تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو اور دوسرا وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اس عمل بد کو سب کی نگاہوں کے سامنے انجام دیتے ہو۔

۵۵۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے
أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
تَجْهَلُونَ ﴿۵۵﴾
لیے مردوں کا رخ کرتے ہو؟ بلکہ تم تو جاہل
قوم ہو۔

تفسیر آیات

عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے لیے مردوں کا رخ کرنا وہ فحش ہے جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ مل گیا کہ اپنی جنسی شہوت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے جائز طریقے سے عورتوں کا رخ کرنا فحش نہیں ہے۔
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ: تم ایک نادان جاہل قوم ہو۔ اپنے اس عمل بد کی برائی سے آگاہ نہیں ہو اور

اس کے انجام سے بھی آگاہ نہیں ہو۔

۵۶۔ تو ان کی قوم کا بس یہی جواب تھا کہ وہ
 قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ
 قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ
 يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾
 کہیں لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال
 دو یہ لوگ بڑے پاکباز بنتے ہیں۔

تفسیر آیات

حضرت لوط علیہ السلام کی اس دعوت کو تمسخر کے ساتھ مسترد کرتے، طہارت و پاکیزگی کو عار و ننگ قرار
 دیتے اور یہ اعلان کرتے ہیں:

أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ: آل لوط کو ملک بدر کرو۔ انہیں اپنے شہر سے نکال باہر کرنے
 کی وجہ، یہ اعلان کرتے ہیں:
 إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ: یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ پاکیزگی اور طہارت پسندی اس معاشرے
 میں عار و ننگ شمار ہوتی تھی۔

ہم اکیسویں صدی کے مغربی اور مغرب زدہ معاشروں کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے یہ بات
 باعث تعجب نہیں ہے چونکہ ان معاشروں میں وہ بات عار و ننگ شمار ہوتی ہے جو انسانی طہارت، غیرت،
 عزت و ناموس سے متعلق ہے۔ چنانچہ حجاب عیب شمار ہوتا ہے اور فرینڈز کے نام سے چار پانچ نامحرم مردوں
 کے ساتھ روابط رکھنا فخر اور عزت شمار ہوتی ہے۔

۱۷۵

۵۷۔ تو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا
 سوائے لوط کی بیوی کے، ہم نے اس کا مقدر
 قَانَجَيْنُهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
 فَذَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾
 یہ بنایا تھا کہ وہ پیچھے رہ جائے۔

تشریح کلمات

الْغَابِرِينَ: (غ ب ر) اسے کہتے ہیں جو ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جائے۔

تفسیر آیات

قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر کے افراد کو بچا لیا۔ صرف

۳۔ اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ: اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا جنہیں یہ مشرکین اللہ کے ساتھ شریک گردانتے تھے لیکن مشرکین ان شریکوں کو اللہ سے زیادہ چاہتے تھے اس لیے ایک دعوت فکر کے طور پر کہا گیا: کیا اللہ بہتر ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یا وہ بت جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے؟

۶۰۔ (شریک بہتر ہیں) یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا؟ پھر ہم نے اس سے پر رونق باغات اگائے، ان درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو منحرف قوم ہیں۔

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَۃً ۙ مَا كَانْ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ اِنَّ اِلٰهَ مَعِ اللّٰهِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ۝۶۰

تشریح کلمات

حَدَآئِقَۃً: (ح د ق) الحدیقة مرغزار۔ وہ قطعہ زمین جس میں پانی جمع ہو اور بیت و صورت اور پانی کے ہونے کی وجہ سے اسے حدقة العين (اکھ کی پتلی) سے تشبیہ دے کر اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

بِهٖجَۃً: (ب ہ ج) خوش نمائی، فرحت و سرور کا ظہور۔

تفسیر آیات

۱۔ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ: کلام کا رخ مشرکین کی طرف ہے جو غیر اللہ کی اس بنیاد پر پرستش کرتے ہیں کہ یہ غیر اللہ ان کی زندگی کو چلاتے اور کائنات کی تدبیر کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو خالق مانتے ہیں بس۔ آگے تدبیر غیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

ان سے فرماتا ہے کس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا؟ وہ کہیں گے: اللہ نے۔ پھر سوال ہوا کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے معبودوں نے۔ اگلے جملے میں فرمایا:

۲۔ فَاَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَۃً: پھر ہم نے اس سے پر رونق باغات اگائے۔ یہ اگانے کا عمل تخلیقی عمل ہے۔ یہ روئیدگی جو زندگی کا ستون ہے تخلیق ہے۔ ایک تنے سے مختلف میوے کون نکالتا ہے؟ صاحب قاموس قرآن نے خوب کہا ہے: تربوز کا بیج جس کا کوئی وزن نہیں اس سے کئی کلو وزنی تربوز کون نکالتا ہے؟ لہذا خلق و تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ مشرکین اللہ کو خالق تسلیم کرتے ہیں تو انہیں اللہ ہی کو مدبر تسلیم کرنا پڑے گا۔

۳۔ ءَاِلٰهَ مَعَ اللّٰهِ: کیا کوئی معبود ایسا ہے جو اللہ کے ساتھ تخلیق و تدبیر کا یہ عمل انجام دے سکے؟ جواب نفی میں ہے۔ جب تخلیقی عمل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تدبیر کا عمل بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا صرف اللہ ہی معبود ہے۔

۴۔ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ: یہ لوگ اپنے بنائے ہوئے اصول سے منحرف ہو جاتے ہیں اور غیر خالق کے مدبر ہونے کے قائل ہیں۔

۶۱۔ (یہ بت بہتر ہیں) یا وہ جس نے زمین کو جائے
 اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ
 خَلْقَهَا اَنْهَرًا وَجَعَلَ لَهَا رَواسِيًا
 وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا
 ءَاِلٰهَ مَعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا
 يَعْلَمُوْنَ ۝۱۱

قرار بنایا اور اس کے بیچ میں نہریں بنائیں اور
 اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان
 ایک آڑ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی
 ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

تفسیر آیات

اس آیه شریفہ میں تخلیق و تنظیم سے مربوط چار اہم چیزوں کا ذکر ہے جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تخلیق و تدبیر دو مختلف چیزیں نہیں ہیں:

۱۔ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا: زمین خلق کرنے کے بعد اسے جائے استقرار کس نے بنایا؟ ظاہر ہے جس نے زمین کو خلق فرمایا اسی نے زمین کو اس طرح خلق فرمایا کہ اس میں استقرار آجائے، قابل سکونت ہو اور اضطراب نہ ہو۔

۲۔ وَجَعَلَ خَلْقَهَا اَنْهَرًا: زمین کو نشیبی صورت میں خلق فرمایا۔ اس طریقہ تخلیق سے نہروں میں روانی آگئی۔ دریا بہنا شروع ہو گئے۔ اگر زمین ہموار ہوتی تو پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہوتا۔

۳۔ وَجَعَلَ لَهَا رَواسِيًا: پہاڑوں کی تخلیق کی وجہ سے زمین کو اضطراب سے محفوظ کر دیا اور ساتھ برف کے ذریعے پانی کو ذخیرہ کر دیا۔ اگر پہاڑوں کی تخلیق نہ ہوتی تو زندگی منظم نہ ہوتی۔

۴۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا: دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی۔

آیت کے اس حصے کی ایک تشریح یہ کی جاتی ہے کہ دونوں سمندر اپنے کیمیکل مواد اور نمک کی وجہ سے جو پانی میں حل ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے مخلوط نہیں ہوتے۔ جیسے تیل اور پانی لیکن اس تفسیر میں کوئی تدبیری نکتہ نہیں ہے۔

اس کی ایک تفسیر قاموس قرآن نے اختیار کی ہے جو اگرچہ سیاق آیت سے چنداں نزدیک نہیں

ہے تاہم اس میں ایک اہم تدبیری نکتہ موجود ہے جو آیت کی غرض و غایت کے نزدیک ہے۔ کہتے ہیں: ایک سمندر زمین کی پشت پر ہے اور ایک دوسرا سمندر زمین کی شکم میں ہے۔ زیر زمین پانی کو ہم کنویں، ٹیوب ویل کے ذریعے اوپر لاتے ہیں اور چشمے پھوٹنے سے بھی یہ پانی روئے زمین پر آتا ہے۔ ان دونوں سمندروں کے درمیان زمین ایک آڑ ہے جس سے زمین پر موجود پانی سے زیر زمین پانی نمکین یا تلخ نہیں ہوتا۔ لہذا حَاجِرًا آڑ سے مراد زمین ہے جس پر صاحب قاموس قرآن کو یقین حاصل ہے۔

۶۲۔ یا وہ بہتر ہے جو مضطرب کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاہُ
وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ اللّٰهِ ۗ
قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

تفسیر آیات

۱۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ: جب تم بے بس ہوتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو کیونکہ تمہاری جبلت میں اللہ کا تصور موجود ہے۔ وہ مصیبت کے وقت ہی تمہیں یاد آتا ہے۔ وہی تمہارا معبود ہے۔

۲۔ إِذَا دَعَاہُ: جب اللہ کو پکارے۔ اجابت دعا کے لیے آیت میں یہ شرط عائد کی ہے کہ جب اللہ کو پکارے تو دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی صرف اللہ کو نہیں پکارتا، غیر اللہ کے ساتھ پکارتا ہے تو اجابت دعا کا وعدہ نہیں ہے یا صحیح معنوں میں پکار ہوتی ہی نہیں ہے، صرف زبان ہلاتا ہے۔ اس سے بھی دعا قبول نہ ہوگی لیکن اگر صرف اللہ کو پکارے اور حقیقی معنوں میں پکارے تو اللہ کی طرف سے قبول دعا کا وعدہ ہے۔ جیسا کہ فرمایا: اذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ... ۱

اس آیت میں بھی دعا ہونے کی صورت میں قبول دعا کا وعدہ ہے۔ چنانچہ منقول دعا میں آیا ہے:

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَدْعُوْکَ کَمَا اَمَرْتَنِیْ فَاَسْتَجِبْ اے اللہ! میں تیرے حکم کے مطابق دعا کرتا ہوں
لی کَمَا وَعَدْتَنِیْ... ۲ اب تو اپنے وعدے کے مطابق قبول فرما۔

لہذا یہاں یہ سوال نہیں آسکتا کہ کبھی دعائیں بہت ہوتی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتیں۔

۳۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ: اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے آنے والی نسلوں کو گزشتہ نسلوں کا جانشین بنایا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے زمین پر اپنا جانشین بنایا ہے کہ اس نے ہر

چیز تمہارے اختیار میں رکھی ہے۔ اس طرح اس نے مجموعی طور پر انسان کو زمین میں خلافت عطا کی ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا... ل

اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا۔

یہ دونوں تفسیریں تدبیری نقطہ نظر سے آیت کے سیاق کے ساتھ مناسب ہیں۔

۶۳۔ یا وہ بہتر ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں
تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور کون ہے جو ہواؤں کو
خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا
ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اللہ بالاتر
ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

تفسیر آیات

۱۔ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ: خشکی، سمندر اور تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام میں ایسے نظام وضع فرمائے ہیں جن سے انسان کو سمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پائلٹ اور سمندری جہاز چلانے والے اس نظام سے راہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ان میں ستارے بھی شامل ہیں جن سے راہنمائی ملتی ہے۔

۲۔ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ: اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تدبیر کا ایک اہم مظہر یہ ہے کہ اللہ نے نظام خلقت میں مختلف علاقوں کے درجہ حرارت مختلف رکھے ہیں۔ اس کی وجہ سے تیز رفتار ہوا وجود میں آتی ہے جو بادلوں کو خشکی کی طرف چلاتی ہے۔ یہ ہوا رحمت الہی یعنی سرچشمہ حیات پانی کی خوشخبری دینے والی ہے۔

یہ سب اللہ تعالیٰ کے تخلیقی نظام سے مربوط تدبیریں ہیں جو تخلیق سے جدا نہیں ہیں۔

۳۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ: یہ سب تدبیریں خالق کی طرف سے ہیں تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے جس کا اس تخلیق و تدبیر میں کوئی کردار ہو؟

۶۴۔ یا وہ بہتر ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے
دہراتا ہے اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يُرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ

الْأَرْضُ ۗ ءِإِلَٰهَ مَعَ اللَّهِ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٧﴾

دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہہ دیجیے: اپنی دلیل پیش کرو اگر تم لوگ سچے ہو۔

تفسیر آیات

۱۔ اَمَّنْ يَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يَّعِيْدُوْهُ: کون خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے؟ مشرکین اس بات کے تو قائل تھے کہ خالق اللہ ہے لہذا تخلیق سے تدبیر کا استدلال درست ہے لیکن وہ اعادہ تخلیق کے قائل نہیں تھے۔ اس آیت میں اعادہ تخلیق سے کیسے استدلال ہوا؟ جس کے وہ قائل نہیں تھے۔

تقریباً تمام مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے: اللہ تعالیٰ نے اعادہ خلق پر اس قدر دلائل دیے ہیں کہ ان دلائل کی روشنی میں اعادہ خلق دلائل کی دنیا میں ناقابل انکار ہو گیا ہے۔

میرے نزدیک یہ بات بعید نہیں ہے کہ اعادہ خلق سے مراد آخرت نہ ہو، دنیا میں جاری اعادہ خلق ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ متعدد آیات میں دنیا میں اعادہ تخلیق سے آخرت کے اعادہ تخلیق کے لیے استدلال فرماتا ہے:

وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿٥١﴾

اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۗ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿٥٢﴾

اور جس نے آسمان سے پانی ایک مقدار میں نازل کیا جس سے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، تم بھی اسی طرح (قبروں سے) نکالے جاؤ گے۔

۲۔ وَمَنْ يَّرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ: کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔

رزق کا بیشتر حصہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ دھوپ، نائٹروجن، بارش وغیرہ۔ اس لیے فرمایا:

وَ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تَوَعَّدُونَ ﴿٥٣﴾

اور تمہاری روزی آسمان میں ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

دانے کو شگافتہ کر کے اس کے شکم سے تنا، برگ اور دانہ نکالنا رزق اور تخلیق ہے۔ لہذا رزق دینا تخلیق مسلسل سے عبارت ہے۔

۳۔ ءِإِلَٰهَ مَعَ اللَّهِ: کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو تمہاری زندگی کی یہ تمام تدابیر فراہم کرے؟

۴۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ: اے رسول کہہ دیجیے: تم اپنے مدعا پر دلیل پیش کرو کہ تمہارے معبود

ان تدبیری امور میں کوئی امر انجام دیتے ہیں؟

اہم نکات

۱۔ خالق ہی رازق ہے چونکہ رزق دینا تخلیق مسلسل ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿۶۵﴾
 ۶۵۔ کہہ دیجیے: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے اور نہ انہیں یہ علم ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

تفسیر آیات

علم غیب بذات خود صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر غیر اللہ کو کسی علم غیب پر دست رسى ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کی صورت میں ممکن ہے۔ لہذا آسمانوں اور زمین میں علم غیب کا ماخذ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے اور جو اپنے بندوں کے مستقبل سے بے خبر ہو وہ معبود نہیں بن سکتا کیونکہ وہ بے خبری میں اپنے بندوں کی زندگی کی تدبیر نہیں کر سکتا۔

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ: علم غیب کا ایک موضوع علم بہ قیامت کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے مستقبل کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا، خاص کر قیامت کے بارے میں کہ کب برپا ہوگی تو ایسے معبود اپنے بندوں کے مستقبل کے بارے میں کس چیز کی ضمانت دے سکیں گے۔

اہم نکات

۱۔ انسان کی زندگی اسی ذات کے قبضہ قدرت میں ہے جو اس کے مستقبل سے باخبر ہے۔

بَلِ ادْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۗ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ لَمَنْ يَنْزِلُ فِيهَا مِنْهَا غَمُونَ ﴿۶۶﴾
 ۶۶۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ماند پڑ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں بلکہ یہ اس کے بارے میں اندھے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ بَلِ ادْرَاكَ عِلْمُهُمْ: اس جملے اور اس کے بعد آنے والے جملوں کی تفسیر و توجیہ میں اہل علم کو بہت اضطراب پیش آیا ہے۔ اس اضطراب کی وجہ لفظ ادْرَاكَ کے معنی میں مضمر ہے۔ چنانچہ اس لفظ کے ایک معنی فنا کے ہیں۔ اس معنی کو اکثر نے اختیار کیا پھر توجیہ و تاویل اور تکلف کرنا پڑا۔ جب کہ اس لفظ کے کثیر

الاستعمال معنی تتابع اور تلاحق کے ہیں۔ کہتے ہیں: دراکا متدارکاً یعنی تباعاً واحداً اثر واحد۔ اذْرَكَ اور متدارك کیے بعد دیگرے پیچھے آنے کے معنوں میں ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اس جملے کا واضح مطلب یہ بنتا ہے:

یہ مشرکین آخرت کی نفی میں جس علم کے مدعی ہیں ان کا یہ علم کسی دلیل و برہان پر مستند نہیں ہے۔ بَلْ اذْرَكَ عَلْمُهُمْ بلکہ ان کا یہ علم تقلیدی ہے۔ اپنے آباء و اجداد سے کیے بعد دیگرے ان تک منتقل ہوا ہے۔

ہم نے اذْرَكَ کا ترجمہ مانند پڑ گیا سے کیا ہے چونکہ ان کا علم کسی سند تک نہیں پہنچ پاتا۔ جیسا کہ قرآن نے متعدد آیات میں اس قسم کے تقلیدی عقائد و نظریات کو مسترد کیا ہے۔

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا: وہ اس تقلیدی موقف کو علم کا نام دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔

بَلْ هُمْ قَوْمٌ غَمُّونَ: بلکہ وہ شک کے مرحلے سے بدتر حالت میں ہیں۔ شک کی حالت میں انسان مسئلے کی طرف متوجہ رہتا ہے پھر شک کرتا ہے۔ یہ لوگ ایسے اندھے ہیں کہ اس مسئلے کو اپنے صفحہ ذہن پر نہیں لاتے۔

اہم نکات

۱۔ مشرکین نے اپنا عقیدہ علم کی بنیاد پر نہیں رکھا ہے بلکہ ان کا عقیدہ شک سے بدتر نابینائی کی صورت میں موجود ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا
وَأَبَاءُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿١٤﴾

۶۷۔ اور کفار کہتے ہیں: جب ہم اور ہمارے
باپ دادا خاک ہو چکے ہوں گے تو کیا ہمیں
(قبروں سے) نکالا جائے گا؟

تفسیر آیات

وہ انسان کے خاک ہونے کے بعد دوبارہ انسان ہونے کو بعید سمجھتے تھے۔ ان کے پاس انسان کے دوبارہ انسان ہونے کے ناممکن ہونے پر کوئی دلیل نہیں تھی۔

صرف یہ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے ذرات زمین میں منتشر ہو جاتے ہیں۔ ایک درخت کی جڑوں کا حصہ بن جاتا ہے جس کے پتے زمین پر گرتے ہیں۔ پھر ان پتوں کو کوئی جانور کھاتا ہے۔ اس جانور کو کوئی انسان کھاتا ہے۔ اس طرح اس شخص کے بدن کے اجزاء کسی دوسرے شخص کے بدن کا جز بن جاتے ہیں۔

جب کہ انسان پہلی مرتبہ انسان بنا تو جن اجزاء و غلیات سے بنا ہے وہ کسی اور انسان اور حیوان کے تنفس سے پیدا ہونے والے عناصر سے بنے ہیں کہ یہ کاربن ایک درخت کا حصہ بن گیا۔ اس کے پھل سے انسان کا خون نطفہ بن جاتا ہے پھر انسان کی شکل میں آتا ہے۔

اہم نکات

۱۔ پہلی بار انسان کو اللہ تعالیٰ نے منتشر اور مختلف عناصر جمع کر کے بنایا۔ دوسری بار بھی اسی طرح خلق کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔

لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾

۲۸۔ اس قسم کا وعدہ پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے ہوتا رہا ہے یہ تو قصہ ہائے پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ اس قسم کی قیامت کا وعدہ تو ہمارے آبا و اجداد سے بھی ہوتا رہا ہے۔ اگر یہ وعدہ سچ ہوتا تو ابھی تک قیامت آچکی ہوتی۔ یہ صرف داستان پارینہ ہے جو بے حقیقت ہے۔

۲۔ اس آیت میں مشرکین کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے آخرت کا تصور قائم کر کے کوئی انوکھا تصور قائم نہیں کیا بلکہ خود مشرکین کے اعتراف کے مطابق تمام سابقہ انبیاء علیہم السلام بیان کرتے آئے ہیں۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا ۖ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾

۶۹۔ کہہ دیجیے: زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا ہے۔

تفسیر آیات

سیر فی الارض سے تمہیں یہ نظر آئے گا کہ ان قوموں کا انجام کیسا رہا جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا۔ ان کا انجام دیکھ کر ان سے سبق لو اور انکار آخرت کے جرم کے مرتکب نہ بنو۔ ممکن ہے مطلب یہ ہو کہ سیر فی الارض سے گزشتہ قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے آثار دیکھ کر یہ معلوم ہو جائے گا کہ انسانی عمل و کردار بے حساب نہیں ہے جیسا کہ مشرکین نے خیال کر رکھا ہے بلکہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خلقت عبث ہو جاتی۔

اہم نکات

۱۔ قوموں کی تباہی میں درس اور دلیل ہے روزِ آخرت پر۔

۷۰۔ اور (اے رسول) ان (کے حال) پر رنجیدہ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي
صَبِيحٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۷۰﴾
نہ ہوں اور نہ ہی ان کی مکاریوں پر دل تنگ ہوں۔

تفسیر آیات

۱۔ رسول اللہ ﷺ کو انسانوں کی نجات و ہدایت کے ساتھ جو ہمدردی اور مہربانی تھی اس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ ہوتے دیکھ کر آپ رنجیدہ ہوتے تھے۔ ان کی عاقبت کو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا۔ آیت میں بتایا کہ یہ لوگ آپ کی ہمدردی کے اہل نہیں ہیں۔

۲۔ دوسری طرف ان مجرموں کی مکاریوں سے سے بھی آپ ﷺ کو اذیت ہوتی تھی۔ یہاں تک آپ نے فرمایا:

ما اوذی نبی مثل ما اوذیت۔^۱ جیسے اذیت مجھے دی گئی ایسی کسی نبی کو نہیں دی گئی
آیت میں فرمایا ان مکاریوں سے آپ دل تنگ نہ ہوں۔ اللہ ان کے شر سے آپ ﷺ کو بچائے گا اور فتح
آپ ہی کی ہوگی۔

اہم نکات

۱۔ جو رحمت حق کے اہل نہیں ہیں ان پر رحم نہیں کیا جاتا۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ اِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷۱﴾
۷۱۔ اور وہ کہتے ہیں: اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ آخر
کب پورا ہوگا؟

تفسیر آیات

اس وعدے سے مراد دنیاوی عذاب ہو سکتا ہے کہ قرآن کی طرف سے گزشتہ اقوام، قوم عاد و ثمود کی
طرح کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا:

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صُحُفَةً
مِثْلَ صُحُفَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۝٤١

اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجیے: میں نے تمہیں ایسی
بجلی سے ڈرایا ہے جیسی بجلی قوم عاد و ثمود پر آئی تھی۔

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ
بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ۝٤٢

۴۲۔ کہہ دیجیے: ممکن ہے جن بعض باتوں کے
لیے تم عجلت چاہ رہے ہو وہ تمہارے پس پشت
پہنچ چکی ہوں۔

تشریح کلمات

رَدِفَ: (ر د ف) الردف تابع یعنی ہر وہ چیز جو دوسرے کے پیچھے ہو۔

۱۔ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ: عَسَى کا لفظ جب اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے تو اس کے بعد ذکر ہونے والا مطلب ایک مطلوبہ عمل ہوا کرتا ہے۔ التبیان کے مطابق عَسَى من اللہ واجبة۔ اللہ جب عَسَى (ممکن ہے) کا لفظ استعمال فرماتا ہے تو اس کے بعد مذکورہ مطلب کا واقع ہونا لازمی ہوتا ہے۔ لہذا جس عذاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کا واقع ہونا لازمی ہے۔

یہ عذاب جنگ بدر کی شکست سے شروع ہوا اور فتح مکہ کے موقع پر اس وعدے کا ایک حصہ پورا ہو گیا۔ بَعْضُ الَّذِي یہ دنیوی عذاب کل کے عذاب کا ایک حصہ ہوگا جو مشرکین کے مقدر میں ہے۔ مجرمین پر عذاب نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ عجلت سے کام نہیں لیتا۔ جب کہ مجرمین خود اس عدم عجلت کو قیامت کے برحق نہ ہونے کی دلیل ٹھہراتے ہیں۔ عذاب کا مستحق ہونے کے باوجود عذاب میں عجلت سے کام نہ لینا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس سے ان کے جرم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اہم نکات

۱۔ مجرم کے عذاب میں عجلت سے کام نہ لینا خود عذاب ہے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝٤٣

۴۳۔ اور تحقیق آپ کا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل
کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

تفسیر آیات

۱۔ عذاب میں عجلت سے کام نہ لینا، ان لوگوں کے حق میں اللہ کا فضل و کرم ہے جو مستقبل میں راہ

حق پر آنے والے ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو ایمان کے دائرے میں داخل ہونے والے ہیں وہ عذاب نہ آنے کا شکر کریں مگر وہ آج شکر نہیں کر رہے ہیں۔

اہم نکات

۱۔ مہلت مؤمن کے لیے رحمت اور کافر کے لیے عذاب ہے۔

وَأَنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ
صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۴۲﴾
۴۲۔ اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں تحقیق آپ کا پروردگار اسے خوب جانتا ہے۔

۲۔ عذاب میں تاخیر اس لیے تو نہیں ہے کہ اللہ کو مجرمین کے جرم پر علم حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ تو جرم کے واقع ہونے سے پہلے مجرمین کے ارادوں کو اسی طرح جانتا ہے جیسے جرم کا برملا ارتکاب کرنے کی صورت میں جانتا ہے۔

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوِ
الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۴۳﴾
۴۳۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔

۳۔ کوئی بات اللہ سے پوشیدہ کیسے رہ سکتی ہے۔ کل کائنات میں پیش آنے والا ہر عمل اور کائنات کے سینے میں پوشیدہ تمام راز کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں موجود ہیں۔

اہم نکات

۲۔ موجودات اپنے وجود سے پہلے اللہ کے علم میں ہیں۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي
إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿۴۴﴾
۴۴۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر وہ باتیں بیان کر دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح القدس اور اللہ کو یہ لوگ اقنوم ثلاثہ کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھنے کے بارے میں ان کے اختلافات کا قرآن فیصلہ کن موقف اختیار فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل نے

انبیاء علیہم السلام اور ان کے لائے ہوئے دین میں جو تحریفیں کی ہیں ان سب حقائق کا بیان کرنا قرآن نے اپنے ذمے لیا ہے۔

وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ ۷۷۔ اور یہ اہل ایمان کے لیے یقیناً ہدایت اور

رحمت ہے۔

۲۔ یہ قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے اور رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ہدایت سے بہرہ ور ہوتے اور ایمان کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ ۷۸۔ یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٤٨﴾ فیصلہ کر دیتا ہے اور وہی بڑا غالب آنے والا،

بڑا علم رکھنے والا ہے۔

۳۔ آپ کا رب ان اختلاف کرنے والوں میں فیصلہ کرے گا۔ یہ فیصلہ بِحُكْمِهِ یعنی بعدلہ ہوگا۔ اللہ ان میں اپنے عدل سے فیصلہ فرمائے گا۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ چنانچہ دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے:

۴۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ: وہ عزیز بالادست ہے۔ اس کا فیصلہ کوئی رد نہیں کر سکتا اور اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے۔ وہ علیم ہے۔ اپنے فیصلے میں لغزش نہیں کرتا ہے۔

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّكَ ۷۹۔ لہذا آپ اللہ پر بھروسہ کریں، یقیناً آپ
عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٤٩﴾ صریح حق پر ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ: اے رسول ﷺ! آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور استقامت کے ساتھ رہیں۔ استقامت کے لیے دو بنیادوں کا ذکر ہے: ایک یہ کہ اس کائنات میں طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی پر اپنا بھروسہ قائم رکھیں۔

۲۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ: دوسری یہ کہ آپ صریح حق پر ہیں۔ حق کو دوام حاصل ہے اور باطل ذوال
پذیر ہے۔ حق امر واقع کو کہتے ہیں۔ جو موقف واقعیت رکھتا ہے وہ ایک عظیم طاقت رکھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان مروی ہے:

مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صَرَعهٗ۔
 ۳۔ الْمُبِينِ: وہ واضح بات جس میں شبہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حق جب آشکار ہوگا تو یہ حق زیادہ طاقتور ہوگا۔

اس میں رسول کریم ﷺ کے لیے حتمی کامیابی کی خوشخبری ہے۔

اہم نکات

- ۱۔ حق کی طاقت شکست پذیر نہیں ہے۔
- ۲۔ حق کے حصول کے بعد اللہ پر توکل کیا جائے۔

۸۰۔ آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں، نہ ہی بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھر کر جا رہے ہوں۔

۱۔ اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِي: یہاں اسماع (سنانا) سے مراد ہدایت ہے۔ آپ ان لوگوں کو راہ راست پر نہیں لا سکتے جن میں زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ ان میں وہ سوجھ بوجھ نہیں ہے جو کسی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی مفہوم کی طرف اس آیت میں بھی اشارہ ہے:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ
 لَا يَبْصُرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اُذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ
 بِهَا اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ... ۱

لہذا یہاں الْمَوْتِي استعارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور الْمَوْتِي (مرنے والوں) سے مراد حقیقی مردے نہیں ہیں کہ اس سے استدلال کیا جاسکے کہ مردوں سے خطاب درست نہیں ہے لہذا صحیح مسلم کی اس حدیث: ما انتم باسمع لما اقول منهم۔ تم زندہ لوگ ان مردوں سے زیادہ میری بات سننے والے نہیں ہو، کا اس آیت سے کوئی تصادم نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔

۲۔ وَلَا تَسْمَعُ الضَّمَّةَ الدُّعَاءَ: نہ ہی آپ بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہیں۔ الضَّمَّةَ (بہرے) بھی استعارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کی آواز پر کان دھرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔

بہرے سے مراد حقیقی بہرے نہیں ہیں۔ چنانچہ اِذَا وُلُّوْا مُدْبِرِيْنَ: (جب وہ پیٹھ پھر کر جا رہے ہوں) اس بات پر دلیل ہے کہ یہ لوگ حق کی آواز سننے پر آمادہ ہی نہیں ہیں۔

اہم نکات

- ۱۔ اللہ کی رحمت و ہدایت ان لوگوں کو شامل نہیں کرتی جو اس کے اہل نہیں ہیں۔
- ۲۔ حق کی آواز پر کان نہ دھرنے والے زندہ شمار نہیں ہوتے۔

۸۱۔ اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ ان لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں۔

وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُصَىٰ عَنْ ضَلَّتْهُمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۱﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُصَىٰ: جن لوگوں میں بینش کی صلاحیت نہیں ہے انہیں آپ راستہ دکھا کر ان کو گمراہی سے نہیں بچا سکتے۔

ان آیات میں فرمایا: آپ مردوں، بہروں اور اندھوں کو راہ راست پر نہیں لا سکتے کیونکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اہلیت کا نہ ہونا خود ان لوگوں کی اپنی ہٹ دھرمی اور سرکشی کی وجہ سے ہے۔ اس ہٹ دھرمی کے پیچھے کچھ لوگوں میں اور عوامل ہوتے ہیں۔ وہ عوامل ان سرکشوں میں سے بڑوں کے مفادات ہیں:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَقُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْنَاكُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿۱﴾

اور ہم نے کسی بستی کی طرف کسی تنبیہ کرنے والے کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے مراعات یافتہ لوگ کہتے تھے: جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔

یہ مفاد پرست لوگ دیگر لوگوں کو حق کی مخالفت پر اکساتے تھے:

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُّوا السَّبِيلَا ﴿۲﴾

اور وہ کہیں گے: ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔

۲۔ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا: یہاں آیات سے مراد دلائل ہیں۔ جو لوگ دلائل کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر حق کی آواز اثر کرتی ہے۔

۲۔ فَهَهُمْ مُسْلِمُونَ: دلائل سمجھنے اور حق کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنی سرکشی پر قائم نہیں رہتے بلکہ ان آیات و دلائل کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔

۸۲۔ اور جب ان پر وعدہ (عذاب) پورا ہونے والا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے پھرنے والا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ درحقیقت لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۸۷﴾

۱۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَفُتِنُوا فَمَن لَّا يَرْجُ الْآخِرَ لَدَيْنَا مَن لَّا يَسْتَعِينُ ﴿۸۸﴾

۲۔ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ: ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے پھرنے والا نکالیں گے۔ دَابَّةً کے لغوی معنی چلنے پھرنے والے کے ہیں۔ انسان اور حیوان دونوں شامل ہیں یا أَخْرَجْنَا زَمِينَ سے نکالنے سے مراد ہو سکتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہو یا بطور معجزہ کسی جاندار کو زمین سے نکالنا ہو۔ واضح رہے اس آیت میں دَابَّةً اور أَخْرَجْنَا۔ دونوں لفظوں میں ایسا اجمال ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مطلب کو اجمال میں رکھنا چاہتا ہے۔

۲۔ تُكَلِّمُهُمْ: یہ دَابَّةً ان سے بات کرے گا۔ یہ قرینہ بن سکتا ہے کہ یہ دَابَّةً کوئی انسان ہے لیکن ساتھ یہ امکان بھی ہے کہ اس دَابَّةً کا بات کرنا ایک معجزے کے طور پر ہو۔ پھر آگے وہ بات کیا ہو گی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اجمال میں رکھنا ہی منظور الہی ہے۔

یہ بات بھی قاری کی نظر میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا جو انتظام فرمایا اس میں سے ایک یہی اجمال و ابہام ہے اور قرآن کا ذو وجہ ہونا ہے۔ ہم نے مقدمہ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قرآن نے صرف اصول و کلیات ہی بیان کیے ہیں اور تفسیر و تشریح کا کام سنت پر چھوڑ دیا ہے۔ آیہ مبالغہ میں أَبْنَاءَنَا اور نِسَاءَنَا کی تشریح سنت نے کی ہے۔ إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۚ اور الشَّجَرَةُ الْمَلْحُوتَةُ ۚ سے کون مراد ہیں؟ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ صرف ابولہب کا نام صراحتاً

ذکر ہوا ہے چونکہ مستقبل میں رسول کے خاندان کی طرف سے کسی تحریف کا خطرہ نہیں تھا۔
 ۳۔ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ: بعض کے نزدیک یہی وہ کلام ہے جو یہ دَابَّةٌ کرے گا۔ مجمع البیان کے نزدیک ظاہر آیت یہی ہے لیکن یہ دابہ کا کلام ہونا اور اس کا ظاہر آیت ہونا اکثر مفسرین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے بلکہ اس بات کے سبب کا بیان ہے کہ ان کے بارے وعدہ عذاب کیسے پورا ہوا۔ وعدہ عذاب اس لیے پورا ہوا کہ وہ آیات الہی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔
 دَابَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ کون ہیں؟: غیر شیعہ مفسرین میں اس دَابَّةٌ کے بارے میں جو نام مقبول خرافاتی باتیں منقول ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت کے راستے سے پھسلنے کے بعد کیسے گہری کھائی میں گرتے ہیں۔ کہتے ہیں:

اس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی۔ اس کے بال اور سم ہوگا اور ساتھ داڑھی ہوگی۔ اس کا سر بیل کے سر کی طرح، آنکھ سور کی آنکھوں کی طرح، کان ہاتھی کی طرح، اس کے سینگ ہرنی کی طرح، اس کی گردن شتر مرغ کی طرح، اس کا سینہ شیر کی طرح، اس کا رنگ چیتے کی طرح، اس کی دم دنبے کی طرح، ٹانگیں اونٹ کی طرح ہوں گی۔ چہرہ انسان کی طرح ہوگا۔ پرندے کی طرح چونچ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے دونوں سینگوں کا درمیانی فاصلہ ایک فرسخ ہوگا۔

اس کے مقابلے میں دیگر روایات میں اس دَابَّةٌ کے بارے میں آیا ہے: حضرت علی علیہ السلام سے اس دَابَّةٌ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا:
 اما واللہ ما لها ذنب و ان لها قسم بخدا اس کی کوئی دم نہ ہوگی، اس کی تو داڑھی ہو للہیۃ۔^۱
 دیگر حدیث رسول میں آیا ہے:

انہا تکتب علی جبین الکافر انہ کافر
 و علی جبین المؤمن انہ مؤمن۔^۲
 تخرج دابة الارض و معها عصا
 موسی و خاتم سلیمان علیہما السلام
 فتخطم انف الکافر بالعصا و تحلی
 وجه المؤمن بالخاتم۔^۳
 دَابَّةٌ کا خروج قیامت سے پہلے ہوگا۔

یہ دَابَّةٌ کافر کے رخسار پر لکھے گا یہ کافر ہے اور
 مؤمن کے رخسار پر لکھے گا یہ مؤمن ہے۔
 دابة الارض زمین سے نکلے گا ان کے ساتھ موسیٰ
 کا عصا اور سلیمان کی انگوٹھی ہوگی وہ عصا سے کافر
 کی ناک کاٹے گا اور انگوٹھی سے مؤمن کا چہرہ چمکا
 دے گا۔

۱۔ التبیان ۸: ۱۲۰

۲۔ الدر المنثور ۵: ۱۱۷، تفسیر ابن کثیر ۶: ۱۹۳، ۲۔ بحار ۶: ۳۰۰

۳۔ مسند احمد ۲: ۲۵۹-۲۶۱، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن

رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے۔ اس حدیث کو مسلم اور اصحاب سنن نے ذکر کیا ہے:
لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: جب تک دس نشانیوں کا مشاہدہ نہ کرو گے قیامت
طلوع الشمس من مغربها، والدخان برپا نہ ہوگی۔ مغرب سے سورج کا طلوع، دھواں
و الدابة... اور دَابَّةٌ...۔

حذیفہ بن الیمانؓ کی روایت کے مطابق رسول اللہؐ سے پوچھا گیا: یہ دَابَّةٌ کہاں سے نکلے گا؟

فرمایا:

تخرج من اعظم المساجد حرمة
على الله بينما عيسى يطوف بالبيت
و معه المسلمون۔^۱
یہ دَابَّةٌ اللہ کے نزدیک حرمت کے اعتبار سے
سب سے عظیم مسجد سے نکلے گا جب عیسیٰ خانہ کعبہ کا
طواف کر رہے ہوں گے اور مسلمان ان کے ساتھ
ہوں گے۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَاهُمْ
يُوزَعُونَ ﴿۱۲﴾
۸۳۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک
جماعت کو جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا
کرتی تھیں پھر انہیں روک دیا جائے گا۔

تفسیر آیات

آیت کے ظاہری سیاق سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیامت سے قبل کا واقعہ ہے کیونکہ قیامت
کے دن سب کو جمع کیا جانا ہے:

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝^۱
اور سب کو ہم جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو
بھی نہیں چھوڑیں گے۔

جب کہ اس آیت میں ہر امت میں سے ایک جماعت کو جمع کرنے کا ذکر ہے۔

اس آیت کی دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں: یہ قیامت کا ہی واقعہ ہے اور وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ
أُمَّةٍ فَوْجًا اس دن ہم ہر امت کو فوج فوج کر کے جمع کریں گے۔

تیسری تفسیر میں کہتے ہیں: ہر نبی کی امت میں تصدیق اور تکذیب کرنے والے سب شامل ہیں۔
اس آیت میں فرمایا: ہر امت میں سے تکذیب کرنے والوں کو جمع کیا جائے گا یا یہ کہ ان کے سرداروں کو جمع
کیا جائے گا۔ اس تفسیر کے مطابق من زائدہ نہیں ہے اور واقعہ قیامت کا ہے۔

پہلی تفسیر کے مطابق اس آیت سے رجعت پر استدلال کیا جاتا ہے کہ ظہور مہدی علیہ السلام کے موقع پر دشمنان اہل بیت میں سے صف اول کے لوگوں کو انتقام اور صف اول کے مومنوں کو حکومت مہدی میں شرکت کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں شیعہ مصادر میں روایات کثرت سے موجود ہیں۔ علمائے شیعہ کی ایک جماعت نے رجعت کے بارے میں وارد روایات کی تاویل کی ہے کہ رجعت سے مراد آل محمد کی حکومت کی رجعت ہے، افراد و اشخاص کی نہیں۔ ملاحظہ ہو مجمع البیان ذیل آیت۔ صاحب المیزان کے نزدیک ظاہر آیت سے یہ حشر، قیامت سے پہلے ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ تاہم آیت اس مفہوم پر نص صریح نہیں ہے۔ تاویل ہو سکتی ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ وَقَالَ أَكْذَبْتُمْ ۖ
بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا ۖ
أَمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾

۸۴۔ جب سب آ جائیں گے تو (اللہ) فرمائے گا: کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا؟ جب کہ ابھی تم انہیں اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے اور تم کیا کچھ کرتے تھے؟

تفسیر آیات

۱۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ: جب سب لوگ آگئے چونکہ باقی لوگوں کو روک لیا تھا، یہ يُؤَدُّعُونَ سے مربوط ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یہ خطاب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ آیت میں، رجعت کی صورت میں آیات سے مراد اہل بیت اور انبیاءؑ ہو سکتے ہیں۔ تکذیب سے مراد ان کی طرف سے قائم کردہ دلائل کی تکذیب ہو سکتی ہے۔ رجعت مراد نہ ہونے کی صورت میں انبیاء علیہم السلام کی طرف سے پیش کردہ معجزات ہو سکتے ہیں۔

۲۔ وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا: یہ تکذیب ان لوگوں نے کسی علم اور سند کی بنیاد پر نہیں کی۔ ظاہر ہے کسی علم کے بغیر نہ اسے رد کرنا درست ہے، نہ قبول کرنا۔ علم کے بغیر رد کرنا عناد اور قبول کرنا اندھی تقلید ہے۔

۳۔ أَمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: جو کام کرنے کا تھا وہ تحقیق وجستجو تھا۔ پھر اس کے بارے میں علم حاصل کرنا تھا۔ یہ کام تو تم نے کیا نہیں۔ آگے تم نے جو کام کیا ہے وہ تکذیب ہی ہے۔

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا ۖ
فَهُمْ لَا يَتُوبُونَ ﴿۸۵﴾

۸۵۔ اور ان کے ظلم کی وجہ سے بات ان کے خلاف پوری ہو کر رہے گی اور وہ بول نہیں سکیں گے۔

تفسیر آیات

۱۔ ان پر وعدہ عذاب پورا ہو گیا۔ اس آیت شریفہ میں وَقَعَ الْقَوْلُ کا مطلب وہی ہوگا جو آیت ۸۲

میں وَقَعَ الْقَوْلُ کا مطلب ہے۔ وہاں وَقَعَ الْقَوْلُ کا مطلب وعدہ عذاب کا حتمی ہونا تھا، خود عذاب نہیں۔ لہذا اس آیت میں بھی وَقَعَ الْقَوْلُ سے مراد وعدہ عذاب کا حتمی ہونا ہے، خود عذاب نہیں ہے کہ قیامت کا دن مراد لیا جائے۔

۲۔ بِمَا ظَلَمْتُمْ: یہ وعدہ عذاب کا حتمی ہونا، آیات الہی کی تکذیب کی صورت میں ہونے والے ارتکاب ظلم کی وجہ سے ہے۔

۳۔ فَهُمْ لَا يَتُوبُونَ: ان تکذیبی عناصر کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا جسے وہ پیش کر سکیں۔

۸۶۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات
اس لیے بنائی کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں
اور دن کو روشن بنایا؟ ایمان لانے والوں کے
لیے اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ
لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿۸۶﴾

تفسیر آیات

ان تکذیبی عناصر سے ہے کہ اگر کائنات میں موجود نظام و حکمت میں یہ غور کرتے تو دابة الارض جیسے معجزے کا ذریعہ استعمال کرنے کی نوبت نہ آتی۔ روز و شب کی آمد و رفت میں روئے زمین پر حیات و زندگی کی بقا و ارتقا کا جو کردار ہے وہ کسی عاقل سے پوشیدہ نہیں ہے، صرف ان میں فکر اور تدبیر کے اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں فرق ہے۔ اہل ایمان اس حکمت آمیز نظام سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ اسے روز کا معمول گردانتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔

۸۷۔ اور جس روز صور میں پھونک ماری جائے گی
تو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات خوفزدہ ہو
جائیں گی سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ چاہے
اور سب نہایت عاجزی کے ساتھ اس کے حضور
پیش ہوں گے۔

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرِعَ مَنْ
فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۗ وَكُلٌّ أَتَوْهُ
دُخِرِينَ ﴿۸۷﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ: قیامت سے پہلے کے واقعات کے بعد خود قیامت کا ذکر اس آیت سے

شروع ہوتا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات میں صور پھونکنے کا ذکر ہے۔ صور میں دو مرتبہ پھونک ماری جائے گی:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَحَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ١٠

اور (جب) صور میں میں پھونک ماری جائے گی تو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب بیہوش ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے، پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی تو اتنے میں وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔

پہلی پھونک سے آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات مر جائیں گی اور دوسری پھونک سے سب زندہ ہو جائیں گی۔ اس آیہ شریفہ میں فزع قرینہ بن سکتا ہے کہ یہ پہلی پھونک ہے اور وَكُلُّ أُمَّةٍ لَدُنَّيْنَا كَمَا كَانَتْ تَعْمَلُ لَمْ يَلَمْسْ لَكَ كَلِمَةٌ إِلَّا لِيُخْرِجَنَّكَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مِمَّنْ لَا يَلْمِزُكَ فِي شَيْءٍ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۗ وَمَنْ يَلْمِزْكَ فِي شَيْءٍ فَقَدْ أَلَمَّ بِمَا يَلْمِزُكَ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۗ

ہے جو قرینہ بن جاتا ہے کہ دوسری پھونک ہے لیکن میرے نزدیک دوسری پھونک کے لیے قرینہ نہیں بن سکتا چونکہ موت آنے کو بھی اَتَوَهُ اللّٰهُ کے حضور پیش ہونے کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ جیسے کلمہ استرجاع میں کسی کی موت کے موقع پر اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ کہتے ہیں۔ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَذَلِكُمُ الَّذِي تَبْتَغُونَ عَنِ اللَّهِ عَمَلًا لَّيْسَ لَهُ ثَمَرٌ ۗ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ۗ

۲۔ اَلَا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ: بعض ایسی ہستیاں ہوں گی جو صور پھونکنے کی وجہ سے خوفزدہ نہ ہوں گی۔

چنانچہ اگلی آیت ۸۹ میں صراحت موجود ہے: مَن فَرَجَ يَوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ۔

۳۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ لَدُنَّيْنَا: یہ خوف اس قدر ہولناک ہو گا کہ سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ یعنی اسی ایک پھونک سے خوفزدہ ہوں گے اور موت بھی واقع ہو جائے گی۔ کیا ایک صور پھونکنے سے خوف زدگی اور موت واقع ہوگی؟ یا دو صور ہیں۔ ایک سے خوف زدہ دوسرے سے موت واقع ہوگی؟

ہمارے نزدیک فزع سے مراد موت یعنی موت کا فزع ہے۔ جیسا کہ سورہ سبأ: ۵۱ میں فرمایا:

وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فَرَغُوْا فَلَافُوْتَ وَاخْذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝

اور کاش! آپ دیکھ لیتے کہ جب یہ پریشان حال ہوں گے تو بیچ نہ سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔

۸۸۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ساکن ہیں جب کہ (اس وقت) یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، یہ سب اس اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو پختگی سے بنایا ہے، وہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمْرٌ مَّرَّ السَّحَابِ ۖ صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِيۡ اَتَقَنَ كُلَّ شَيْۡءٍ ۗ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۸۸﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً: اس آیت میں کیا قیامت کے دن کا ذکر ہے یا زمین کی حرکت کی طرف اشارہ ہے؟ سیاق آیت بتاتا ہے کہ قیامت سے مربوط ہے کہ صور پھونکنے کے بعد ایک کائناتی انقلاب آئے گا جس میں پہاڑ جو ابھی آپ کو ساکن آنظر رہے ہیں، بادل کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا:

وَسَيَرَى الْجِبَالَ فَكَأَنَّهُمْ سَرَابٌ ۝۱۰ اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے۔

۲۔ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ: یہ کائناتی انقلاب، یہ تخریب و تعمیر اللہ تعالیٰ کی صنعت کاملہ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے مضبوط اور مستحکم طریقہ تخلیق و ارتقا کا ایک مرحلہ ہے۔ أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کی تخلیق میں انضباط و استواری رکھی ہے۔ کائنات کا یہ انقلاب اسی انضباط کا حصہ ہے۔ نئی کائنات کی تعمیر کے لیے پرانی کائنات کا ملبہ ہٹانا اسی صنعت کاملہ کا تقاضا ہے۔

۳۔ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ: نفخ صور اور قیام قیامت کا منظر پیش فرمانے کے بعد زمان نزول قرآن سے لے کر تا قیام قیامت کے لوگوں کے لیے خطاب فرمایا: اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ اگر یہ آیت قیامت سے مربوط ہوتی تو بما فعلتم کہتے۔ بعض حضرات نے پوری شد و مد سے اس آیت سے حرکت زمین پر استدلال کیا ہے اور کہتے ہیں جبال کہہ کر پورا کرہ ارض مراد لیا گیا ہے۔

اہم نکات

۱۔ قیامت ایک تخریب برائے تعمیر، ایک انقلاب برائے ارتقاء ہے۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ ۸۹۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے
مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فِرْعَاقِ يَوْمِئِذٍ
أَمُّونٌ ﴿۸۹﴾
بہتر اجر ملے گا اور وہ اس دن کی ہولناکیوں سے
امن میں ہوں گے۔

تفسیر آیات

۱۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ: ایسی نیکی کا ذکر معلوم ہوتا ہے جو نجات کے لیے بنیاد ہے۔ ایسی جامع نیکی جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے چونکہ اس نیکی کی وجہ سے وہ قیامت کی ہولناکیوں سے امان میں ہوگا۔ یہ اس

نیکی کی طرح نہیں ہے جس کا ذکر مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا... میں آیا ہے۔ وہاں نیکی برائے ثواب کا ذکر ہے۔ یہاں نیکی برائے نجات کا ذکر ہے۔

اسی لیے اس نیکی کے بارے میں بعض روایات میں آیا ہے: یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور بعض دیگر مصادر میں آیا ہے اس سے مراد ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بعض دیگر شیعہ مصادر میں آیا ہے کہ اس نیکی سے مراد اللہ کی محبت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک کی روایت اسی مضمون پر مشتمل ہے۔

المیزان ولایت علی علیہ السلام کی تفسیر محبت خدا سے کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی ولایت کا مطلب فنا فی اللہ ہے اور سب سے پہلے فنا فی اللہ کا دروازہ کھولنے والی ذات علی علیہ السلام کی ہے۔

۲۔ فَلَهُ حَيْرٌ مِّنْهَا اگر ہم نیکی کی تفسیر حب اللہ اور فنا فی اللہ سے کرتے ہیں تو اس جملے کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ حب اللہ کا نتیجہ رضائے رب ہے جو سب سے بہتر ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ... اللہ کی طرف سے خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے۔

۳۔ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَ يُؤْمِرُ الْمُؤْمِنُونَ یعنی اس جامع حسنہ کے حامل لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے امن میں رہیں گے۔ جیسے فرمایا:

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ... ۳ انہیں قیامت کے بڑے خوفناک حالات بھی خوفزدہ نہیں کریں گے۔

اہم نکات

۱۔ انسان کو اس نیکی کے درپے ہونا چاہیے جو نجات کی ضامن ہے۔

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ
وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ
تُجْرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑤

۹۰۔ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا پس انہیں
اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا، کیا
تمہیں اپنے کیے کے علاوہ کوئی اور جزا مل سکتی ہے؟

تفسیر آیات

اس سیئۃ (برائی) سے مراد ایک ایسی برائی ہے جو تمام برائیوں کی آماجگاہ ہے جیسے شرک۔ یعنی جو شرک، جس کے ساتھ کوئی نیکی وجود میں نہیں آسکتی، جیسی برائی لے کر آتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا اسے اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

۱۔ انعام: ۱۶۰ (ترجمہ) جو اللہ کے پاس) ایک نیکی لے کر آنے کا اسے دس گنا (اجر) ملے گا۔
۲۔ توبہ: ۷۲
۳۔ انبیاء: ۱۰۳

ان دو آیات کی ایک اور تفسیر بھی ہے جو سابقہ تفسیر کے ساتھ متضاد نہیں ہے: یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو صرف حسنہ یا صرف سیئہ برائیاں لے کر آتے ہیں۔ ان کا حسنہ غالب ہے یا دوسرے لوگوں کا سیئہ (برائی) غالب ہے:

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ
خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۝۱

البتہ جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس
پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں، جس
میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

لیکن جن کے اعمال میں حسنہ اور سیئہ، نیکی اور برائی دونوں کس ہوں ان کی نجات سے مایوس نہیں ہونا
چاہیے۔ فرمایا:

وَأَخْرُوجُ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا
عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ
أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝۲

اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف
کیا انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے برے عمل کو
مخلوط کیا، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک
اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

اہم نکات

۱۔ مؤمن ہوشیار ہوتا ہے۔ اس برائی سے بچنا چاہیے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

۹۱۔ (اے رسول! آپ یہ کہیں) مجھے حکم دیا گیا
ہے کہ میں اس شہر (مکہ) کے رب کی بندگی
کروں جس نے اسے محترم بنایا اور ہر چیز اسی
کی ملکیت ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں
فرمانبرداروں میں سے رہوں۔

إِنَّمَا أَمْرٌ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ
الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ
شَيْءٍ وَأَمْرٌ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ۝۱۱

تفسیر آیات

۱۔ إِنَّمَا أَمْرٌ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ: مشرکین، شہر مکہ کی حرمت کے قائل تھے اور اس گھر کی حرمت کی
بنیاد پر وہ عربوں پر اپنی بالادستی قائم رکھتے تھے لیکن جس ذات نے اس شہر اور اس گھر کو یہ حرمت دی اس کی
وحدانیت کے قائل نہ تھے۔ رسول ﷺ کو حکم ہوا کہ اس عقیدے کی تائید کریں کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی
عبادت کرتا ہوں۔ اسی رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے اس شہر کو محترم بنایا۔

۲۔ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ: وہ صرف اسی شہر مکہ کا مالک نہیں ہے جیسا کہ مشرکین اپنے ارباب کو کسی خاص شعبے کے ساتھ محدود کرتے ہیں بلکہ میرا رب ہر شئی کا مالک ہے۔ وہ کل کائنات کا واحد مالک ہے۔

۳۔ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کے ہر حکم اور اشارے کو تسلیم کروں اور اس حکم کی تعمیل کروں۔

۹۲۔ اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں اس کے بعد جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے لیے ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہی میں چلا جائے اسے کہہ دیجیے: میں تو بس تنبیہ کرنے والا ہوں۔

وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَىٰ
فَأَلَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ
فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۹۲﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ: اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ کلام اللہ کی شیرینی اور حلاوت تمہارے ذائقہ فطرت کو چکھا دوں چونکہ تلاوت ہی وہ موثر ذریعہ تھا جس کے سامنے بڑے بڑے رعوت والے رام ہو جاتے تھے۔

۲۔ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَمَا لَمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ: اس کلام کی حلاوت چکھنے کے بعد اسے اپنانے، اپنے لیے راہنما بنانے کا مثبت نتیجہ خود اس شخص کو ملے گا، مجھے نہیں۔

۳۔ وَمَنْ ضَلَّ: جو اس حلاوت کے چکھنے کے بعد بھی اپنی تلخی شرک پر قائم رہتا ہے اسے ایمان پر مجبور نہیں کرتا ہوں۔ بس میرا کام تنبیہ کرنا، شرک و کفر کے انجام بد سے باخبر کرنا ہے۔

۹۳۔ اور کہہ دیجیے: ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے، عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے اور آپ کا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبِّحْكُمْ آيَاتِهِ
فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ: اے رسول ﷺ جو نبوت و رسالت کا مقام آپ کو عنایت ہوا ہے، آپ کے ہاتھ حق و باطل میں امتیاز ہوا اور بہت سے لوگ راہ راست پر آگئے، اس پر اللہ کی حمد و ستائش کریں۔

- ۲۔ سَيَّرِيكُمْ إِلَيْهِ فَتَعْرِفُونَهَا: اللہ مستقبل میں اپنی آیات اس طرح دکھائے گا کہ تم انکار نہ کر سکو گے جیسے خروج دابہ لیکن اس عدم انکار کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔
- سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے اِیْتِه سے مراد اس قسم کی آیات ہوں گی جو ناقابل انکار ہوں گی۔ فَتَعْرِفُونَهَا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات و معجزات کے سامنے آنے کے بعد ان کی معجزاتی صورت واضح ہو جائے گی۔ سائنسی طور پر نشانیاں روز سامنے آرہی ہیں اور آتی رہے گی لیکن انہیں دیکھ کر لوگ فَتَعْرِفُونَهَا کی منزل تک نہیں پہنچ رہے ہیں بلکہ وہ اس کی دوسری توجیہات کرتے ہیں۔
- ۳۔ وَمَا رَبُّكَ بِخَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ: تم جن جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو اس کا فوری رد عمل نہ ہونے کا یہ مطلب نہ سمجھو کہ اللہ کو تمہارے ان جرائم کی خبر نہیں ہے۔



خالی



سُورَةُ الْقَصَصِ

خالی



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس سورۃ المبارکۃ کا نام القصص اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت ۲۵ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا سارا قصہ سنانے کا ذکر آیا ہے:

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ... جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا۔

احادیث میں اس سورۃ کا نام طسم القصب بھی ذکر ہوا ہے اور اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں

سورہ ہائے شعراء، نمل اور قصص کو الطوسین الثلاث کا نام دیا گیا ہے۔

یہ سورۃ کی ہے البتہ بعض مفسرین کہتے ہیں: آیات ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵ مدنی ہیں اور آیۃ

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ... (۸۵) کے بارے میں کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام

جحفہ پر نازل ہوئی ہے۔

مضامین: اس سورۃ المبارکۃ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے اور ان مراحل و

امتحانات کا بھی ذکر ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزارا گیا۔ ان صعوبات و مشکلات کا ذکر ہے جن سے

حضرت موسیٰ علیہ السلام دوچار رہے چونکہ جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی اس وقت رسول اللہ ﷺ بھی بہت سی

صعوبتوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس سورۃ میں واضح طور پر بتایا کہ اپنے زمانے کے فرعون جیسے بڑے

طاغوت کو کس طرح ذلت آمیز شکست دی اور موسیٰ علیہ السلام جیسے بے سروسامان کو فتح و نصرت عنایت کی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ طا، سین، میم۔

طسّم ①

طا، سین، میم۔ حروف مقطعات ہیں جو اپنے حبیب کے ساتھ راز و رموز سے متعلق ہیں۔ ان کا

تعلق امت قرآن سے نہیں، صرف حامل قرآن سے ہے۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ①

۲۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔

اس آیت کی تشریح سورہ یوسف اور سورہ شعراء میں ہو چکی ہے۔

نَتَّلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبِيِّمُوسَىٰ وَ
فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

۳۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اہل ایمان کے لیے حقیقت کے مطابق سناتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ نَتَّلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبِيِّمُوسَىٰ: ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سناتے ہیں جس میں درس ہے، عبرت ہے، نوید ہے، سنت تاریخ کا فہم اور قوموں کے زوال و عروج کے اسباق ہیں۔
۲۔ بِالْحَقِّ: یہ قصہ حق اور واقعیت پر مبنی ہے۔ خود ساختہ داستانوں کی طرح نہیں ہے چونکہ واقعہ منشاء آثار ہوتے ہیں اور حق پر مبنی واقعات درس آموز ہوتے ہیں۔
۳۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ: یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے سناتے ہیں چونکہ اس سے درس لینے والے وہی ایمان والے ہوں گے جو فراعنہ قریش کے مقابلے میں کمزور طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں جو تقریباً ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جن سے بنی اسرائیل گزر رہے تھے۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ
جَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضَعِفُ
طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّبِعُ أَبْنَاءَ
وَيَسْتَخْبِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ
مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣١﴾

۴۔ فرعون نے زمین میں سر اٹھا رکھا تھا اور اس کے باسیوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے بے بس کر رکھا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور وہ یقیناً فساد یوں میں سے تھا۔

تفسیر آیات

۱۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ: فرعون ارض مصر میں اس قدر جابر اور طاغوت بن گیا تھا کہ طاقت کے استعمال کے ساتھ اپنے رعایا کا مذہبی استحصال بھی کرتا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا، رب اور معبود کا نمائندہ ہونے کے اعتبار سے معبود سمجھتا تھا۔
۲۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا: فرعونی معاشرے میں مصر کے شہری دونسلوں میں منقسم تھے۔ اقباط اور اسباط۔ مقامی اور حاکم لوگوں کو اقباط اور مہاجر لوگوں کو جو بنی اسرائیلی تھے، اسباط کہتے تھے جو دوسرے نمبر کے شہری شمار ہوتے تھے۔

۳۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ: جس گروہ کو بے بس کر دیا تھا وہ بنی اسرائیل تھے۔ ان کی بیٹیوں کو وہ ذبح کرتے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔

بائبل کے مطابق فرعون بنی اسرائیل کا مخالف اس لیے ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی سے گھبرا گیا اور اسے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر جنگ چھڑ جائے تو یہ لوگ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں گے۔ اس لیے بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نجومیوں نے پیشگوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا مگر اس روایت کا ماخذ اسرائیلی روایت ہے۔

۴۔ نِسَاءَهُمْ: بعض اہل تحقیق کے مطابق نساء کا لفظ جب انباء کے مقابلے میں آتا ہے تو اس سے مراد بیٹیاں ہیں جیسے اس آیت میں نساء سے مراد بیٹیاں ہیں، عورت نہیں۔

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝

۵۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور ہم انہی کو وارث بنائیں۔

وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝

۶۔ اور ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں اور ان کے ذریعے ہم فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔

تفسیر آیات

۱۔ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا: یہاں ارادہ نکوینی ہے جو حتمی الوقوع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی قانون ہے جو لوگ برائے خدا ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے ہیں ان پر اللہ احسان ضرور کرے گا۔ ان تمام مظلوم قوموں کے لیے یہ ایک عظیم بشارت ہے جو عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا اور ظلم و جور کا خاتمہ چاہتی ہیں۔ آگے اس احسان کی نوعیت کا ذکر ہے:

۲۔ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً: انہیں اللہ انسانوں کی قیادت کا عہدہ عنایت فرمائے گا۔ امامت، دینی راہنمائی کا مقام ہے: وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً يَّهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا... یہ خواہ ان کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو۔

۱۲۱ انبیاء: ۷۳ (ترجمہ) اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے۔

۳۔ وَ نَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ: ہم ان مظلوم لوگوں کو وارث بنا نہیں گے۔ جانے والے کی جگہ لینے والے کو وارث کہتے ہیں۔ یہ وعدہ اگرچہ نزول کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے لیے ہے لیکن لفظی عمومیت کے اعتبار سے اس وعدہ کی تطبیق مختلف قوموں پر ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝^۱
بے شک یہ سرزمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے ہے۔

دوسری آیت میں فرمایا:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝^۲
اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔

چنانچہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کنعانیوں، آموریوں اور ارامیوں کا وارث بنایا جب کہ ان اقوام میں اپنے اپنے زمانے میں بڑے جابر لوگ تھے۔

۳۔ وَتَمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ: ہم ان مظلوموں کو زمین پر اقتدار دیں گے۔ تمکین، کسی جگہ قدرت و استقرار کے ساتھ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔

۴۔ وَتَرَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ: اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر کو اسی ذلت و خواری میں مبتلا کریں گے جس کا انہیں خوف تھا۔ فرعون و ہامان جیسے لوگوں کو تخت و تاج سے محروم کریں گے۔

الف: فرعون: قدیم نقوش سے بڑے ایوان کی تصویر سامنے آتی ہے جس میں بیٹھ کر مصر کا بادشاہ فیصلے اور احکام صادر کرتا ہے۔ اس میں دیوانہائے حکومت کا اجتماع ہوتا تھا۔ چنانچہ اس بڑے ایوان کو مصری پیرو کہتے تھے جس کا یہود نے فرعون یا فرعون کے ساتھ ترجمہ کیا اور بادشاہ کا لقب بھی اسی سے مشتق ہو گیا۔^۳

ب: ہامان۔ جو (آمن) کا معرب ہے اس نام کی تاریخ بھی فرعون کے نام ہی کی طرح ہے۔ مصر کے سب سے بڑے دیوتا کا نام آمن تھا۔ اس دیوتا کے عبادت خانہ کے متولی (کاہن) کا نام آمن پڑ گیا۔ چنانچہ تاریخ میں آیا ہے:

معبد آمن کے بڑے کاہن کا نام بھی آمن پڑ گیا جس نے سلسلہ شاہان مصر کے انیسویں خاندان کے دور سے بہت اہمیت حاصل کر لی تھی۔ یہاں تک کہ وہ دریائے نیل کے بالائی علاقوں پر مسلط ہو گیا اور افواج کی سربراہی اور شہنشاہی خزانے کے انچارج کا عہدہ حاصل کیا اور تمام عبادتگاہوں کے نگران اعلیٰ کے منصب پر بھی فائز ہو گیا۔^۴

واضح رہے عربی اور عبری تلفظ کے فرق کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً عبری تلفظ ابراہم، عمرام، موشی اور یسوع کا عربی تلفظ ابراہیم، عمران، موسیٰ اور عیسیٰ ہے اور آج بھی بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک لفظ دوسری زبان میں جا کر تلفظ کی دوسری شکل اختیار کرتا ہے۔ لہذا یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے کہ ہامان نام کا مصر میں کوئی شخص تھا ہی نہیں۔ یہ تو کسی ایرانی بادشاہ کے ایک درباری کا نام ہے اور قرآن نے غلطی سے ہامان کو مصری قرار دیا ہے۔ آئیے ہم اس بات کا مدرک دیکھتے ہیں کہ ایرانی وزیر کا نام ہامان تھا؟ اس کا مدرک و ماخذ صرف اسرائیلی روایات ہیں۔ دیگر کسی ماخذ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

عہد قدیم سفر استیر اصحاح ۳ میں آیا ہے:

ہامان بن ہمدان فارسی بادشاہ، خشایارشا جو داریوش کبیر کے بعد تخت و تاج کے مالک بنا، کا وزیر تھا۔ فرعون و موسیٰ علیہ السلام کے صدیوں بعد یہ ہامان بادشاہ کا مقرب تھا۔ بعد میں بادشاہ اس پر ناراض ہوا اور اسے سولی چڑھا دیا اور اس کی جگہ ایک یہودی مرد خای کو وزیر بنا دیا۔

حالانکہ قدیم ایرانی تاریخ میں اس نام کے کسی شخص کا ذکر نہیں ملتا۔ ملاحظہ ہو شبہات ورود صفحہ

۳۵۲

یہ صرف اس توریت کی روایت ہے جو خرافات سے پڑ ہے۔ جس میں اللہ پر کذب کا بہتان ہے۔ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ناموس کی اہانت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی کردار کشی ہے۔ اس تحریف شدہ توریت کی روایت کو قرآنی صراحت پر مقدم سمجھا جاتا ہے!! لہذا ان تاریخی شواہد کی روشنی میں دو باتیں ثابت ہیں:

اول یہ کہ ہامان (آمن) نام کا ایک فرعون، صاحب اختیار وزیر تھا۔

دوم یہ کہ ہامان نام کا ایرانی بادشاہ کا کوئی وزیر نہیں تھا اور اگر ایرانی وزیر کا نام ہامان تھا بھی تو اس قرآنی ہامان کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے۔ قرآنی ہامان، آمن کا معرب ہے اور ایرانی ہامان کا نام ہی ہامان تھا۔

علامہ حسکانی نے شواہد التنزیل میں متعدد طرق سے حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے: لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شَمَاسِهَا عَطْفَ الصُّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا... جس طرح کاٹنے والی اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔

دوسری روایات میں حضرت علیؑ اور امہؑ نے فرمایا: المستضعفين ہم ہیں۔
 جابر بن عبد اللہ انصاری راوی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 یا بنی ہاشم انتم المستضعفون اے بنی ہاشم! میرے بعد تم مستضعف (بے بس)
 المقهورون المستذلون۔^۱ مغلوب اور ناقابل احترام ہوں گے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ
 أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفتِ عَلَيْهِ
 فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا
 تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ
 جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ
 انہیں دودھ پلائیں اور جب ان کے بارے میں
 میں خوف محسوس کریں تو انہیں دریا میں ڈال
 دیں اور بالکل خوف اور رنج نہ کریں، ہم انہیں
 آپ کی طرف پلٹانے والے اور انہیں پیغمبروں
 میں سے بنانے والے ہیں۔

تشریح کلمات

الْيَمِّ: سمندر اور دریا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ: ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی۔ وحی، کلام خفی اور پوشیدہ
 اشارے کے معنوں میں ہے۔ یہ کلام خفی اگر حروف و اصوات پر مشتمل ہے تو اصطلاح میں بھی وحی کہتے ہیں
 اور اگر حروف و اصوات کے بغیر صرف معانی و مطالب ذہن میں ڈال دے جائیں تو اسے الہام کہتے ہیں۔
 اگر یہ تفہیم کسی کے تخلیقی مرحلے میں اس میں ودیعت کی گئی ہے تو اسے فطرت کہتے ہیں۔ چنانچہ وَأَوْحَىٰ
 رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ...^۲ میں یہی معنی مراد ہیں۔

مادر موسیٰ کو وحی بمعنی الہام ہوئی ہے۔ یعنی ان کے دل میں یہ باتیں ڈال دی گئیں۔
 ۲۔ أَنْ أَرْضِعِيهِ: اسے دودھ پلائیں۔ جب تک فرعون کی طرف سے خطرہ لاحق نہیں ہے اسے
 اپنے پاس رکھیں اور دودھ پلاتی رہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ حضرت موسیٰؑ کو دریا میں ڈالنے
 سے پہلے جتنی مدت ماں کے پاس رکھا گیا، وہ حکم خدا سے رکھا گیا ہے۔

۳۔ فَإِذَا خِفتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ: جب یہ خوف لاحق ہو جائے کہ فرعونوں کو اس کے بچے

کی ولادت کا علم ہو جائے گا اور وہ اسے ذبح کر دیں گے تو اس وقت اسے دریا میں ڈال دیں۔ اَنِیِّدُ سے مراد یہاں دریائے نیل ہی ہو سکتا ہے چونکہ قصر فرعون دریائے نیل کے ساحل پر واقع تھا۔ تلمود کے مطابق فرعون نے جاسوس عورتیں چھوڑ رکھی تھی جو بنی اسرائیل کے گھروں میں اپنے چھوٹے بچے لے جاتی تھیں اور ان بچوں کو رلا دیتی تھیں تاکہ اگر کوئی بچہ چھپا ہوا ہے تو وہ آوازن کر روئے اور یوں اس بچے کو حاصل کر کے قتل کروا دیں۔

۴۔ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنْ: موسیٰ کی زندگی پر خوف نہ کرو اور جدائی کا غم بھی نہ کرو۔

آنے والے خطرات کی صورت میں خوف ہوتا ہے۔ گزشتہ مصیبت پر حزن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں دونوں صورتوں کے لیے تسلی ہے۔ موسیٰ زندگی کے لیے آئندہ خطرات کا خوف نہ کرو اور دریا میں ڈالنے کے بعد جدائی کا غم نہ کرو۔ چونکہ یہ جدائی وقتی ہوگی۔

۵۔ اِنَّا رَاٰدُوْهُ الْبَلِیْتِ: ہم اس بچے کو آپ کی طرف واپس کریں گے۔ آپ بچے کو دریا میں ڈال دیں۔ بچہ آپ کو واپس ملے گا۔ اس یقین دہانی پر مادر موسیٰ کو یقین آنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس الہام کی نوعیت ایسی تھی جس سے ماں کی مامتا کو بچے کی زندگی کے بارے میں یقین آ گیا۔

۶۔ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ: ہم اس بچے کو مرسلین میں سے بنانے والے ہیں۔ اس پیشگوئی اور خوشخبری سے اندازہ ہوتا ہے کہ مادر موسیٰ کو الہام کے ذریعے ملنے والا پیغام ایک خاص نوعیت کے الہام کے ذریعہ تھا نیز یہ بھی ہو سکتا ہے بنی اسرائیل ایک نجات دہندہ رسول کے انتظار میں تھے، مادر موسیٰ کو الہام و دیگر علامات سے معلوم ہوا ہو کہ یہ وہی نبی ہیں جس کے وہ انتظار میں تھے۔

اہم نکات

۱۔ خدا پر توکل اپنے جگر گوشے کو دریا کے حوالے کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔

۸۔ چنانچہ آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا تاکہ وہ
ان کے لیے دشمن اور باعث رنج بن جائیں، یقیناً
فرعون اور ہامان اور ان دونوں کے لشکر والے
خطا کار تھے۔

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ
لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَجُوْدَهُمَا كَانُوْا
خٰطِیْنَ ۸

تفسیر آیات

۱۔ فَالْتَقَطَهُ: چنانچہ مادر موسیٰ نے بچے کو حوالہ دریا کر دیا۔ قصر فرعون چونکہ ساحل دریا پر تھا۔ دریا

میں ایک صندوق کو دیکھ کر اس کو اٹھانے کا حکم دیا گیا۔ دیکھا اس صندوق میں ایک بچہ ہے۔ فیصلہ ہوا کہ اس بچے کو پالا جائے۔

۲۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا: آل فرعون نے موسیٰ عليه السلام کو اس لیے اٹھایا تھا کہ ان کے لیے مفید ثابت ہو جائے یا اسے بیٹا بنالیں لیکن ہوا یہ کہ فرعون کے لیے جانی دشمن اور باعث رنج بن گیا۔ گویا وہ اپنے لیے ایک دشمن اور باعث رنج کو اٹھا رہے تھے۔

۳۔ كَانُوا حَاطِبِينَ: فرعون اور ہامان، موسیٰ عليه السلام کو اٹھانے میں خطا کار نہیں تھے بلکہ وہ اس ظلم و ستم میں خطا کار تھے جس کے نتیجے میں فرعون کے دشمن حضرت موسیٰ عليه السلام کو اپنے ہاتھ میں پالیں اور بڑا کریں۔

اہم نکات

- ۱۔ اللہ اپنے رسول کو دشمن کے ذریعے تحفظ دیتا ہے۔
- ۲۔ اللہ اپنے دین کو فرعونیت سے بچانے کے لیے خود فرعونیت کو ذریعہ بناتا ہے۔

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتٌ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ ۗ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ①

۹۔ اور فرعون کی عورت نے کہا: یہ (بچہ) تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم سے بیٹا بنالیں اور وہ (انجام سے) بے خبر تھے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ: بائبل کا بیان ہے کہ یہ عورت فرعون کی بیٹی تھی لیکن قرآن نے اس کو فرعون کی بیوی قرار دیا ہے چونکہ قرآنی اصطلاح میں امرأة فلان سے مراد ہمیشہ بیوی لی جاتی ہے لہذا قرآن کی اصطلاح کے مطابق یہ فرعون کی بیٹی نہیں، بیوی تھی۔

۲۔ قُرَّتٌ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ: قصر فرعون میں معلوم ہوتا ہے اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ یہ بچہ اسرائیلی لگتا ہے اسے قتل کر دینا چاہیے۔ فرعون کی زوجہ آگے آتی ہے اور کہتی ہے: لَا تَقْتُلُوهُ اسے قتل نہ کرو۔ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

اللہ نے اس خاتون کے دل میں موسیٰ عليه السلام کی محبت ڈال دی۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے اس خاتون کے دل کو اس لائق بنایا جس میں ایک اولوالعزم پیغمبر کی محبت جاگزیں ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

افضل نساء اهل الجنة اربع جنت کی خواتین میں افضل چار عورتیں ہیں: خدیجہ
خدیجہ بنت خولید و فاطمہ بنت بنت خولید، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ
محمد و مریم بنت عمران و اسیہ بنت مزاحم امراة فرعون۔^۱
بنت مزاحم امراة فرعون۔

۲۔ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا: کہتے ہیں فرعون کی زریں اولاد نہ تھی۔ آسیہ نے کہا: ہم اسی
کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔

۵۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ: فرعون اور فرعونؑ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے لیے تباہی
پال رہے ہیں۔

اہم نکات

۱۔ وہ دل افضل ترین قرار پاتا ہے جس میں حب نبی ہو۔

۱۰۔ اور ادھر مادر موسیٰ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب
وَاصْبِحَ قُوَادًا اُمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا
اِنْ كَادَتْ لِتَبْدِيْ بِهٖ لَوْلَا اَنْ
رَّبَّنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۰
تھا کہ وہ یہ راز فاش کر دیتیں اگر ہم نے ان
کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا، تاکہ وہ ایمان رکھنے
والوں میں سے ہو جائیں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَاصْبِحَ قُوَادًا اُمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا: مادر موسیٰ کا دل خالی ہو گیا۔ اپنے لخت جگر کو دریا کے حوالے
کرنے کے بعد بے چینی کی انتہائی حالت میں آنا ماں کی مامتا کا لازمی تقاضا ہے۔

۲۔ اِنْ كَادَتْ لِتَبْدِيْ بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَّنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ: قریب تھا یہ راز فاش کر دیتیں۔ کہتے ہیں: جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی
موجوں کے تلاطم میں دیکھا تو مادر موسیٰ کی چیخ نکلنے والی تھی: ہائے میرا بیٹا! بعض دیگر لوگ کہتے ہیں: جب
مادر موسیٰ کو علم ہوا کہ موسیٰ کو فرعون نے پکڑ لیا ہے تو بے صبر ہو گئیں۔

۳۔ لَوْلَا اَنْ رَّبَّنَا عَلٰى قَلْبِهَا: صبر و تحمل کے الہام کے ذریعے اگر ہم قلب مادر موسیٰ کو
تقویت نہ دیتے تو وہ اپنی پریشانی کو قابو میں نہیں رکھ سکتی تھیں۔ اس سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ چونکہ ہم نے
مادر موسیٰ کے قلب کو تقویت دی تھی اس لیے انہوں نے اس راز کو فاش نہیں کیا۔

۴۔ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ: ہم نے ان کے قلب کو صبر کی قوت دی تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان

رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس صبر کا باعث وہ ایمان بن رہا ہے جو ہمارے وعدہ اِنَّا رَآدُوهُ اِلَيْكَ (ہم اسے آپ کی طرف واپس کرنے والے ہیں) پر رکھتی تھیں۔

اہم نکات

- ۱۔ بچے کو حوالہ دریا کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہونے کے باوجود پریشان ہونا قدرتی بات ہے اور ماں کی ماتا کا تقاضا ہے۔
- ۲۔ صبر کا بہترین عامل ایمان ہے۔

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۗ
فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ۝۱۱

۱۱۔ اور مادر موسیٰ نے ان کی بہن سے کہا: اس کے پیچھے پیچھے چلی جا تو وہ موسیٰ کو دور سے دیکھتی رہیں کہ دشمنوں کو (اس کا) پتہ نہ چلے۔

تشریح کلمات

قُصِّيهِ: (ق ص ص) القص کے معنی نشان قدم پر چلنے کے ہیں۔ حالات بیان کرنے کو بھی قصہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی صاحب قصہ کا تعاقب کیا جاتا ہے۔

جُنُبٍ: (ج ن ب) جنب دور کے معنوں میں ہے۔ اجنبی کے معنی ہیں مجھے دور رکھو۔

تفسیر آیات

۱۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ: مادر موسیٰ نے ہارون کی بہن سے کہا: قُصِّيهِ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا اور دیکھ موسیٰ کا تابوت کس سمت جا اور کس کے ہاتھ آ رہا ہے۔ اس بچی کو یہ حکم اس لیے دیا کہ مادر موسیٰ کو اللہ کے وعدے پر یقین تھا کہ دریا دور نہیں لے جائے گا۔ اس بچی کے لیے پیچھا کرنا ممکن رہے گا۔

۲۔ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ: چنانچہ خواہر موسیٰ نے تعاقب کیا تو دیکھا فرعونوں نے تابوت کو دریا سے اور موسیٰ عليه السلام کو تابوت سے نکالا۔ عَنْ جُنُبٍ کے ایک معنی یہ کیے گئے ہیں: دور سے دیکھتی رہیں۔ دوسرے معنی یہ بھی کیے ہیں: عَنْ جُنُبٍ ایک جانب سے دیکھتی رہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ اس بچے کے تعاقب میں ہے۔

۳۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ: دشمن کے شر سے بچنے کے لیے مومن کو اپنی فراست استعمال کرنی چاہیے۔

وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ ۙ ۱۲۔ اور ہم نے موسیٰ پر دایوں کا دودھ پہلے سے

قَبْلَ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى
أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَ لَكُمْ وَ
هُمْ لَهُ نَصْحُونَ ﴿١١﴾

حرام کر دیا تھا، چنانچہ موسیٰ کی بہن نے کہا: کیا
میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا دوں جو اس
بچے کو تمہارے لیے پالیں اور وہ اس کے خیر خواہ
بھی ہوں؟

تفسیر آیات

۱۔ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ: الْمَرَاضِعُ مرضعة کی جمع قرار دی جاتی ہے۔ جو دایہ بھی حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے بلائی جاتی تھی بچہ اس کی چھاتی سے دودھ نہیں پیتا تھا۔ ہوشیار بہن محل کے
آس پاس اپنے بھائی کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ جب پتہ چلا کہ بچہ کسی دایہ کا دودھ نہیں پی رہا تو
بہن محل پہنچ گئی اور بولی میں ایک شائستہ دایہ تلاش کر سکتی ہوں جو اسے بڑے پیار سے پالے گی۔ اس طرح
موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو گود میں پہنچ گئے اور خود شمن ہی سے انہیں تحفظ مل گیا۔ مِنْ قَبْلُ سے مراد بہن یا
ماں کے پاس آنے سے پہلے۔

۲۔ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ: اور یہ گھرانہ اس بچے کا خیر خواہ بھی ہوگا۔

اہم نکات

- ۱۔ بچے کی روحانی نشوونما میں دودھ کا اثر ہوتا ہے۔
- ۲۔ حَرَمْنَا میں تحریم تکوینی ہے۔

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا
تَحْزَنَ ۚ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

۱۳۔ (اس طرح) ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے
پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو
جائے اور غم نہ کرے اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ
سچا ہوتا ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

تفسیر آیات

۱۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ: موسیٰ علیہ السلام کی ہوشیار بہن اپنی ماں کو قصر فرعون میں لانے میں کامیاب ہو جاتی
ہے۔ جب اپنی ماں کی خوشبو سونگھی تو بھوک سے ٹڈھال بچے نے دودھ پینا شروع کیا اور رونا بھی بند کیا۔
کہتے ہیں: فرعون نے مادر موسیٰ سے پوچھا یہ کیسے ہوا کہ اس بچے نے دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیا، صرف
تمہارا دودھ قبول کیا؟ مادر موسیٰ نے کہا: چونکہ میں ایک معطر خاتون ہوں۔ میرا دودھ بھی شیریں ہے۔ اس

لیے جب بھی کوئی بچہ لایا گیا اس نے میرا دودھ قبول کیا ہے۔ یہ سن کر فرعون خوش ہوا۔
۲۔ كَيْ تَقْرَعَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ: موسیٰ عليه السلام کو ان کی ماں کے بغیر بھی تحفظ فراہم ہو سکتا تھا لیکن بچے کی مصلحت کے علاوہ خود ماں کو آنکھوں کو ٹھنڈک دینا اور اپنے لخت جگر کی جدائی کا غم و اندوہ ختم کرنا بھی مقصود تھا۔

۳۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ: اکثر لوگ وعدہ الہی کے لازمی طور پر پورا ہونے والے اس اہم ترین مسئلے کو نہیں جانتے اور وعدہ الہی کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو استوار نہیں کرتے۔

اہم نکات

- ۱۔ اللہ تعالیٰ مادر موسیٰ پر ماں کی مامتا سے زیادہ مہربان ہے۔
- ۲۔ وعدہ الہی کے برحق ہونے پر یقین بہت سے مسائل کا حل ہے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾
۱۳۔ اور جب موسیٰ رشد کو پہنچ کر تنومند ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔

تشریح کلمات

أَشُدُّهُ: (ش د د) سوچھ بوجھ کی عمر کو پہنچنا اشد ہے۔ عقل و ہوشمندی کی عمر کو پہنچنا۔ استوی بدنی اعتبار سے مضبوط ہونا۔

تفسیر آیات

۱۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ: جب حضرت موسیٰ عليه السلام عقل و ہوشمندی کی عمر کو پہنچ گئے۔ عمر کے اس حصے میں داخل ہونا جس میں انسان رشد عقل کو پہنچ جایا کرتا ہے انبیاء عليہم السلام کے لیے بھی ضروری ہے۔ البتہ یہ مسئلہ اس نبی سے مربوط ہے کہ وہ کس قسم کے معاشرے کی طرف مبعوث ہو رہا ہے ورنہ حضرت یحییٰ عليه السلام کے لیے ارشاد ہوا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت عطا کی تھی۔ حضرت عیسیٰ عليه السلام نے گہوارے میں نبوت کے درجہ پر فائز ہونے کا اعلان کیا۔

۲۔ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا: ہم نے موسیٰ عليه السلام کو حکمت اور علم عطا کیا۔ پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ حکمتہ واقع بنی اور صائب نظری کو کہتے ہیں۔ حکمت کے مقابلے میں خطا اور غلطی آتی ہے۔ انسان کوئی کام

حکمت و صواب کے مطابق انجام دے رہا ہوتا ہے تو غلطی و اشتباہ سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقع بینی کی صلاحیت دے دی۔ اس صلاحیت کے آنے پر علم عنایت فرمایا۔

۴۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نیکی کی اس منزل پر فائز ہو گئے جہاں سے وہ

حکمت و علم کے اہل ٹھہرے۔ یہ بات ہر اس ہستی کے لیے ہے جو نیکی کی اس منزل پر فائز ہے۔

۱۔ واضح رہے حکمت و علم سے مراد نبوت نہیں ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ابھی مبعوث نہیں ہوئے۔

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے قصر میں ہوتی رہی۔ شرک و کفر طغیانی و ستم کے مرکز میں

پرورش پائی اس کے باوجود اس ماحول نے آپ کی شخصیت، آپ کے افکار پر کوئی اثر نہیں کیا

بلکہ آپ کے وجود میں صرف اور صرف الہی اقدار جاگزیں ہوئیں۔

اہم نکات

۱۔ منصب الہی کے لیے کمال عقلی و قوت جسمانی دونوں ضروری ہیں۔

۲۔ حکمت کا سینہ علم کا خزانہ ہوتا ہے۔

۱۵۔ اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب

شہر والے بے خبر تھے، پس وہاں دو آدمیوں کو

لڑتے پایا، ایک ان کی قوم میں سے تھا اور دوسرا

ان کے دشمنوں میں سے تھا تو جو ان کی قوم میں

سے تھا اس نے اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے

موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ نے اس

(دوسرے) کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر

دیا، پھر موسیٰ نے کہا: یہ تو شیطان کا کام ہو گیا،

بے شک وہ صریح گمراہ کن دشمن ہے۔

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ

مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ

يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا

مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ

شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ

فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ

قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

تشریح کلمات

شِيعَتِهِ: (ش ی ع) شیعۃ الرجل اتباعہ وانصارہ۔ کسی شخص کی پیروی اور اس کی نصرت کرنے

والوں کو اس کا شیعہ کہتے ہیں۔ (القاموس) شیعۃ الرجل اصحابہ۔

وکز: (و ک ز) الوکز کے معنی دھکا دینے اور مکا مارنے کے ہیں۔

تفسیر آیات

۱- وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ: فرعون کا قصر ب دریا، شہر سے فاصلے پر تھا۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔

۲- عَلَى حَيْثُ غَفَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا: جب شہر والے بے خبری کے عالم میں تھے۔ یہ مغرب و عشا کا درمیانی وقت تھا یا ظہر کے آرام کا وقت یا صبح کا وقت؟ اس کا تعین کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہر حال ایک ایسا وقت تھا جس میں لوگ گھروں میں ہوا کرتے تھے۔

۳- فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يُقَاتِلَانِ: دیکھا دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا۔ مِنْ شِيعَتِهِ یعنی ممن شایعة علی دینہ اپنے دین میں ان کی پیروی کرنے والا تھا۔ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ ان دونوں لڑنے والوں میں سے ایک اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم و ملت سے ہے اور دوسرا قبیلی فرعونی تھا۔ کہتے ہیں یہ فرعون کے قصر کا نانبائی تھا اور اسرائیلی کو لکڑیاں اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔

اس اسرائیلی کو موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ قرار دینے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مصر میں اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم و ملت کے ایک راہنما کے طور پر جانتے تھے۔ بنی اسرائیل اگرچہ مصریوں کے ساتھ بت پرستی کرتے تھے تاہم وہ اپنے آبا و اجداد کی طرف منسوب تھے۔ دین ابراہیمی کو مانتے تھے۔ ابن اسحاق کے مطابق بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنتے اور ان کی پیروی کرتے اور ان سے ملنے رہتے تھے۔

۴- فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ: موسیٰ علیہ السلام کا یہ شیعہ چونکہ مظلوم واقع ہو رہا تھا موسیٰ کو دیکھ کر اس نے مدد طلب کی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے کیسے پکارا جو خود فرعون کے گھر کے ایک فرد کی طرح ہیں؟ دوسرا قبیلی تو بقول بعضے اس کی روٹی پکانے والا نوکر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گھر کا ایک فرد تھے۔ جب گھر کا خادم کسی بیرونی شخص سے لڑ رہا ہے تو خادم کو چاہیے تھا وہ اپنے مخدوم سے مدد طلب کرے تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محلات چھوڑ چکے تھے اور اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایک راہنما کے طور پر جاننے لگے تھے؟ اگلی آیات سے اس کا کسی حد تک جواب مل سکتا ہے۔

۵- فَوَكَرَهُ مُوسَى: موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا جس سے وہ قبیلی فرعونی مر گیا۔ گھونسے سے عام حالات میں آدمی نہیں مرتا لیکن وہ فرعون مر گیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبیلی کو عمداً نہیں مارا تھا جیسا کہ بائبل کہتی ہے۔

۶۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ: یہ لڑائی شیطان کا کام تھا جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مداخلت کرنا پڑی اور قبلی کے قتل کی نوبت آئی۔ یہ قتل غیر مناسب وقت میں واقع ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ قتل ایک آزمائش بن گیا۔ منشاء خداوندی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آزمائشی مرحلے سے گزرنا تھا۔

اہم نکات

۱۔ اللہ اپنے برگزیدہ مرسلین کو سخت ترین آزمائشی مراحل سے گزارتا ہے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ۖ
فَاغْفِرْ لِي ۖ فَغَفَرَهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑪

۱۶۔ کہا: پروردگارا! میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا پس مجھے معاف فرما چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

تفسیر آیات

اس اعتبار سے ظلم بہ نفس ہوا کہ اس قتل سے یا اس شہر میں بے وقت داخل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو جانی خطرے میں ڈال دیا اور مغفرت سے مراد یہ ہے کہ اس خطرے سے نجات دلا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس لغزش کے اثرات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مرتب ہونے نہیں دیے۔ انہیں نجات دی۔

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ
أَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْمَجْرِمِينَ ⑫

۱۷۔ موسیٰ نے کہا: میرے رب! جس نعمت سے تو نے مجھے نوازا ہے اس کے باعث میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا۔

تفسیر آیات

مجرمین کا اشارہ فرعون اور قوم فرعون کی طرف ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے نظام کا بظاہر حصہ بنے ہوئے تھے۔ بعض نے مجرمین سے مراد اسرائیلی لیا ہے جو درست نہیں ہے۔ اسرائیلی مجرم نہ تھا۔ وہ تو مظلوم تھا جس کی اعانت ہونی چاہیے تھی اور نہ قبلی کو گھونسا مارنا جرم تھا چونکہ قتل کا قصد نہیں تھا۔ اس گھونسے کا مقصد مظلوم کا دفاع کرنا تھا۔

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا ۖ ۱۸۔ موسیٰ صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ہوئے اور

يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ
بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ
مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٩﴾
فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبِطِشَ بِالَّذِي
هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَى
أَتْرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ
نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا
تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ
الْمُصْلِحِينَ ﴿٢٠﴾

خطرہ بھانپنے کی حالت میں تھے، اچانک دیکھا
کہ جس نے کل مدد مانگی تھی وہ آج پھر اس
(موسیٰ) سے فریاد کر رہا ہے، موسیٰ نے اس
سے کہا: تو یقیناً صریح گمراہ شخص ہے۔
۱۹۔ جب موسیٰ نے اس شخص پر ہاتھ ڈالنا چاہا جو
ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا: اے موسیٰ!
کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کر دینا چاہتے ہو
جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟
کیا تم زمین میں جابر بننا چاہتے ہو اور اصلاح
کرنا نہیں چاہتے؟

تفسیر آیات

۱۔ فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِبًا: پھر وہ شہر میں ڈرتے ہوئے خطرہ بھانپنے کی حالت میں ہو
گئے۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قصر فرعون میں نہیں ہیں۔ کل کا قتل غیر معمولی تھا۔
اپنی غلام قوم اسرائیل کے ہاتھوں قبلی کا قتل۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے خطرے میں گھرے
ہوئے ہیں اور يَتَرَقَّبُ سے معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی غیر یقینی صورت حال سے دوچار ہیں کہ اگلے
لحوظ میں ان کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے۔

۲۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ: اتنے میں کل جس نے مدد مانگی تھی آج وہ پھر موسیٰ علیہ السلام
سے فریاد کر رہا ہے۔ وہ شخص کسی اور سے دست بہ گریباں ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔
۳۔ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا: تم بڑے فسادی ہو۔
ایسے لوگوں سے لڑتے ہو جس کا نتیجہ ظلم اور زیادتی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ غوی گمراہ ہونے اور فساد کرنے کو
کہتے ہیں۔

۴۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبِطِشَ: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبلی پر حملہ کرنا چاہا۔ یہ قبلی ان دونوں
اسرائیلیوں کا دشمن تھا اور اسرائیلی کو اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فسادی کہا لیکن وہ تھا تو مظلوم۔ اس وجہ سے
اس کے دفاع کے لیے آگے بڑھنا ایک فطری امر تھا۔

۵۔ قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَمُوتَ لِي: اس قبلی نے کہا: اے موسیٰ! کیا تم مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے گزشتہ روز کے قتل کی خبر شہر میں پھیل گئی تھی اور یہ بات کرنے والا اسرائیلی نہیں ہو سکتا جیسا کہ توریت کا خیال ہے کیونکہ حضرت موسیٰ عليه السلام اسرائیلی پر نہیں، قبلی پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور قبلی ہی عَدُوٌّ لَّهُمَا ان دونوں (موسیٰ عليه السلام اور اسرائیلی) کا دشمن تھا۔ اسرائیلی تو صرف قبلی کا دشمن تھا، دونوں کا دشمن نہیں تھا۔

۶۔ إِنَّ تَرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قبلی کو حضرت موسیٰ عليه السلام کی شناخت تھی اور لوگ حضرت موسیٰ عليه السلام کو داعی اصلاح کے طور پر جانتے تھے۔ ممکن ہے اس لیے کہا ہو: اے موسیٰ! تم اصلاح کے داعی نہیں، جابر اور زیادتی کرنے والے ہو۔

۲۰۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا
آیا، کہنے لگا: اے موسیٰ! دربار والے تیرے قتل
کے مشورے کر رہے ہیں، پس (یہاں سے)
نکل جا میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ
يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَآئِكَةَ
يَأْتِمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ
إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ۝

تشریح کلمات

يَأْتِمِرُونَ: (ا م ر) الائتھار کے اصل معنی حکم بجالانے کے ہیں اور تشاور باہم مشورہ کرنے کو بھی ائتمار کہا جاتا ہے کیونکہ مشورہ میں بھی ایک دوسرے کا حکم قبول کیا جاتا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ: شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ یہ شخص حزقیل ہی ہو سکتے ہیں جنہیں قرآن نے مؤمن آل فرعون کہا ہے جو اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ فرعون کا قصر شہر کے کنارے واقع تھا۔ وہاں سے شہر میں دوڑ کر آیا۔ اس سے بھی عندیہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ عليه السلام قصر فرعون میں نہیں رہتے تھے، کم سے کم ان دونوں میں۔ یہ شخص فرعون کے خاندان سے متعلق تھا۔ يَسْعَىٰ دوڑتا ہوا آیا، سے معلوم ہوتا ہے خطرہ بالکل سر پر ہے۔ اس لیے اس مؤمن کو دوڑ کر خبر لانا پڑی کہ ایسا نہ ہو خبر ملنے سے پہلے فرعون کی گرفت میں آجائیں۔

۲۔ إِنَّ الْمَلَآئِكَةَ يَأْتِمِرُونَ بِكَ: دربار والے آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مؤمن فرعون کا بھیدی تھا یا اس منصوبہ بندی کرنے والوں میں شریک تھا۔

۳۔ فَأَخْرَجَ إِيَّيْكَ مِنَ التُّصْحِينِ: اس مؤمن کے نزدیک حضرت موسیٰ عليه السلام کے تحفظ کا واحد ذریعہ ہجرت تھا۔ فَأَخْرَجَ کہہ کر مؤمن ہجرت کا مشورہ دیتا ہے۔ اس مؤمن کا نام روایت میں حزقیل آیا ہے۔ حضرت حزقیل کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک اولوالعزم رسول کو تحفظ فراہم کیا۔ چنانچہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

الصدیقون ثلاثة حبيب بن موسى النجار مؤمن آل ياسين و حزقيل مؤمن آل فرعون و علي بن ابي طالب الثالث و هو افضلهم۔^۱

صدیق تین ہیں۔ حبيب بن موسیٰ نجار مؤمن آل یاسین، حزقیل مؤمن آل فرعون تیسرے علی بن ابی طالب جو ان میں افضل ہیں۔

اس حدیث کے راوی ہیں: ابن ابی لیلی، ابن عباس، ابویوب انصاری۔ افضل المرسلین عليهم السلام کو ہجرت کی شب بستر رسول پر سوکر اپنی جان کا نذرانہ دینے والے صدیق کا ان سب صدیقوں سے افضل ہونا قدرتی امر ہے۔

۲۱۔ چنانچہ موسیٰ ڈرتے ہوئے خطرہ بھانپتے ہوئے وہاں سے نکلے، کہنے لگے: اے میرے پروردگار! مجھے قوم ظالمین سے بچا۔

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ⑩

تفسیر آیات

۱۔ فَخَرَجَ مِنْهَا: اس مؤمن کے مشورے کے مطابق حضرت موسیٰ عليه السلام شہر سے نکل جاتے ہیں۔ خَائِفًا حالت خوف میں نکلے چونکہ فرعون ان کے تعاقب میں تھے اور حضرت حزقیل کا دوڑتے ہوئے آنا بتاتا ہے کہ خطرہ بالکل سر پر تھا۔ ایک شاعر نے کہا تھا:

خرج الحسين من المدينة خائفا
كخروج موسى خائفا يتربق
حينئذ من المدينة من موسى
تو ہمارے ہندوستانی عالم نے اس شعر کی اصلاح کی:

خرج الحسين من المدينة باسلا
لا مثل موسى خائفا يتربق

حسین مدینہ سے بہادرانہ نکلے حضرت موسیٰ کی طرح
خوف اور خطرہ بھانپتے ہوئے نہیں نکلے۔

۲۔ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: ظالم قوم سے نجات کی دعا سے یہ بات بھی واضح
ہوگئی کہ قطعی کا قتل موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ظلم نہ تھا بلکہ اس قتل کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ظالمانہ تھا۔

اہم نکات

۱۔ ہجرت، انبیاء علیہم السلام کی سیرت ہے۔

۲۲۔ اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا:
امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی
ہدایت فرمائے گا۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ
عَلَى رَبِّيَ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ
السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

تفسیر آیات

۱۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا۔ مدین کے بارے میں الاعراف آیت ۸۵ ملاحظہ
فرمائیں۔ آیت کے سیاق سے تو یہ عندیہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصداً مدین کا رخ کیا تھا۔ تَوَجَّهَ
رخ کیا تِلْقَاءَ مَدْيَنَ مدین کی جانب۔

کہتے ہیں: مصر اور مدین کے درمیان آٹھ سو پچاس میل کا فاصلہ ہے۔ کیا مصر اور البدع جو خلیج
عقبہ کے مغربی ساحل پر واقع، کے درمیان یہی مسافت ہے؟ چونکہ کہتے ہیں مدین وہی البدع ہے۔

۲۔ قَالَ عَلَى رَبِّيَ: چنانچہ اللہ نے انہیں سیدھے راستے کی راہنمائی فرمائی۔ جو راستہ مدین
کو جاتا تھا۔ مدین کا علاقہ فرعون کی سلطنت میں شامل نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ تھی: مدین پہنچنے کے
لیے سیدھے راستے کی راہنمائی فرما۔

۲۳۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو انہوں نے
دیکھا لوگوں کی ایک جماعت (اپنے جانوروں کو)
پانی پلا رہی ہے اور دیکھا ان کے علاوہ دو عورتیں
(اپنے جانور) روکے ہوئے کھڑی ہیں، موسیٰ نے
کہا: آپ دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ دونوں بولیں:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ
أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ
مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي

حَتَّى يُصْدِرَ الرَّعَاءُ عَنْهُ وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝۳۱

جب تک یہ چرواہے (اپنے جانوروں کو لے کر)
واپس نہ پلٹ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتیں اور
ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔

تشریح کلمات

وَرَدٌ: (ورد) اصل میں ورد کے معنی پانی کا قصد کرنے کے ہیں۔ پھر ہر جگہ کا قصد کرنے پر بولا جاتا ہے۔

تَدْوُدٌ: (ذود) ذود کے معنی کسی چیز سے دفع کرنے کے ہیں۔

الرِّعَاءُ: (رع ی) عام طور پر یہ لفظ حفاظت اور حسن انتظام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رعاء، راعی کی جمع ہے۔

تفسیر آیات

۱- وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے تو اس علاقے کے کنویں کے پاس پہنچے۔ مدین اس زمانے میں مصر کا قریب ترین علاقہ تھا۔ یہ جگہ آج کل البدع کے نام سے مشہور ہے جو خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر واقع ہے۔

۲- وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ: دیکھا لوگوں کی ایک جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے۔ آیت میں صرف پلانے کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے الرَّعَاءُ چرواہے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کو پلا رہے تھے۔

۳- وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ: ان کے علاوہ دو عورتوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں۔ پانی پینے سے روک رہی ہیں۔ دوسرے لوگ کنویں سے پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے۔ ان دو عورتوں کے جانور بھی پانی کی طرف لپکتے تھے لیکن یہ دونوں اپنے جانوروں کو دوسروں کے پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہیں۔

۴- قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا: حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں سے پوچھتے ہیں: تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے جانور دوسرے جانوروں کے ساتھ پانی کیوں نہیں پی رہے؟

۵- قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرَّعَاءُ: دونوں عورتوں نے جواب میں کہا: جب تک یہ چرواہے واپس پلٹ نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتیں۔

اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ دونوں خواتین پاکیزہ نفس کے مالک تھیں۔ مردوں کے ہجوم میں دھکے کھانے کی نوبت آتی تھی اس لیے ان کے واپس جانے کا انتظار کرتی تھیں۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ لوگ کنویں سے پانی نکال کر جانوروں کو پلاتے تھے۔ یہ دونوں خواتین مردوں کی طرح پانی نہیں نکال سکتی تھیں۔ اس لیے ان کے واپس جانے کا انتظار کرتیں اور بچے کھچے پانی سے اپنے جانوروں کو سیراب کرتی تھیں۔

۶۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ: گھر میں مرد صرف ایک باپ ہیں، وہ بھی عمر رسیدہ ہیں۔ وہ سب اور وجہ بیان کر رہی ہیں جس سے ان کی یہ حالت ہے۔

سفر تکوین میں آیا ہے کہ ان دونوں کے والد مدین کے کاہن تھے۔ اس میں پہلی مرتبہ تو ان کاہن کا نام رعویل بتایا، پھر اس کا دوبارہ ذکر ہوا تو ان کا نام یثرون بتایا اور انہیں موسیٰ عليه السلام کا حامی بتایا ہے۔^۱ ابن العبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں:

یثرون بن رعویل کی سات بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے دو جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نکلی تھیں۔ پس شعیب وہی شخصیت ہیں جنہیں یہود یثرون کہتے ہیں اور نبی کو کاہن کہنا ان کے اصطلاح ہے چونکہ کاہن بھی غیب کی خبر دینے کے مدعی ہوتے ہیں۔^۲ ائمہ اہل بیت عليهم السلام کی روایات کے مطابق بھی یہ بزرگوار حضرت شعیب عليه السلام ہی تھے۔

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ
فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ
مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿۳۷﴾

۳۷۔ موسیٰ نے ان دونوں (کے جانوروں) کو پانی پلایا پھر سائے کی طرف ہٹ گئے اور کہا: میرے مالک! جو خیر بھی تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔

تفسیر آیات

۱۔ فَسَقَى لَهُمَا: حضرت موسیٰ عليه السلام نے یہ سن کر ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا۔ حضرت حضرت موسیٰ عليه السلام کی پاکیزہ طبیعت کا یہی تقاضا تھا کہ کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کے لیے لگیں۔ مصر سے اسی جذبہ ایثار کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی۔

۲۔ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ: سفر کی خستگی اور گرمی سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ان جانوروں کو پانی پلانے کے بعد سائے کی طرف لوٹ آئے۔ اس وقت موسیٰ عليه السلام کی حالت نہج البلاغہ میں بیان ہوئی ہے۔

۳۔ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ: میرے پروردگار! جو خیر بھی تو مجھ پر نازل

فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ روایات کے مطابق یہاں خیر سے مراد طعام ہے۔ انداز طلب میں انتہائی نرمی ہے چونکہ خواہ انتہائی مجبوری ہی کیوں نہ ہو سوال دنیاوی مسئلے کا ہے۔ اگر اخروی مسئلہ ہوتا تو اصرار کے ساتھ مانگتے۔

مروی ہے کہ دنیا کی مذمت کے سلسلے میں حضرت علیؑ نے فرمایا:

وَ اللَّهُ مَا سَأَلَهُ إِلَّا حُبْرًا يَأْكُلُهُ لِأَنَّهُ
كَانَ يَأْكُلُ بَقْلَةَ الْأَرْضِ وَ لَقَدْ
كَانَتْ حُضْرَةٌ الْبَقْلِ تُرَى مِنْ
شَفِيفِ صِفَاقِ بَطْنِهِ لِهَزَالِهِ وَ
تَشَدُّبِ لَحْمِهِ ۚ
خدا کی قسم! انہوں نے صرف کھانے کے لیے روٹی
کا سوال کیا تھا چونکہ وہ زمین کا ساگ پات کھاتے
تھے اور لاغری اور (جسم پر) گوشت کی کمی کی وجہ
سے ان کے پیٹ کی نازک جلد سے گھاس پات کی
سبزی دکھائی دیتی تھی۔

اہم نکات

- ۱- انتہائی گرسنگی کی حالت میں بھی طعام کا سوال اللہ سے ہونا چاہیے۔
- ۲- محروموں کی کمک کرنا سیرت انبیاءؑ ہے۔

۲۵- پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کے
ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی:
میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے
ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت
آپ کو دیں، جب موسیٰ ان کے پاس آئے
اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو وہ کہنے لگے: خوف
نہ کرو، تم اب ظالموں سے بچ چکے ہو۔

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى
اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ
لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا
فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ
الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَتُّجِبُوكَ
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

تفسیر آیات

۱- فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ: ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ
چلتی ہوئی موسیٰؑ کے پاس آئی۔ شرم و حیا عورت کی زینت ہے۔ فطرت سلیمہ کی مالک خاتون مردوں سے
شرم جیسی نسوانی اعلیٰ قدروں کی مالکہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰؑ درخت کے سائے میں اکیلے تھے۔ اس اکیلے
مرد کے نزدیک آنے میں شرم و حیا کرنا ایک پاکیزہ ماحول کی پلی بچی کے لیے قدرتی بات ہے۔

۲۔ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا: اس نامساعد ترین حالت میں جو امید اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر رکھی تھی وہ بر آئی اور کڑی آزمائش کی گھڑی ختم ہونے والی ہے۔ جب اس لڑکی نے کہا کہ آپ کو میرے والد بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دیں تو ضرور سوچا ہوگا ان عظیم قدروں کا مالک، اہم شخصیت کا مالک ہوگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ چل پڑتے ہیں لیکن لڑکی کے پیچھے چلنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

فَأَنَا بَنُو يَعْقُوبَ لَا نَنْظُرُ فِي أَعْمَارِ
النِّسَاءِ الْخَبِرَةِ ۗ

ہم اولاد یعقوب عورتوں کی پشت پر نظر نہیں ڈالتے۔

چنانچہ اس لڑکی کا یہ کہنا کہ یہ شخص قوی اور امین ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قسم کی امانت کا مظاہرہ یقیناً ہوا ہوگا۔

۳۔ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ کو اپنے سارے حالات بتا دیے کہ وہ قتل کے خوف سے مصر سے بھاگ کر یہاں پہنچے ہیں تو اس بزرگ نے کہا:

لَا تَخَفَنَّ مَخَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: ہماری سرزمین پر فرعون کی حکومت نہیں ہے۔ بقول بعض اس وقت مدین پر کنعانی بادشاہ کی حکومت تھی۔

اس مرحلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہوئیں اور فرعون جیسے دشمن سے نجات مل گئی۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مراحل میں سے ایک اہم مرحلہ طے ہو گیا۔ یہ مرحلہ قبیلے کے قتل سے شروع ہوا اور نجات کی اس خوشخبری پر ختم ہوا۔

اہم نکات

- ۱۔ شرم و حیا عورت کی نسوانیت کے لیے اہم ترین زینت ہے۔
- ۲۔ حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کا سوال ہونا چاہیے۔
- ۳۔ رضا کارانہ کمک کے باوجود اجرت قبول کرنے میں حرج نہیں ہے۔

۲۶۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا: اے ابا! اسے نوکر رکھ لیجیے کیونکہ جسے آپ نوکر رکھنا چاہیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور، امانتدار ہو۔

قَالَتْ أَحَدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرُهُ
إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿۲۶﴾

تفسیر آیات

۱۔ قَالَتْ اخْذْهُمَا: ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا: اے ابا اسے نوکر رکھ لیجیے۔ یہ درخواست کرنے والی لڑکی وہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی چونکہ اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت کا مشاہدہ کیا تھا۔

۲۔ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ: قوت کا اندازہ چاہ سے پانی نکالتے وقت کر لیا تھا اور امانت کا مشاہدہ ان کے ہمراہ گھر آتے ہوئے کیا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاتون کے پیچھے چلنے سے پرہیز کیا تاکہ ان کے جسم پر نگاہ نہ پڑے۔

قوت اور امانت دو ایسی طاقتیں ہیں جن سے بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ امانت کے بغیر طاقت سرکش اور مفسد ہو جاتی ہے اور طاقت کے بغیر امانت کے نفاذ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کمزور کی امانت کے نتائج نہیں ہوتے۔

اہم نکات

۱۔ افراد خانہ مرد یا عورت، سربراہ خانہ کو اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں مشورہ دے سکتے ہیں۔

قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنكِحَكَ
اِحْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلٰى اَنْ
تَاْجُرِنِيْ مِّنْىْ حَجَجًا فَاِنْ
اَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَاَنْ
مَا اُرِيدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ
سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٤﴾

۲۴۔ (شعیب نے) کہا: میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر تمہارے ساتھ کروں کہ تم آٹھ سال میری نوکری کرو اور اگر تم دس (سال) پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے (احسان) ہے اور میں تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاء اللہ تم مجھے صالحین میں پاؤ گے۔

تشریح کلمات

حَجَجًا: (ح ج ج) الحجۃ سال کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع حجج ہے۔ چونکہ سال میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے اس لیے سال کو حجۃ کہتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ قَالَ إِنْ أَرِيدَ أَنْ أَنْكِحَكَ: آٹھ سال نوکری کرنے کی شرط عقد کے ضمن میں نہیں ہے۔ یہ عبارت عقد نکاح کی نہیں بلکہ واقعے کا بیان ہے چونکہ اس عبارت میں کسی ایک بیٹی کا تعین نہیں ہے نیز باپ کی نوکری کرنا بیٹی کا مہر قرار دینا بھی درست نہیں ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ فرمان بیان فرمایا:

هُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ تَمَنَّى رَقَبَتَهَا وَ هِيَ مَهْرُ عَوْرَتِ كَا حَقِّ هِيَ، يَهْ حَقُّ عَوْرَتِ كَوْنَهُ مَلْءٌ، كَوْنِيْ أَوْرَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا۔
اس سے فائدہ اٹھائے، جائز نہیں ہے۔

اس آیت سے کسی فقہی حکم کا استنباط نہیں ہو سکتا چونکہ آیت کسی فقہی مسئلہ کے بیان کے درپے نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آیت ”مقام بیان“ میں ہو۔

۲۔ قَوْلُ أَمْتَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ: اس کا مطلب یہ ہوا کہ آٹھ سال نوکری لازمی ہے۔ دو سال موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے رضا کارانہ ہو سکتے ہیں۔ یہ عقد نکاح سے الگ ایک معاہدہ ہو سکتا ہے جس میں یہ مصلحت کار فرما تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دس سال تک مدین میں رہنا ضروری تھا کہ مصر کی حکومت میں تبدیلی آجائے گی اور مصر جانا ممکن ہو جائے گا۔

۳۔ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقُّ عَلَيْكَ: آٹھ سالہ نوکری تیرے لیے باعث مشقت نہ ہوگی بلکہ اسی میں آسودگی ہوگی۔

۴۔ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ: اس معاملے میں پوری طرح حسن نیت کا مظاہرہ ہوگا۔ صالحین میں شمار ہونے کی امید کا اظہار کسی نبی سے ہو سکتا ہے۔

۲۸۔ موسیٰ نے کہا: یہ میرے اور آپ کے درمیان وعدہ ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہے اور جو کچھ ہم کہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے۔
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۲۸﴾

تفسیر آیات

۱۔ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا: جو معاہدہ میرے

اور آپ کے درمیان طے پایا ہے اس میں سے جس مدت کو بھی پورا کروں، آٹھ یا دس سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ یہ کہنا حضرت شعیب علیہ السلام کے قول وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ... میں تجھے تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، کا جواب معلوم ہوتا ہے کہ آٹھ یا دس سال آپ کی نوکری کرنا مجھ پر زیادتی نہیں ہے کہ باعث تکلیف و مشقت ہو جائے۔

اس عقد کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشی زندگی کا ایک مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس مدت کے پوری ہونے پر یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔

۲۹۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل کو لے کر چل دیے تو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی، وہ اپنے اہل سے کہنے لگے: ٹھہرو! میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے میں کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارا لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۲۹﴾

تفسیر آیات

۱۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ: روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال پورے کیے اور قصر فرعون کی تعیش کی زندگی کے بعد پردیس میں غربت کی زندگی کا مزہ چکھنے کا موقع ملا۔ ایک ادا العزم بنی بننے کے لیے مدین میں انسانی معاشرے کے نچلے درجے کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار کر معاشرے کے درد و الم اور محرومیوں کا قریب سے مشاہدہ کرنا بھی ضروری تھا۔

۲۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ: اور وہ اپنے اہل کو لے کر چل دیے۔ اس سفر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اہم ترین مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی سفر میں وہ مبعوث برسالت ہوتے ہیں اور جس فرعونیت سے بچنے کے لیے ہجرت کرنا پڑی تھی اسی کا مقابلہ کرنے کا حکم ملتا ہے۔

۳۔ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا: طور کی جانب سے ایک آگ دکھائی دی۔ وقت رات کا تھا اور سردی کا زمانہ تھا۔

۴۔ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا: اپنے اہل و عیال سے فرمایا: ٹھہرو۔

۵۔ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا: میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ یہ آگ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے

تھے اس لیے فرمایا: میں نے دیکھی ہے۔ ورنہ تعبیریوں ہوتی: دیکھو وہاں ایک آتش نظر آرہی ہے۔ ہم نے یہ بات متعدد مقامات پر وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام وحی کو دیگر عام انسانوں میں موجود حواس کے ذریعے ادراک نہیں کرتے بلکہ وحی کو اپنے پورے وجود کے ساتھ ادراک کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ روشنی صرف آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ آنکھیں دوسروں کی بھی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے۔ اسی خصوصی ادراک کو لفظ اُنْسُ اُنْسٍ کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ زمخشری کے مطابق الابصار البین الذی لاشبهة فیہ۔ اُنْسُ اس دکھائی دینے کو کہتے ہیں جس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔

۶۔ لَعَلَّ اَتِيَكُمْ مِنْهَا خَبْرٌ: اس آتش سے کوئی خبر مل جائے۔ یعنی اس آتش کے جلانے والے سے ہماری مطلوبہ خبر مل جائے۔ سورہ طہ آیت نمبر ۱۰ اَوْ اَجِدْ عَلَى النَّارِ هُدًى سے اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد راستے کی خبر ہے کہ ہم راستہ بھٹک تو نہیں گئے ہیں۔

۷۔ اَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ: جاڑے کا زمانہ تھام سادی سے بچنے کے لیے اس آگ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس آگ کے گرد اگر کوئی انسان ہے تو اس سے خبر مل جائے۔ نہیں تو آگ سے فائدہ اٹھایا جائے۔

۳۰۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں
الایمین فی البقعة المبارکة من
الشیجرة ان یوسی اینی انا اللہ
رب العلمین ﴿۳۰﴾
کنارے سے ایک مبارک مقام میں درخت سے
ندا آئی: اے موسیٰ! میں ہی عالمین کا پروردگار
اللہ ہوں۔

تشریح کلمات

شَاطِئٌ: (ش ط ط) الشط کنارہ۔ عام طور پر نہر اور دریا کے کناروں کے لیے بولا جاتا ہے۔
الْبُقْعَةُ: (ب ق ع) زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تو وادی کے دائیں کنارے سے ندا آئی۔ یہ وادی کی دائیں جانب کا ذکر ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا:
وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ... ل۔ اور تمہیں طور کی دائیں جانب وعدہ دیا۔

اسی طرح ہے:

وَنَادَيْتُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ... ۱۔ اور ہم نے انہیں طور کی داہنی جانب سے پکارا۔
ان دونوں آیتوں میں صراحت ہے کہ دائیں سے مراد طور کی دائیں جانب ہے۔ حضرت موسیٰ عليه السلام
کی دائیں جانب نہیں ہے جیسا کہ بعض نے سمجھ رکھا ہے۔

الْأَيْمَنِ: دائیں جانب، جہتوں میں بہتر جہت سمجھی جاتی ہے اس لیے مؤمنین کو قرآن نے
اصحاب الیمین کہا ہے اور غیر مؤمن کو اصحاب الشمال کہا ہے۔

۲۔ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ: مبارک مقام میں۔ یہ وادی کی دائیں جانب کا کنارہ ہے۔ ایک مبارک
مقام ہے چونکہ بقعہ مبارکہ میں اللہ نے تجلی فرمائی۔ اسی بقعہ مبارکہ میں داخل ہونے کے لیے حضرت موسیٰ عليه السلام
کو جوتے اتارنے کا حکم ملتا ہے اور اسی وادی کو اللہ نے مقدس قرار دیا ہے:

فَأَخْلَجَ نَعْلَيْكَ إِنْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُورِي ۝ ۲
پس اپنی جوتیاں اتار دیں، تحقیق آپ طویٰ کی مقدس
وادی میں ہیں۔

۳۔ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَى: ”یا موسیٰ عليه السلام“ کی ندا درخت سے آئی۔ اس جگہ اللہ سے ہمکلام
ہونے کے لیے درخت کو حجاب کی حیثیت حاصل ہے۔ سورہ شوریٰ آیت ۵۱ میں اللہ سے ہمکلام ہونے
کی تین صورتیں بتائی:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا
أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
فَيُوحِيَ بآذَانِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝
اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ اس سے بات
کرے ماسوائے وحی کے یا پردے کے پیچھے سے یا
یہ کہ کوئی پیام رساں بھیجے پس وہ اس کے حکم سے جو
چاہے وحی کرے بے شک وہ بلند مرتبہ حکمت والا ہے۔

اس ندا کا مضمون یہ تھا يُمُوسَى اِنِّي اَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے موسیٰ! میں کل کائنات کا مالک ہوں۔
عالمین کا واحد مالک آپ سے بات کر رہا ہے۔ یہ ندا حضرت موسیٰ عليه السلام نے صرف کانوں سے نہیں اپنے
پورے وجود سے سنی۔ چنانچہ آگ کی روشنی اپنی آنکھوں سے نہیں اپنے پورے وجود سے دیکھی تھی۔ کوئی اور
آنکھ اس روشنی کو دیکھ سکتی ہے نہ کوئی کان اس ندا کو سن سکتا ہے۔

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا
تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا
لَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى أَقْبَلُ وَلَا
۳۱۔ اور اپنا عصا پھینک دیجیے، پھر جب موسیٰ نے
عصا کو سانپ کی طرح حرکت کرتے دیکھا تو
پہٹے پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، (ہم

تَخَفْتُكَ مِنَ الْأَمِينِ ﴿٣١﴾ نے کہا) اے موسیٰ! آگے آئیے اور خوف نہ کیجیے
یقیناً آپ محفوظ ہیں۔

تشریح کلمات

تَهْتَرٌ: (ہ ز ن) ہز کے معنی کسی چیز کو زور سے ہلانے کے ہیں۔ تہتر ہلنے کے معنوں میں ہے۔
جَانٌّ: (ج ن ن) ایک قسم کا سانپ۔

تفسیر آیات

۱۔ وَأَنْ أَلْقَى عَصَاكَ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملتا ہے: اپنا عصا پھینک دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی تو دیکھا عصا ایک سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے۔
۲۔ وَلَّى مُدْبِرًا: یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر پلٹے وَلَّى يُعَقِّبُ اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آخر میں إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ کی ضمانت سن کر واپس آ گئے۔

سانپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف بتاتا ہے کہ جو معجزہ اللہ اپنے نبی کو دکھاتا ہے وہ فعل خدا ہی ہوتا ہے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام خود عصا پھینکتے اور وہ اڑدھا بن جاتا تو خوفزدہ نہیں ہوتے تھے۔

آج یہ بات مسلم ہے کہ تمام موجودات کا ابتدائی خمیر اور عناصر اولیہ ایک ہے۔ ان عناصر کی ترکیب و ترتیب مختلف ہونے سے چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ لہذا عصا اور اڑدھے کے عناصر ایک ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کن فیکونی سے ان عناصر کی ترتیب و ترکیب بدل سکتا ہے اور عصا سے اڑدھا اور اڑدھے سے عصا بنا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات، جو ہم نے پہلے بھی لکھی ہے واضح ہو جاتی ہے کہ معجزہ عام طبعیاتی دفعات کے مطابق نہ سہی لیکن قانون فطرت کے دائرے میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ معجزے کے علل و اسباب عام انسانوں کے لیے قابل تفسیر نہیں ہیں۔

أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ
تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ ۗ
أَضْمَمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ
الرَّهْبِ فَذُنُوكَ بُرْهَانِنِ مِنْ
رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٢﴾

۳۲۔ (اے موسیٰ) اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیجیے
وہ بغیر کسی عیب کے چمکدار ہو کر نکلے گا اور خوف
سے بچنے کے لیے اپنے بازو کو اپنی طرف سمیٹ
لیجیے، یہ دو معجزے آپ کے پروردگار کی طرف
سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے ہیں
تحقیق وہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔

تشریح کلمات

برهان: (ب ر ہ) البرهان کے معنی دلیل اور حجت کے ہیں۔
الرَّهْبُ: (ر ہ ب) ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں احتیاط اور اضطراب بھی شامل ہو۔

تفسیر آیات

۱۔ اَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَبِيكَ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا اہم معجزہ ید بیضاء کے بارے میں ہے جس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے۔

۲۔ وَاضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ: اور خوف کی حالت میں اپنے بازو کو اپنی طرف سمیٹ لو۔ آیت کے اس جملے کی تشریح میں ہمارا موقف یہ ہے: آگے خطرناک حالات کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ ان حالات کے لیے آپ کمر بستہ ہو جائیں۔ جس طرح پرندے خوف کے حالت میں اپنے پر پھیلاتے ہیں اور امن و سکون کی حالت میں پروں کو سمیٹ لیتے ہیں آپ بھی اپنے بازوؤں کو سمیٹ لیں۔ یعنی فرعون جیسے دشمن کے مقابلے میں امن و سکون کے ساتھ جرات کا مظاہرہ کریں۔ البتہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ دل سے خوف نکالے گا، یہ بھی ید بیضاء کی طرح ایک خاص عنایت ہو۔

۳۔ فَذُنُوكَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ: یہ دو برہان، دو قطعی واضح اور ٹھوس دلائل آپ کے ساتھ ہیں: عصا اور ید بیضاء۔ لہذا آپ کو کسی قسم کا خوف لاحق نہیں ہونا چاہیے۔

۴۔ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ: دونوں معجزے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے حجت پوری کرنے اور حق ثابت کرنے کے لیے ہیں۔ اگرچہ فسق و فجور میں غرق لوگ ہیں۔ ان پر ان معجزات کا اثر ہو یا نہ ہو اللہ نے اپنی حجت پوری کرنا ہے اور فرعون کے طغوت کے مقابلے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔

۲۳۲

۳۳۔ موسیٰ نے عرض کیا: پروردگارا! میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے، لہذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔
قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا
فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿۳۳﴾

تفسیر آیات

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف موت کا نہیں ہے بلکہ تکمیل رسالت میں رکاوٹ کا ہے۔ چونکہ آگے جس رسالت کو فرعون کے سامنے پیش کرنا ہے اس میں بڑی دشواریاں ہیں۔ ان میں سرفہرست میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے جو قطعی کا قتل ہے۔

وَإِخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي ۚ
لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا
يَصِدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ
يَكْذِبُونِ ﴿٣٣﴾

۳۳۔ اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے
زیادہ فصیح ہے لہذا اسے میرے ساتھ مددگار بنا
کر بھیج کہ وہ میری تصدیق کرے کیونکہ مجھے
خوف ہے کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔

تشریح کلمات

ردء: (ردء) الردء جو دوسرے کا مددگار بن کر اس کے تابع ہو۔

تفسیر آیات

۱۔ وَإِخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا: حضرت موسیٰ عليه السلام اللہ تعالیٰ سے اس تاریخ ساز جہاد
میں قدم رکھنے کے لیے معاون کی درخواست کر رہے ہیں۔ اس معاون میں دو باتوں کا ذکر ہے: رِدْءًا وہ میرا
مددگار ہوگا۔ يَصِدِّقُنِي میری رسالت کی تصدیق کرے گا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہما السلام کے
ذریعے نصرت و تصدیق کے خواہشمند تھے کہ وہ سب سے پہلے میری رسالت کی تصدیق کرے۔ انہی دو
باتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی اور موسیٰ و ہارون عليهما السلام میں کتنی زیادہ مشابہت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے:
يا على أنت مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبي بعدي۔
اے علی! تجھے مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون
کو موسیٰ سے تھا۔ صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی
نہیں ہے۔

۲۳۵

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِإِخِيكَ
وَنَجْعَلَ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا
يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيْتِنَا ۚ أَنَّمَا
مِنَ الْآتِبَعِكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٣٥﴾

۳۵۔ فرمایا: ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ
کے بازو مضبوط کریں گے اور ہم آپ دونوں کو
غلبہ دیں گے اور ہماری نشانوں (معجزات) کی
وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ
دونوں اور آپ کے پیروکاروں کا ہی غلبہ ہوگا۔

تفسیر آیات

۱۔ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِإِخِيكَ: حضرت موسیٰ عليه السلام کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ہارون عليه السلام کو اللہ

تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لیے قوت بازو قرار دیتا ہے اور مزید خوشخبری سناتا ہے۔

۲۔ وَنَجْعَلُ لَكَ مَاسُطَلًا: وہ خوشخبری یہ ہے کہ ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے۔ معجزات کے ذریعہ دلیل و حجت کا غلبہ دیں گے۔

۳۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا: فرعون و فرعونوں کا دست ستم آپ تک نہیں پہنچے گا۔ غلبہ کی نوعیت یہ ہوگی کہ وہ آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکیں گے بلکہ وہ مغلوب ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ جادوگروں کے مظاہرے میں شکست فاش اور غرق آب ہونے سے یہ وعدہ پورا ہوا۔

۴۔ يَا أَيُّهَا: اس غلبے کا ذریعہ وہ معجزات ہوں گے جو آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہوں گے۔ ان معجزات کی تعداد تو تھی جن کے مقابلے میں فرعون و فرعونوں ہمیشہ مغلوب رہے۔

انس بن مالک راوی ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا: بابی انت وامی من شد الله عضدی میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، اس پر جس بہ کما شد عضد موسیٰ بہارون۔ لہٰذا سے اللہ نے میرا بازو مضبوط کیا ہے جس طرح موسیٰ کا بازو ہارون سے مضبوط کیا ہے۔

۳۶۔ پھر جب موسیٰ ہماری واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے: یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں سے ایسی باتیں کبھی نہیں سنیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ
قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَىٰ
وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا
الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾

تفسیر آیات

۲۳۶

۱۔ معجزات حاصل ہونے اور کامیابی کی نوید سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان معجزات کو فرعون کے سامنے پیش کیا تو فرعون اور اس کے درباریوں کا رد عمل وہی رہا جو ہر طاغوت کا ہوا کرتا ہے۔

۲۔ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَىٰ: باطل جب حق کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو الزام و بہتان کا سہارا لیتا ہے۔ حق کے مقابلے میں نہ دلیل پیش کر سکتا ہے، نہ منطق، صرف وہی بہتان کہ یہ تو جادو ہے۔

۳۔ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ: یہ نعرہ یا تو موجودہ نسل کو گمراہ رکھنے کے لیے لگایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی حالانکہ ان سے پہلے حضرات نوح، ہود اور

صالح و دیگر انبیاء علیہم السلام کی دعوت تاریخ انسان میں مثبت ہے یا ہم نے ایسی باتیں نہیں سنیں اس لیے کہتے ہوں گے کہ ان کے آبا و اجداد نے بھی دعوت کو رد کیا تھا لہذا ان میں توحید کی کوئی روایت موجود نہ تھی۔

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٰ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٤﴾

۳۴۔ اور موسیٰ نے کہا: میرا پروردگار اسے جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔

تفسیر آیات

۱۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: رَبِّيٰ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ میرے مالک جانتا ہے ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور میرا مالک یہ بھی جانتا ہے کہ انجام کس کا کیا ہو گیا۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا انجام برا ہوگا چونکہ اس صورت میں، میں ظالم ہوں اور ظالم فلاح نہیں پاتے اور اگر تم ظالم ہو تو تمہارا انجام برا ہوگا اور تمہیں کامیابی حاصل نہ ہوگی۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِيٰ فَأَوْقِدْ لِي يَا مَلِكُ نَارًا فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾

۳۸۔ اور فرعون نے کہا: اے درباریو! میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا، اے ہامان! میرے لیے گارے کو آگ لگا (کر اینٹ بنا دے) پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو (جھانک کر) دیکھوں اور میرا تو خیال ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِيٰ: اپنے سوا کسی اور معبود کو میں نہیں جانتا۔ فرعون کا اپنے درباریوں سے یہ اظہار ہے کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو میرے علم میں ہوتا۔ چونکہ فرعون ان کے نزدیک معبود کا مظہر اور ابن معبود ہوتا ہے لہذا ان کی نظر میں یہ بات ممکن نہیں کہ کوئی معبود موجود ہو اور فرعون اس سے بے خبر ہو۔

۲۔ قَاوَدْنَا لِيَهَامُنْ عَلَي الطِّينِ: یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کا ایک طرز ہو سکتا ہے۔ دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کا خدا اوپر کس جگہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے لوگوں کو دھوکہ دینا مقصود ہو کہ موسیٰ کا خدا اگر آسمان میں نظر نہیں آتا تو اس کا وجود ہی نہیں جیسا کہ روسی خلا بازوں نے بھی یہی کہا تھا: ہمیں آسمان میں کہیں خدا نظر نہیں آیا۔

قرین واقع ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے کوئی ایسی عمارت نہیں بنوائی یہ بات صرف دعوت موسیٰ کا مذاق اڑانے کے لیے کہی ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں پختہ اینٹیں بنانے کا رواج تھا۔

قرآن پر بلا دلیل اعتراض اٹھانے والوں نے کہا ہے: اس زمانے میں پختہ اینٹ بنانے کا رواج نہ تھا۔ اس زمانے میں عمارتیں پتھر سے بناتے تھے جیسا کہ اہرام کی عمارت اور لبنان بعلبک کی ہیکل کبیر کی عمارت وغیرہ سب پتھروں سے بنائی گئی ہیں۔ لہذا ہامان کو پختہ اینٹ بنانے کا حکم تاریخی اعتبار سے ایک اشتباہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ پختہ اینٹ بنانے کی تاریخ، انسانی تمدن کی تاریخ کے ساتھ قدیم ہے۔ چنانچہ خود مصر میں پختہ اینٹ کی تاریخ پانچ ہزار قبل مسیح پرانی ہے۔ دریائے نیل کی تہ کی کھدائی سے پختہ بڑی اینٹیں نکل آئیں جو پانچ ہزار سال قبل مسیح کی ہیں اور دریائے نیل کے ساحل پر کچھ ایسی قبروں کا انکشاف ہوا ہے جو پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں اور تین ہزار سال قبل مسیح پرانی ہیں۔^۱

چنانچہ بابل کی قدیم عمارتیں اور آشور و سومری تمدن کے آثار ۲۵۰۰ سال قبل مسیح پرانے ہیں۔ یہ سب پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں اور طاق کسری، ایرانی بادشاہ شاپور کی تعمیر کردہ ہے جو ۲۴۱ قبل مسیح پرانی ہے۔

خود توریت سفر تکوینی اصحاح ۱۱: ۲-۴ میں آیا ہے:

نوح کی اولاد میں سے کچھ لوگ مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور شفعار (عراق) کی سرزمین پر پہنچے۔ وہاں رہائش پذیر ہوئے اور آگ پر پختہ کی ہوئی اینٹوں سے بڑا شہر بنایا۔

اس سلسلے میں مزید تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو دائرة المعارف الاسلامیہ الكبرى: ۱: ۳۷-۳۸

قدیم تاریخ مصر (الموسوعة المصرية) جلد اول۔

۳۹۔ چنانچہ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین
میں ناحق تکبر کیا اور یہ خیال کیا کہ وہ ہماری
طرف پلٹائے نہیں جائیں گے۔

وَاسْتَكْبَرُوا هُمُ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا
لَا يُرْجَعُونَ ﴿۳۹﴾

تفسیر آیات

۱۔ فرعون اور اس کے لشکر کا اس سے زیادہ تکبر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معبود کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنے حیط علم میں آنا ممکن ہونے والا کا کوئی موجود فرض کرتا ہے بلکہ چند گز بلند عمارت کی بلندی پر فرض کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتا ہے۔

۲۔ یہ گمان بھی اس قوم کی سرکشی کا سبب ہے کہ وہ اللہ کی گرفت میں آنے والے نہیں ہیں۔

فَأَخَذْنَا مِنْهُ وَالْجُودَةَ فَبَدَّلْنَاهُمْ فِي
الْيَمِّ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾

۳۰۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا، پس دیکھ لو ظالموں کا انجام کیا ہوا۔

تفسیر آیات

۱۔ چنانچہ چنداں دیر نہیں ہوئی فرعون اور اس کے لشکر کو ہم نے دریا میں غرق کر دیا اور ان کا یہ گمان کہ وہ ہماری طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، خاک میں مل گیا۔ غرق آب ہونے پر وہ ہمارے پاس پلٹ کر آ گئے اور ہماری گرفت سے نہیں بچ سکے۔

۲۔ یہ ایک کلی قانون ہے کہ ہر ظالم کا انجام بہت عبرتناک ہوگا۔

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٣١﴾

۳۱۔ اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنایا جو آتش کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔

تفسیر آیات

۱۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود اللہ نے انہیں آتش کی طرف بلانے والے بنا دیا تو ان کا کیا قصور ہے۔ اس سے مسلک جبر پر استدلال کیا جاتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ جب کسی ناقابل ہدایت انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو قرآن اس کے لیے یہ تعبیر اختیار فرماتا ہے: ہم نے اسے گمراہ کیا:

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ... ل

اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یہ لوگ (کتاب اللہ کے) کلمات کو اپنی جگہ سے الٹ پھیر کر دیتے ہیں۔

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً... ۱
لِيَكُنْ هَمُّهُمْ فِي نَفْسِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا
هَمُّهُمْ فِي نَفْسِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
لِيَمْكُرُوا فِيهَا... ۲

یہاں بھی یہی صورت ہے کہ فرعون لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے رہنما بنا ہوا ہے۔ اللہ نے رسولوں اور معجزات کے ذریعے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ جب وہ نہیں مانا تو اللہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا تھا اور اللہ نے اسے جہنم کی طرف رہنمائی کرنے کی حالت میں چھوڑ دیا۔ اس چھوڑنے کو جَعَلْنَا فرمایا ہے۔
۲- وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْصُرُونَ: قیامت کے دن ان کی شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہوگا اور وہ ہماری گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔

اہم نکات

۱- سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ خدائے مہربان کسی سے ہاتھ اٹھالے۔

وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۳
۳۲- اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے دن یہ بیچ (چہرہ والے) ہوں گے۔

تفسیر آیات

۱- چونکہ فرعون کفر و سرکشی کی ایک روایت قائم کر گیا اس لیے جب تک اس روایت کا سلسلہ جاری رہے گا اس پر لعنت کا تسلسل بھی قائم رہے گا۔
۲- وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ: روز حشر کے عذاب میں سے ایک چہروں کا مسخ ہونا، کالا ہونا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ
مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى
بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۳
۳۳- اور تحقیق ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد لوگوں کے لیے بصیرتوں اور ہدایت و رحمت (کا سرچشمہ) بنا کر موسیٰ کو کتاب دی، شاید لوگ نصیحت حاصل کریں۔

تفسیر آیات

۱۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے سرکشی کے نتیجے میں پچھلی نسلیں تباہ ہو گئیں۔ جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود حتیٰ قوم فرعون کی ہلاکت کے بعد توریت عنایت ہوئی۔ گزشتہ کی ہلاکتوں کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا ایک جدید سلسلہ شروع فرمایا:

ابوسعید خدری راوی ہیں: رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

ما اهلك قوما ولا قرنا ولا امة ولا
 اهل قرية بعذاب من السماء منذ
 انزل التوراة على وجه الارض۔^۱
 اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نہ کسی زمانے کے لوگوں کو،
 نہ کسی امت، نہ کسی بستی والے کو آسمانی عذاب سے
 توریت کے نازل ہو کے بعد ہلاک نہیں کیا۔

۲۔ بَصَّأ بِرِ اللّٰثٰسِ: توریت لوگوں کے لیے باعث بصیرت تھی جس سے حق و باطل میں تمیز کر
 سکتے تھے۔

توریت ہدایت و راہنمائی کی کتاب ہے۔ اپنے اندر رحمتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی رحمت کی بنا پر اس
 کتاب کے نازل ہونے کے بعد آسمانی عذاب نہیں آیا۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِ اِذْ
 قَضَيْنَا اِلَىٰ مُوسٰى الْاَمْرَ وَمَا
 كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۳۳﴾
 ۳۳۔ اور آپ اس وقت (طور کے) مغربی جانب
 موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا
 اور آپ مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

تفسیر آیات

مکہ والوں کے حسی مشاہدے کے مطابق رسول اللہ ﷺ اس وقت موجود نہ تھے جب اللہ طور کی
 مغربی جانب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دے رہا تھا، مغربی جانب وہی ہے جس کے بارے میں آیت ۳۰ میں فرمایا:
 مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ وادی کے دائیں کنارے سے، تو سوال یہ کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت مل رہی
 تھی اس وقت یہ رسولؐ وہاں تمہارے مشاہدے کے مطابق موجود نہ تھے، نہ ہی یہ واقعات ان کی کتابوں سے
 لیے گئے چونکہ یہ واقعات جیسے قرآن بیان کرتا ہے، توریت وغیرہ میں بھی نہیں ہیں اور نہ مکہ میں ایسے وسائل
 فراہم تھے کہ ان واقعات کو حاصل کیا جاسکے۔ اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ قرآن کے ذریعے موسیٰ کے
 حالات اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسا کہ آپؐ وہاں موجود تھے۔ یہ صرف وحی کے ذریعہ ممکن ہے۔

وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥٥﴾

۴۵۔ لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا پھر ان پر طویل مدت گزر گئی اور نہ آپ اہل مدین میں سے تھے کہ انہیں ہماری آیات سنا رہے ہوتے لیکن ہم ہی (ان تمام خبروں کے) بھیجنے والے ہیں۔

تشریح کلمات

ثَاوِيًّا: (ث و ی) النواء کے اصل معنی کسی جگہ پر مستقل طور پر اقامت کرنا کے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ: اس آیت میں لکن ”استدراک“ کا سابقہ آیت سے ربط پیدا کرنا بہت زیادہ دشوار ہے۔ ہماری فہم کے مطابق ربط کلام اس طرح ہے: مشرکین کو اس بات پر تعجب تھا کہ ہمارے درمیان اس قسم کا کوئی رسول آیا نہیں: مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخْرَى... ۱۔ ہم نے کبھی یہ بات کسی پچھلے مذہب سے بھی نہیں سنی۔۔۔

اگلی آیت میں فرمایا:

لَتَنْذِرُ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ... ۱

تاکہ آپ اس قوم کو تنبیہ کریں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا۔

لہذا محمد (ﷺ) کا دعویٰ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اس غلط فہمی کے ازالہ کے لیے فرمایا: اور تحقیق ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد لوگوں کے لیے بصیرتوں اور ہدایت و رحمت (کا سرچشمہ) بنا کر موسیٰ کو کتاب دی۔

حضرت موسیٰ (ﷺ) بھی ایک لمبے وقفے کے بعد مبعوث ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ (ﷺ) کو بھی ایک لمبے وقفے کے بعد مبعوث برسات کر رہے ہیں۔

وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ: لیکن ہوا یہ کہ ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا۔ پھر ان پر طویل مدت گزر گئی۔ یعنی اے رسول (ﷺ)! ہم آپ کو بھی موسیٰ (ﷺ) کی طرح طویل مدت کے بعد مبعوث

کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان لوگوں کو آپ کی طرف وحی نازل ہونے کی بات کو سمجھنا دشوار ہو رہا ہے۔
 ۲- وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ: نہ ہی آپ اہل مدین میں مقیم تھے کہ آپ اپنے مشاہدے کے مطابق ان مشرکوں کو ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوں۔ تَتَّوْأَعَلَيْهِمُ الْيَتَا فِي عَالِيهِمْ كِي ضَمِيرِ مُشْرِكِينَ كِي طرف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے مشاہدے کی بنا پر مشرکین مکہ کو مدین سے متعلق آیات سنا رہے ہوں۔
 ۳- وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ: لیکن ان خبروں کو بھیجنے والے ہم ہیں۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا
 وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ
 قَوْمًا مِمَّا أَتَّهُمْ مِنْ نَذِيرٍ
 مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۶﴾

۳۶- اور آپ طور کے کنارے پر موجود نہ تھے جب ہم نے ندا دی تھی بلکہ (آپ کا رسول بنانا) آپ کے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ آپ اس قوم کو تنبیہ کریں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔

تفسیر آیات

۱- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا: جیسے آپ مدین میں مقیم نہ تھے۔ اسی طرح آپ طور کے دہنی جانب بھی موجود نہ تھے۔ جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی اور کوہ طور پر بلا کر ان کو شریعت دی۔
 ۲- وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ: لیکن یہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال رہی اور آپ کو رسالت سے نوازا اور وحی کے ذریعہ آپ طور کے واقعات ایسے بتلا رہے جیسے آپ وہاں موجود تھے۔
 ۳- لِتُنذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَتَّهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ: رسالت کی رحمت آپ کے شامل اس لیے رہی کہ آپ ایسی قوم کی تنبیہ کریں جس میں آپ سے پہلے ان کو تنبیہ کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ ان میں انبیاء مبعوث نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جاہلیت کی گہرائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔
 عربوں میں حضرت ہود، صالح، شعیب اور اسماعیل علیہم السلام کے بعد صدیوں سے کوئی نبی نہیں آیا۔ البتہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی دعوتیں ان تک پہنچتی رہیں اور حجت پوری ہوتی رہی۔ مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو سورہ سجدہ آیت ۳۔

مشرکین مکہ کی معلومات کے مطابق آپ ان مقامات پر موجود نہ تھے، ان پر طویل مدت بھی گزر گئی تھی اور مکہ کی ان پڑھ قوم میں ان واقعات کا علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ پس اگر یہ قرآن وحی الہی نہیں ہے تو کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ذریعہ موجود ہوتا تو آج کے مستشرقین سے کہیں زیادہ مکہ کے مشرکین کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ اسے برملا کر دیتے اور جنگ کرنے کی نوبت نہ آتی۔

۴۷۔ اور ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں آگے بھیجی ہوئی حرکتوں کی وجہ سے اگر ان پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو وہ یہ کہنے لگیں: ہمارے رب! تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۷﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ: کل جب یہ مشرکین عذاب میں مبتلا ہوتے تو وہ اس وقت یہ احتجاج کر سکتے تھے: ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا ہم اس پر ایمان لے آتے۔

اس مضمون کو دوسری آیت میں اس طرح فرمایا:

لَوْلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ... ۱۔ تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی حجت کی گنجائش نہ رہے۔

آیت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول نہ بھیجتے تو کافروں کو اس سوال کا حق تھا کہ ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ پھر یہ کہ حجت پوری کرنے سے پہلے عذاب دینا بھی عدل نہیں ہے۔

۴۸۔ پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے: جیسی (نشانی) موسیٰ کو دی گئی تھی ایسی (نشانی) انہیں کیوں نہیں دی گئی؟ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو قبل ازیں موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا: یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جادوگر ہیں اور کہا: ہم ان سب کے منکر ہیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا آتَيْنَا مِثْلَ مَا آتَيْنَا مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَا مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرُنَ تَظْهَرًا ۖ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ وَّانٍ ﴿۴۸﴾

تفسیر آیات

۱۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا: جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے تو ان کے حیلے بہانے ختم نہیں ہوئے اور حق کو قبول نہ کیا۔

۲۔ قَالُوا لَوْلَا آتَيْنَا مِثْلَ مَا آتَيْنَا مُوسَىٰ: جیسے معجزے موسیٰ کو دیے گئے تھے انہیں کیوں نہیں دیے گئے۔ اس رسول کے پاس نہ عصا، نہ ید بیضاء ہے۔ نہ سمندر کا شق ہونے والا معجزہ ہے، نہ من و سلویٰ ہے۔

۳۔ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَا مُوسَىٰ: ان کے جواب میں فرمایا: تو کیا موسیٰ کے ان عظیم معجزات کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ عليه السلام کی تاریخ بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ اس کی طرف سے عظیم معجزات کے باوجود قوم فرعون نے ایمان قبول نہ کیا۔ تاریخ انبیاء شاہد ہے معاندین کبھی بھی معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ نہ حضرت ابراہیم عليه السلام کے لیے آتش کو گلزار ہوتے دیکھ قوم نمرود کا کوئی فرد مؤمن بنا، نہ حضرت موسیٰ عليه السلام کے نو معجزات کو دیکھ قوم فرعون ایمان لائی۔

۴۔ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا: ان معجزوں کے جواب میں فرعونیوں نے کہا: یہ تو جادو ہے ان دونوں نے اس جادو کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی ہے یعنی موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے۔ بعض کے نزدیک ان دونوں سے مراد موسیٰ عليه السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس صورت میں ایک دوسرے کی مدد سے مراد یہ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ عليه السلام کے جادو سے مدد لی ہے۔

۴۹۔ کہہ دیجیے: پس اگر تم سچے ہو تو تم بھی اللہ کی طرف
أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۴۹﴾
زیادہ ہدایت بخش ہو، میں اس کی اتباع کروں گا۔

تفسیر آیات

اگر اس قرآن اور توریت میں کسی نقص کی وجہ سے تم ان پر ایمان نہیں لائے تو تم خود ایک ایسی کتاب پیش کرو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت کے لیے موثر ہو۔ مشرکین اللہ کے وجود کو تو مانتے تھے مگر توریت و قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ اس بنیاد پر فرمایا: اگر توریت و قرآن کو نہیں مانتے ہو تو کوئی ایسی کتاب پیش کرو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو۔

۵۰۔ پس اگر وہ آپ کی یہ بات نہیں مانتے تو آپ
فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ
أَنَّ مَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ
أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ
هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
سمجھ لیں کہ یہ لوگ بس اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے سے بڑھ کر گمراہ کون ہو گا؟ اللہ ظالموں کو یقیناً ہدایت

النُّومِ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾ نہیں کرتا۔

تفسیر آیات

۱۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ: اگر وہ آپ کی یہ بات نہیں مانتے تو معلوم ہو جاتا ہے ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی کتاب موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی کتاب پیش کر سکتا ہے اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا نہ ماننا اس لیے نہیں کہ آپ کی دعوت یا آپ کی طرف سے دلیل میں کوئی کمزوری ہے۔ ان کے نہ ماننے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ تلاش حق میں مخلص نہیں ہیں۔ اس میں ان کی خواہش پرستی رکاوٹ ہے۔ یہ خواہش پرستی ہے جس کی وجہ سے کوئی دلیل مؤثر ہوتی ہے اور نہ معجزہ کارگر ہوتا ہے۔

۲۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ: خواہش پرستی گمراہی کا آخری زینہ ہے۔ جب خواہش پرستی بَعْدَ هُدًى مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر ہو تو اس خواہش پرستی سے زیادہ گمراہی ہو نہیں سکتی۔

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ۝۵۱ اور تحقیق ہم نے ان کے لیے (ہدایت کی) باتیں
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ مسلسل بیان کیں شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔

تفسیر آیات

یعنی ہم نے ان مشرکین کی ہدایت کے لیے رہنمائی کا ایک مربوط تسلسل قائم کیا ہے۔ جو آیات، سورتوں، وعدوں، عبرتوں اور تاریخ کے اسباق پر مشتمل ہے۔

چنانچہ دوسری جگہ فرمایا:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ
إِلَّا كُفُورًا ۝۱

اور تحقیق ہم نے اس قرآن میں ہر مضمون کو لوگوں کے لیے مختلف انداز میں بیان کیا ہے لیکن اکثر لوگ کفر پر ڈٹ گئے۔

۵۲۔ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی
وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔

۵۳۔ اور جب ان پر (یہ قرآن) پڑھ کر سنایا
جاتا ہے تو کہتے ہیں: ہم اس پر ایمان لے آئے،
یقیناً یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے

مُسْلِمِينَ ﴿٥٢﴾

ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی فرمانبردار تھے۔
 شان نزول: ان آیات کے شان نزول میں متعدد روایات ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیات اہل انجیل کے ان چالیس افراد کی شان میں نازل ہوئی ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے مبعوث برسات ہونے سے پہلے ان پر ایمان لا چکے تھے۔ ان میں سے ۳۲ افراد کا تعلق حبشہ سے تھا جو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ آئے۔ آٹھ افراد شام سے آگئے تھے۔ ان میں بحیراء، ابرہہ، الاشرف، ایمن، ادیس، نافع اور تمیم شامل تھے۔

تفسیر آیات

۱۔ الَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابُ مِنْ قَبْلِهِ: رسولؐ سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی ہے ان کا ذکر ہے اور یہ اہل کتاب کے مؤمنین کے ایک گروہ کی تعریف ہے جو اپنی توریت میں موجود علامات کی بنیاد پر ایمان لا چکے تھے۔

۲۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا الْمَتَابَةَ: جب ان اہل کتاب پر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں: ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور سنی برحق ہے۔

۳۔ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ: وہ کہتے ہیں ہم تو اس رسول کے مبعوث ہونے سے پہلے ان کو تسلیم کر چکے تھے۔ جن علامات کے حامل رسول آخر الزمان پر ہمیں پہلے ایمان تھا وہ یہی ذات ہے۔

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ ۖ بِمَا صَبَرُوا وَيَكْدُرُونَ
 بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ
 يُنْفِقُونَ ﴿٥٣﴾

۵۳۔ انہیں ان کے صبر کے صلے میں دوبارہ اجر دیا جائے گا اور یہ لوگ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کر دیتے ہیں اور ہم نے جو روزی انہیں دی ہے اس سے (راہ خدا میں) خرچ کرتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: ایسے اہل کتاب کو جو دین اسلام کے ایک لمحہ کے لیے بھی منکر نہیں رہے اور اپنے سابقہ دین پر بھی قائم رہے دو اجر و ثواب ملیں گے۔ بِمَا صَبَرُوا یہ دو اجر ان کے صبر و تحمل کے صلے میں ملیں گے۔ پرانے نظریے اور مذہب کو چھوڑ کر حق کی خاطر جدید مذہب کو اختیار کرنا بہت بڑا

صبر و حوصلہ مانگتا ہے۔ مذہب بدلنے کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ تمسخر و اہانت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔
 ۲۔ وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ: وہ لوگ برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ وہ مذہب بدلنے پر پیش آنے والی بدکلامیوں، طعنوں اور ملامتوں کا جواب بردباری، خوش اخلاقی اور خوش کلامی سے دیتے ہیں۔ شاید یہ جملہ صبر و استقلال کے ایک اہم مصداق کا ذکر ہے جو مذہب بدلنے والوں کو پیش آتا ہے۔
 ۳۔ وَمَارَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ: صبر، حوصلہ اور جرأت کے مصداق میں سے ایک اہم مصداق انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ وہ اپنی خواہشات کا مقابلہ کر کے مذہب بدلتے تھے۔ اس جملے میں فرمایا: اسی پاک جذبہ کے تحت وہ مال کی خواہش کا بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ دونوں کا تعلق اعلیٰ و ارفع اقدار سے ہے۔

اہم نکات

- ۱۔ برائی کا مقابلہ نیکی سے کرنا ایک جرأت مندانہ قدم ہے۔
- ۲۔ حق کی خاطر مذہب بدلنا بھی جرات مندانہ قدم ہے۔

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ
 قَالُوا إِنَّا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ
 سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي
 الْجَاهِلِينَ ۝۵۵

۵۵۔ اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے۔

تفسیر آیات

۲۳۸

۱۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ: جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ اس میں الجھتے نہیں ہیں۔ لغو وہ باتیں ہیں جن میں کوئی معقول اور مفید مضمون نہ ہو۔ یہ باتیں وقت کا ضیاع ہیں۔ یہ جدید ایمان کے میدان میں قدم رکھنے والے ان بیہودہ گولگوں سے نہیں الجھتے۔ ان کی باتوں سے غصے میں نہیں آتے اور بیہودگی کا جواب بیہودگی سے نہیں دیتے۔
 ۲۔ وَقَالُوا إِنَّا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ: ان بیہودہ گولگوں کے ساتھ الجھنے کی جگہ یہ موقف اختیار کرتے ہیں: ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ نہ ہم تمہارے اعمال کے ذمے دار ہیں نہ تم ہمارے اعمال کے ذمے دار ہو۔ ہمارے لیے اپنا حلم و بردباری ہے اور تمہارے لیے تمہاری حماقت اور بیہودگی۔

۳۔ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَأَنْبَتَ الْجَاهِلِينَ: ہماری طرف سے تم پر کوئی ضرر نہ ہوگا۔ تمہاری بدکلامی کے مقابلے میں بدکلامی نہ ہوگی۔ تمہاری بیہودگی کے مقابلے میں ہماری طرف سے امن و سلام ہے۔ واضح رہے یہ سلام، تحیت و اکرام نہیں ہے بلکہ سلام وداع و جدائی اور بیزاری ہے جیسے آیہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا اسْلَمْنَا میں سلام ہے۔

اہم نکات

۱۔ بیہودگی کا رد عمل بیہودگی نہیں، بیزاری اختیار کرنا ہے: لَأَنْبَتَ الْجَاهِلِينَ۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾
۵۶۔ (اے رسول) جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

شان نزول: اہل سنت کے مصادر میں کثرت سے یہ روایت موجود ہے کہ یہ آیت حضرت ابوطالبؓ کی وفات کے موقع پر نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوطالبؓ سے کہا: یا عم قل لا اله الا الله۔ اے چچا! لا اله الا الله پڑھیں۔ ابوطالب نے انکار کیا اور کہا: میں عبدالمطلب کی ملت پر دنیا سے جانا پسند کروں گا۔ اس مضمون کی روایت کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جگہ مل گئی ہے۔ ہم روایات کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم اس کے شان نزول کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ آیت وفات ابوطالبؓ کے موقع پر نازل ہوئی ہو۔

تحقیق کے مطابق حضرت ابوطالبؓ کی وفات سنہ دس بعثت میں ہجرت سے تین سال چار ماہ پہلے ہوئی ہے اور یہ سورہ ہجرت کے دنوں میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ سورہ حضرت ابوطالبؓ کی وفات کے تین سال بعد نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آیہ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدَكَ إِلَىٰ مَعَادِ اِسِي سورہ کی ۸۵ ویں آیت ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے: جس نے آپ پر قرآن (کے احکام) کو فرض کیا ہے وہ آپ کو بازگشت (مکہ) تک پہنچانے والا ہے۔ بغوی لکھتے ہیں: اکثر مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ معاد سے مراد مکہ ہے اور اکثر کے نزدیک یہ آیت مقام جحفہ میں نازل ہوئی جب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ خود صحیح بخاری باب التفسیر، سنن نسائی باب التفسیر و دیگر مفسرین کے نزدیک ہجرت کے موقع پر مقام جحفہ میں نازل ہوئی ہے۔ اگر وفات حضرت ابوطالبؓ سے پہلے یہ آیت

نازل ہو گئی ہوتی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ آیت از باب تطبیق وفات ابوطالب کے موقع پر تلاوت کی گئی ہے۔ اس طرح ابوطالب اس آیت کا مصداق قرار پاسکے۔ مفسرین یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت وفات ابوطالب ﷺ کے موقع پر تلاوت فرمائی بلکہ کہتے ہیں: یہ آیت اسی مناسبت سے نازل ہوئی ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ: آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کی دو

صورتیں ہیں:

پہلی صورت راستہ دکھانا، دوسری صورت منزل تک پہنچانا ہے۔

اس آیت میں پہلی صورت کا ذکر نہیں ہے چونکہ ہدایت بمعنی راستہ دکھانا کی نفی رسول کریم ﷺ سے نہیں ہو سکتی۔ رسول تو ہر ایک کو راہ راست دکھائیں گے۔ آگے کوئی اس ہدایت کو قبول کرے یا نہ کرے۔ نجات کا راستہ دکھانا رسول کا فرض منصبی ہے۔

آیت کا موضوع دوسری صورت کی ہدایت ہے۔ یعنی منزل تک پہنچانا۔ ایمان کی منزل پر فائز کر دینا یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔

ہدایت کے سلسلے میں پہلی صورت کا تعلق رسول سے ہے۔ یہاں آیات کا رخ رسول کریم ﷺ کی

طرف ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ... ۱

اے رسول! جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجیے۔

ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔

فَأَمَّا عَلَيْكَ النَّبُوءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۲

آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔

دوسری صورت کا تعلق انسانوں سے ہے۔ قبول ہدایت کے ذمہ دار رسول نہیں ہوتے بلکہ مکلف انسان ذمہ دار ہوتے ہیں جن تک رسول کی تبلیغ اور دعوت پہنچ جاتی ہے۔

كَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ... ۳

آپ کے ذمے نہیں ہے کہ انہیں (جبراً) ہدایت دیں بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

اس سلسلے میں فرمایا:

أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ۝٤

پھر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔

فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝٥

جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ ۝٦

آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔

رسول کریم ﷺ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ گمراہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں بلکہ آپ اس سلسلے میں حد سے زیادہ مشتاق رہتے تھے۔ فرمایا:

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝٧

شاید اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اپنی جان کھودیں گے۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝٨

پس اگر یہ لوگ اس (قرآنی) مضمون پر ایمان نہ لائے تو ان کی وجہ سے شاید آپ اس رنج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ: ہدایت و ایمان کی منزل تک پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے۔ خواہ

آپ کی کتنی ہی خواہش ہو کہ اسے پورا ہوتے نہ دیکھ کر آپ ﷺ کو جان سے ہاتھ دھونے کی حد تک افسوس ہو جائے۔

اس آیت کا تعلق اس سلسلہ آیات سے ہے۔ اس آیت کا لب و لہجہ ایک شخص کے عدم ایمان سے

مربوط نہیں ہے۔

ابوطالب کا ایمان

ہم ان روایات کا جائزہ لیتے ہیں جو معاذ اللہ کفر ابوطالب کے بارے میں جعل ہوئی ہیں۔
i۔ پہلی روایت ابو ہریرہ کی ہے:

جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے چچا! لا الہ الا اللہ کہیں، میں قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دوں تو ابوطالب نے کہا: اگر قریش والوں کے طعن کا ڈر نہ ہوتا کہ موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہنے پر آمادہ ہوا ہے تو میں اس کلمہ کا اقرار کرتا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ....

اس روایت میں دو باتیں قابل توجہ ہیں: اول یہ کہ روایت سے کلمہ توحید پر عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ صرف عدم اظہار کی وجہ بتائی ہے۔ دوم یہ کہ کلمہ توحید کا اقرار نہ کرنے اور موت سے ڈر میں کیا ربط ہے؟ اگر توحید کا عقیدہ دل میں تھا تو اظہار نہ کرنے کی صورت میں موت کا ڈر ہے، اگر توحید کا عقیدہ دل میں نہ تھا تو توحید کا اقرار کرنے نہ کرنے سے موت کا کوئی تعلق نہیں چونکہ مشرک موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے۔ کلمہ کہنے سے موت ٹل نہیں سکتی کہ یہ کہے: موت کے ڈر سے کلمہ کہہ کر موت کو ٹال دیا۔

اس روایت پر اہم سوال یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے بالاتفاق ہجرت کے ساتویں سال، فتح خیبر کے سال اسلام قبول کیا۔ وہ حضرت ابوطالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی رحلت کے دس سال بعد مسلمانوں کے درمیان آئے تھے۔ وفات ابوطالب ؓ کے وقت وہ ملک یمن کی دوس نامی بستی کے نہایت ناداروں میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوتے تھے اور ابو ہریرہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ واقعہ کوس سے سنا۔ اس قسم کی روایت کو مرسلہ کہتے ہیں جو قابل اعتنا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کے بارے میں علامہ شرف الدین عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابو ہریرہ اور مصری محقق محمود ابوریہ کی کتاب ابو ہریرہ شیخ المضیرۃ کا مطالعہ ضروری ہے۔

ii- دوسری روایت حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے عدم ایمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ روایت بھی مرسلہ ہے چونکہ ابن عباس وفات ابوطالب کے وقت طفل شیرخوار تھے۔ چنانچہ ابن عباس کی ولادت وفات ابوطالب کے سال ہوئی۔^۱

دوسری اہم بات یہ ہے ابن عباس کی طرف منسوب روایت کی سند میں ابو سہیل السری ہے جو کذاب سارق الحدیث ہے۔ ملاحظہ ہو البداية و النہایۃ ۵: ۳۷۶۔ میزان الاعتدال ۲: ۱۱۷ نمبر ۳۰۸۹۔ کتاب المجروحین ۱: ۳۵۵ نیز اس سند میں عبد القدوس ابو سعید الشامی دمشقی ہے۔ عبدالرزاق کہتے ہیں: میں نے ابن المبارک کو عبد القدوس کے علاوہ کسی کو کذاب کہتے نہیں سنا۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ شخص ثقہ لوگوں کی طرف نسبت دے کر حدیث جعل کرتا تھا۔^۲

iii- تیسری روایت۔ اسی موضوع پر انہی ابو سہیل السری کذاب اور عبد القدوس کذاب نے ابن عمر کی طرف نسبت دی ہے۔^۳

iv- چوتھی روایت جسے صحیح بخاری میں جگہ ملی سعید بن المسیب کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ موت کے وقت ابوطالب کے پاس ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ حاضر تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے چچا! لا الہ الا اللہ کہیں۔ ابوطالب نے یہ کلمہ کہنے سے انکار کیا۔

ہم سند کا حال دیکھتے ہیں: بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ القصص باب انک لا تہدی جلد نہم صفحہ ۸۴ طبع قسطنطنیہ میں اور شاہ نور الحق

دہلوی تیسیر القاری شرح صحیح بخاری جلد چہارم صفحہ ۶-۵ طبع مطبع علوی لکھنؤ میں لکھتے ہیں:

کرمانی نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے یہ اسناد صحیح بخاری کی شرط اور معیار کے مطابق نہیں ہیں چونکہ مسیب سے صرف اس کا بیٹا روایت کرتا ہے اور صاحب التلویح نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحابہ کی مرسل روایات میں سے ہے اور صاحب التواضح نے اس کی تائید کی ہے۔ چونکہ مسیب بنا بر قول مصعب فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والوں اور عسکری کے بقول زیر شجرہ بیعت کرنے والوں میں سے ہے۔ جو بھی ہو یہ شخص ابوطالب کی وفات کے وقت حاضر نہ تھا۔ چنانچہ ابوطالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہما دونوں ایک سال میں وفات پا گئے۔ بعض نے یہ کہہ کر اس بات کو رد کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسیب کے بعد میں اسلام لانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ابوطالب کی وفات کے وقت حاضر نہ تھے۔ جیسا کہ عبد اللہ بن ابی امیہ حاضر تھا۔ وہ اس وقت کافر تھا۔ بعد میں اسلام قبول کیا۔ جواب یہ ہے: عبد اللہ بن ابی امیہ کا ابوطالب کی وفات کے وقت حاضر ہونا صحیح روایت میں ثابت ہے لیکن وفات ابوطالب کے وقت مسیب کا کفر کی حالت میں حاضر ہونا، نہ صحیح روایت سے ثابت ہے، نہ غیر صحیح روایت سے۔ جو بات احتمال کے بغیر کی گئی ہو وہ ایک احتمال سے مسترد نہیں ہو سکتی۔ فافہم۔

حدیث ضحضاح

بخاری اور مسلم نے سفیان ثوری سے، انہوں نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے عبد اللہ بن حارث سے روایت کی ہے:

ہم سے عباس بن مطلب نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: ابوطالب آپ کی حفاظت کرتے اور آپ کی خاطر وہ لوگوں سے غیض و غضب میں آتے تھے تو اس سے ان کو کوئی فائدہ ملا؟ جواب میں فرمایا:

ان اباطالب فی ضحضاح من النار و ابوطالب آتش کے تالاب میں ہیں اگر میں نہ ہوتا لو لا انا لکان فی الدرك الاسفل۔^۱ تو (جہنم کے) نچلے طبقوں میں ہوتے۔

اس روایت کی سند میں واقع تینوں روایوں کا حال معلوم کرتے ہیں:

۱۔ سفیان ثوری کے متعلق مستند اصحاب رجال لکھتے ہیں:

انہ کان يدلس ويكتب عن وہ تدليس کا مرتکب تھا اور کذاب راویوں سے
الکذابين۔^۱ روایت لکھتے تھے۔

ii- دوسرے راوی عبدالملک بن عمیر کوفی کے بارے میں ابو حاتم کہتے ہیں: لیس بحافظ تغیر حفظہ۔ وہ حدیث کا حافظ نہیں ہے اس کا حافظ خراب تھا۔ احمد کہتے ہیں: ضعیف یغلط۔ وہ ضعیف ہے اور غلطی کرتا ہے۔
کوسج نے احمد سے نقل کیا ہے: انہ ضعهفہ جداً۔ انہوں نے عبدالملک کو بہت ضعیف قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو میزان الاعتدال۔

قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ حدیث ضحضاح قرآن کی متعدد آیات کی صراحت کے ساتھ متصادم ہے کہ جو لوگ شرک و کفر کی حالت میں مرتے ہیں ان کے لیے عذاب میں نہ تخفیف ہوگی، نہ شفاعت نصیب ہوگی۔ حدیث ضحضاح میں حضرت ابوطالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے تخفیف و شفاعت کا ذکر ہے۔

ایمان ابوطالب کے شواہد

ابوطالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسے محافظ رسول مدافع و مجاہد اسلام کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے شواہد پیش کرنے کی نوبت آنا خود ایک المیہ اور تاریخ کے مظالم میں سے نہایت افسوسناک ظلم ہے۔

۱- ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغۃ ۱۴: ۷۰ میں لکھا ہے:

روی باسانید كثيرة بعضها عن كثیر سندوں سے، بعض عباس بن عبدالمطلب سے اور بعض ابو بکر بن ابی قافہ سے روایت ہے کہ ابوطالب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے بغیر دنیا سے نہیں گئے اور یہ روایت مشہور ہے کہ ابوطالب نے اپنی موت کے وقت دھیمی آواز میں کچھ کلام کیا تو ان کے بھائی عباس نے کان لگا کر سنا تھا۔
الموت قال کلاماً خفياً فاصغى اليه اخوه العباس۔

الغدیر ۷: ۳۹۶ کے مطابق ابوالفداء نے اپنی تاریخ ۱: ۱۲۰ میں اور شعرانی نے کشف الغمۃ

۱۳۳: ۲ میں لکھا ہے:

فلما تقارب من ابی طالب الموت جب ابوطالب کے لیے موت قریب آئی تو ہونٹ

جعل يحرك شفتيه فاصغى اليه بلانے لگے تو عباس بن مطلب نے کان لگا کر سنا
العباس باذنه و قال: و الله يا ابن پھر کہا: اے میرے بھائی کے بیٹے قسم بخدا ابوطالب
اخى لقد قال الكلمة التي امرته ان نے وہی کلمہ کہہ دیا جس کا آپ اسے حکم دیتے
يقولها، فقال رسول الله: الحمد تھے۔ جس پر رسول اللہ نے فرمایا: حمد ہے اس اللہ
لله الذي هداك يا عم۔ کے لیے جس نے تجھے ہدایت دی ہے اے چچا!

۲۔ بستر رسولؐ پر

حضرت علیؑ صرف شب ہجرت بستر رسول اللہ ﷺ پر نہیں سوئے بلکہ حضرت ابوطالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم سے علی علیہ السلام کو بستر رسول پر سلاتے تھے تاکہ رات کی تاریکی میں کوئی گزند نہ پہنچ سکے۔ ملاحظہ ہو شرح نہج البلاغۃ ابن ابی الحدید ۱۴: ۶۳۔ تفصیل ملاحظہ ہو الغدير ۷: ۲۸۱
اگر ابوطالب کو رسول کی رسالت پر ایمان نہ ہوتا اور خاندانی غیرت و حمیت کی وجہ سے رسول کی حمایت کرتے تو اپنے فرزند علی علیہ السلام کو رسول کی جگہ خطرے میں نہ ڈالتے چنانچہ شعب ابوطالب میں محاصرے کے دوران ہمیشہ بستر رسولؐ پر اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو سلا دیتے تھے۔

۳۔ شامی راہب (بجیرہ) کا واقعہ

رسول اللہ ﷺ حضرت ابوطالبؑ کے ہمراہ سفر شام کے راستے میں تھے۔ بجیرہ راہب نے آپؐ میں نبوت کی علامات دیکھیں تو ابوطالب نے اس موقع پر کہا:

ان ابن امنة النبي محمداً
عندی يفوق منازل الاولاد
آمنہ کا بیٹا نبی محمد میرے نزدیک
اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔

الخصائص الكبرى ۱: ۴۴ میں بھی اس موقع کے حضرت ابوطالبؑ کے اشعار مذکور ہیں۔

۴۔ خشک سالی میں حضرت ابوطالبؑ نے رسول اللہ ﷺ کو طلب باران کے لیے وسیلہ بنایا اور اس موضوع پر آپؐ کی مدح میں ایک شعر کہا جو بڑے شہنشاہوں کی شان میں کہا جاتا ہے:

وابيض يستقى الغام بوجهه
ثمالي اليتامى عصمة للارامل
آپ کے نورانی چہرے سے باران طلب کیا جاتا ہے۔
آپ یتیموں کے سرپرست اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔

۵۔ ابو طالب رضوان اللہ علیہ نے حضرت علیؑ کو رسول اللہ ﷺ کی دائیں طرف نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے بیٹے جعفر سے فرمایا: اپنے ابن عم کے بائیں طرف نماز پڑھو۔ قریش نے ایک عہد نامہ لکھا کہ جب تک بنی ہاشم محمد کو ہمارے حوالہ نہیں کرتے مقاطعہ جاری رکھا جائے گا۔ اس عہد نامے کو کعبہ پر آویزاں رکھا کچھ دن بعد رسول اللہ نے حضرت ابو طالب کو خبر دی مجھے وحی کے ذریعہ خبر ملی ہے کہ اس عہد نامہ کو دیمک نے چاٹ دیا ہے صرف اسم اللہ کو باقی رکھا ہے۔

حضرت ابو طالب نے قریش سے کہا: اس عہد نامہ کو بغرض ترمیم دیکھا جائے۔ قریش نے سمجھا ابو طالب محمد کو ہمارے حوالہ کرنے کے لیے کچھ ترمیم چاہتے ہوں گے۔ جب نیچے اتارا، کھولنے سے پہلے حضرت ابو طالب نے قریش کو بتا دیا کہ میرے بیٹے محمد نے خبر دی ہے کہ اس عہد نامے کو سوائے اسم اللہ کے دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اگر خبر صحیح نہ نکلی تو میں محمد کو تمہارے حوالہ کر دوں گا۔ کھولا گیا تو دیکھا نام خدا کے علاوہ عہد نامے کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ اس پر قریش نے کہا: محمد جادوگر ہے۔

اس موقع پر حضرت ابو طالبؓ کے اشعار کے حرف حرف سے ایمان کی روشنی پھوٹی ہے۔ چشم بینا رکھنے والوں کے لیے طبقات ابن سعد، تاریخ یعقوبی، سیرت ابن ہشام، تاریخ ابن کثیر، الاستیعاب وغیرہ میں یہ روشنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آئے گی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الغدیر ۷: ۲۸۹۔ صرف ایک شعر ملاحظہ ہو:

نبی الا له والکریم باصله
واخلاقه وهو الرشید المؤید
وہ معبود کے نبی ہیں۔ وہ ذات و اخلاق دونوں اعتبار سے مکرم ہیں
اور وہ صاحب عقل و خرد ہیں جس کو (اللہ کی) تائید حاصل ہے۔

۶۔ قریش کے لیے ابو طالبؓ کی وصیت

موت جب قریب آگئی تو قریش کے لیے ایک وصیت فرمائی۔ اس کا ایک حصہ یہ الفاظ ہیں:

واوصیکم بمحمد خیراً فانہ الامین
فی قریش والصدیق فی العرب
وہو الجامع لکل ما اوصیتکم بہ وقد
جاءنا بامر قبلہ الجنان وانکرہ

میں وصیت کرتا ہوں کہ محمد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو
چونکہ وہ قریش میں امین عربوں میں راستگو، وہ ان
تمام اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں جو میں نے اس
وصیت میں بیان کیے ہیں وہ ہمارے پاس ایک ایسا

اللسان مخافة الشنقان... ۱۔
امر لے کر آئے ہیں جسے دلوں نے تو مان لیا مگر
زبانوں نے دشمنی کے خوف سے انکار کیا۔

۷۔ بنی ہاشم کے لیے وصیت:

لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتم امره فاتبعوه واعينوه
ترشدوا۔ ۲۔
جب تک تم محمد کا فرمان سنتے رہو گے اور ان کی
اتباع کرتے رہو گے تمہاری خیر ہوگی۔ پس ان کی
اتباع کرو اور اس کی مدد کرو، کامیاب رہو گے۔

۸۔ ادیان عالم میں بہتر دین

اس سلسلے میں ایک شعر ہے جس سے نہ صرف ان کا ایمان ثابت ہوتا ہے بلکہ اس ایمان کی قوت کا
بھی علم ہو جاتا ہے۔ فرمایا:

ولقد علمت ان دين محمد
من خير اديان البرية دينا
مجھے علم ہو گیا ہے کہ محمد کا دین تمام
انسانوں کے دین سے بہتر ہے۔

(دیوان ابوطالب)

۹۔ ابوطالب کے لیے استغفار

قرآن میں صریح حکم ہے کہ حالت شرک میں مرنے والوں کے لیے استغفار ممنوع ہے:
مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِيَّاءَ لِقُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ ۳
نبی اور ایمان والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مشرکوں
کے لیے مغفرت طلب کریں خواہ وہ ان کے قریبی
رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جب کہ یہ بات ان پر
عمیاں ہو چکی ہے کہ وہ جہنم والے ہیں۔

حضور ﷺ کی حضرت ابوطالبؓ کے لیے بعد وفات استغفار کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے تاہم
ملاحظہ ہو ابو داؤد، نسائی، بیہقی، دلائل النبوة وغیرہ جب کہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے:
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ... ۳۔
اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے
ساتھ (کسی کو) شریک ٹھہرایا جائے۔۔۔

سوال ہوا: کیا آپ ابوطالب کے لیے خیر کی امید رکھتے ہیں؟ فرمایا:

كل الخیر ارجو من ربی - میں اپنے رب سے تمام تر خیر کی امید رکھتا ہوں۔

ملاحظہ ہو طبقات ابن سعد وغیرہ۔

رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں حضرت ابوطالب رضوان اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا:
لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامۃ امید ہے قیامت کے دن میری شفاعت انہیں فائدہ
دے گی۔

ملاحظہ ہو بخاری صفحہ ۶۵۲ رقم ۳۸۸۵ بحوالہ خصائص علی علیہ السلام تحقیق قاری ظہور احمد صفحہ ۳۳۔

یہ حدیث بھی نہایت قابل توجہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے:

رسول اللہ نے مجھ سے ایک بات فرمائی جو پوری دنیا سے میرے لیے بہتر تھی۔ قال لی
کلمۃ ما احب ان لی بها الدینا۔ بعض روایات میں اس جملہ کے بعد یہ الفاظ ہیں:
یعنی فی ابی طالب حین مات۔ وہ ابوطالب کے بارے میں فرمائی ان کی وفات
کے وقت۔

۱۰۔ میں دین احمد پر ہوں

حضرت ابوطالب نے اپنے ایک شعری اقرار میں کہا:

یا شاهد الخلق علی فاشهد
انی علی دین النبی احمد
اے مخلوق پر شہادت والے تو گواہ
رہ میں احمد نبی کے دین پر ہوں۔

۱۱۔ ابوطالب کے ایمان کا منکر جہنمی ہے

روایت ہے حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایمان ابوطالب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے سائل
سے فرمایا:

انک ان لم تقر بایمان ابی طالب اگر کوئی ایمان ابوطالب کا اقرار نہیں کرتا ہے تو وہ
کان مصیرک النار۔

۱۲۔ بغض ابوطالب کفر ہے

یہ فتویٰ کسی شیعہ کا نہیں بلکہ امام اہل سنت احمد بن الحسین الموصلی الحنفی نے اپنی کتاب

شرح شہاب الاخبار تالیف علامہ محمد بن سلامۃ القضاعی متوفی ۴۵۴ھ میں لکھا ہے:

ان بغض ابی طالب کفر

علامہ علی اجہوری مالکی نے بھی اپنے فتاویٰ اور تلمسانی نے حاشیہ علی الشفاء

میں لکھا ہے:

ابو طالب کی حمایت و نصرت کا ذکر کرنا چاہیے اور ان کو برا کہنا اذیت رسول کا باعث

ہے اور رسول کو اذیت دینا کفر ہے اور کافر کو قتل کیا جاتا ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔

۵۷۔ اور کہتے ہیں: اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت اختیار کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے ایک پر امن حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں؟ یہ رزق ہماری طرف سے عطا کے طور پر ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ
تُخْطَفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ
نَمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى
إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا
مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ: بعض مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی حقانیت کو مان لینے کے بعد ان پر ایمان لانے کے لیے یہ عذر پیش کیا: اگر ہم ایمان لے آئیں تو عرب مشرکین ہمیں مکہ کی سرزمین سے اٹھا کر اپنا اسیر بنا کر لے جائیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لاتے۔

۲۔ أَوْ لَمْ نَمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا: تمہیں ہم نے ایک ایسے حرم میں بسایا ہے جس میں امن و سلامتی ہے۔ عرب آپس کے قتل و غارت اور جنگ و قتال میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن شہر مکہ میں ہر قسم کا امن و سلامتی ہے۔ کسی قسم کی جنگ اور اسیری کا یہاں کوئی خوف نہیں ہے۔

۳۔ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ: حرم مکہ میں نہ صرف کوئی خوف نہیں ہے بلکہ یہاں کی معیشت کی حالت بھی دوسرے علاقوں سے بہتر ہے۔

۵۸۔ اور کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ
مَعِيشَتَهَا فِتْلِكَ مَسَكْنَهُمْ لَمْ
تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَ
كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿۵۸﴾

جن کے باشندے اپنی معیشت پر نازاں تھے؟ ان
کے بعد ان کے مکانات آباد ہی نہیں ہوئے مگر
بہت کم اور ہم ہی تو وارث تھے۔

تشریح کلمات

بَطَرَتْ: (ب ط ر) البطر وہ دہشت جو خوشحالی کے غلط استعمال، حق نعمت میں کوتاہی اور نعمت کے غلط استعمال سے انسان کو لاحق ہوتی ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ: نعمتوں کی فراوانی پر طغیانی کی وجہ سے گذشتہ قوموں کی بہت سی بستیاں تباہ ہوئیں۔
۲۔ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ: ان کے بعد ان کے مکانات کو آباد کرنے والے بھی نہ رہے۔ ان کی نسلیں بھی تباہ ہوئیں۔ صرف چند ہی لوگ رہ گئے۔
۳۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ: اللہ فرماتا ہے: ہم ہی وارث بنے۔ ہمارے علاوہ ان گھروں کا مالک بننے کے لیے کوئی باقی نہ رہا۔

۵۹۔ اور آپ کا رب ان بستیوں کو تباہ کرنے
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى
حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ آخِرَةٍ سُوْلًا
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا
مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا
ظَالِمُونَ ﴿۵۹﴾

والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول
نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے
اور ہم بستیوں کو تباہ کرنے والے نہ تھے مگر یہ
کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوئے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى: یہ ایک حکم کلی اور قانون عام ہے کہ جب تک حجت پوری نہیں ہوتی، احکام بیان نہیں ہوتے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ نہیں جاتا، اس وقت تک انسان اس حکم کا

جوابدہ نہیں ہے جو ابھی بیان ہی نہیں ہوا۔

۲۔ حَتَّىٰ يَبِيعَتْ فِئَ أُمَّهَارِ سُوْلًا: جب تک بستیوں کے مرکز میں رسول نہ بھیج دے۔ یہ ایک کلی دستور کا بیان ہے جس پر تاریخ انبیاء میں عمل ہوتا رہا۔ بستیوں کے مرکز کہیے یا دارالحکومت، اس میں رسول مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں تک پیغام حق پہنچانا آسان بنانا چاہتا ہے۔ صدر مقام کی طرف اطراف کی بستیوں کا رجوع ہوتا ہے۔ مرکز میں پیش آنے والا ہر واقعہ اطراف کی بستیوں تک آسانی اور سرعت کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ مرکز میں پیش آنے والے واقعہ کو اہمیت مل جاتی ہے۔

ثانیاً صدر مقام اور مرکز کے رہنے والے تمدن یافتہ، تہذیب کے مالک ہوتے ہیں۔ جب کہ پسماندہ علاقوں کے لوگوں میں یہ بات نہیں ہوتی۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا...۔ لے مرکز میں رونما ہونے والے واقعات سے اطراف کی بستیاں متاثر ہوتی ہیں جب کہ بستیوں کے واقعات سے مرکز کے لوگ اثر نہیں لیتے۔

۳۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ: رسول مبعوث ہونے کے بعد اگر وہ اس رسول کی تکذیب اور اس پر ظلم نہ کریں تو صرف ایمان نہ لانے پر بھی ہم انہیں ہلاکت میں نہیں ڈالتے بلکہ اتمام حجت ہونے پر جواباً قبول حجت کی جگہ تکذیب و ایذاء کی صورت میں انہیں ہلاکت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مکہ کے مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ ان پر عذاب نازل ہونے کی تمام شرائط موجود ہیں۔ ان کے صدر مقام مکہ میں رسول مبعوث ہوئے۔ اس رسول کی طرف سے آیات کی تلاوت بھی ہو رہی ہیں اور اہل مکہ اس رسول پر ظلم کا پہاڑ توڑ رہے ہیں۔

اہم نکات

۱۔ اتمام حجت اللہ کی طرف سے، جواباً ظلم و ستم لوگوں کی طرف سے ہوا تو اس قوم پر ہلاکت آ جائے گی۔

۲۶۱

۶۰۔ اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ اس دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ (اس سے) زیادہ بہتر اور پائیدار ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟

وَمَا أَوْتَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعِ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ
خَيْرٌ وَأَبْقٰى ۗ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۰﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَمَا أَوْتَيْنَا مِنْ شَيْءٍ: جو لوگ حق کے ظاہر ہونے کے باوجود دنیوی زندگی کے متاثر ہونے

کے خوف سے ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے یہ خطاب ہے جیسا کہ ان لوگوں نے کہا تھا:
 اِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَخْلِفْ مِنْ اٰرْضِنَا...
 اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت اختیار کریں ہم
 اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔

اس کے جواب میں فرمایا: اول تو ایمان لانے سے تمہاری دنیوی زندگی متاثر نہیں ہوگی۔ ثانیاً اگر متاثر ہو بھی
 جائے تو یہ چند روزہ فانی زندگی متاثر ہوگی مگر تمہاری ہمیشہ کی ابدی زندگی سنور جائے گی اور ایمان نہ لانے
 سے ابدی زندگی متاثر ہوگی اور چند روزہ فانی زندگی بحال رہے گی۔

۲۔ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ: کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ چند روز کی زندگی کے لیے ابدی زندگی کو ختم کر
 رہے ہو جب کہ تمام عقلاء اپنے مستقبل کی آسائش کے لیے بہت مشقت اٹھاتے ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ
 بڑے مفادات کے لیے چھوٹے مفادات اور لمبی آسائش کے لیے مختصر آسائش کی قربانی دی جائے اور عمر بھر
 کے آرام کے لیے وقتی درد و الم پر صبر کیا جائے۔

اہم نکات

۱۔ عقل کا تقاضا ہے کہ ایک تابناک مستقبل سنوارنے کے لیے کچھ دن مشقت برداشت کی
 جائے۔

۶۱۔ کیا وہ شخص جسے ہم نے بہترین وعدہ دیا ہے اور
 وہ اس (وعدے) کو پا لینے والا ہے اس شخص
 کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی
 زندگی کا سامان فراہم کر دیا ہے؟ پھر وہ قیامت
 کے دن پیش کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔
 اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ
 لَا قِيَّهٖ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ
 الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ
 الْمُخْضَرِّينَ ﴿٦١﴾

تفسیر آیات

اس آیت میں بھی دو زندگیوں کا موازنہ ہے کہ ایک زندگی یہ ہے کہ اللہ نے جس جنت اور نعمت
 سے مالا مال ابدی زندگی کا وعدہ کیا ہے، فَهُوَ لَا قِيَّهٖ وہ وعدہ الہی ہے۔ اس پر وعدہ خلائی کا امکان نہیں ہے:
 اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ... ل

جس زندگی میں وہ وعدہ الہی سے بہرہ ور ہو رہا ہے کیا یہ اس زندگی کی طرح ہو سکتی ہے جو چند روز کی
 زندگی کے وقتی عیش و آرام کے لیے گناہ کا بوجھ اٹھائے اور یہ بوجھ لے کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس مقدمہ

کے لیے حاضر ہو جائے جس کے ہارنے کے نتیجے میں وہ اپنی ابدی زندگی ہار جاتا ہے؟ ابن عباس کی روایت ہے: اَفَمَنْ وَعَدَلُهُ... حمزہ، جعفرؓ اور علیؓ کی شان میں ہے اور كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ... ابو جہل کے بارے میں ہے۔ اسی مضمون کی روایت مجاہد سے ابان بن تغلب اور ابن جریج نے بیان کی ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر طبری ذیل آیت۔

اہم نکات

- ۱- وعدہ الہی پر بھروسے سے ہی سعادت کی زندگی ملتی ہے۔
- ۲- دنیا کی زندگی میں کامیابی ابدی نجات کی علامت نہیں ہے۔
- ۳- غافلانہ زندگی کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔

۶۲- اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا: کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے؟

۶۳- جن پر (اللہ کا) فیصلہ حتمی ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے: ہمارے پروردگار! یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے انہیں گمراہ کیا تھا، (اب) ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے۔

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَّا نَانًا يَعْجُدُونَ ﴿٦٣﴾

تفسیر آیات

- ۱- وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ: قیامت کے دن جب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ حقائق سامنے آئیں گے تو ان سے سوال ہوگا: کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا؟
- ۲- قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ: ان میں سے جن پر عذاب الہی حتمی ہو چکا ہوگا اور نجات کے سارے راستے بند ہو چکے ہوں گے۔ قسمت کا فیصلہ دیکھ چکے ہوں گے۔ وہ اس طرح اعتراف کریں گے:

۳۔ هُوَ لَاءَ الَّذِينَ اٰغْوَيْنَا: یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ یعنی مخاطبین میں سے کفر کے سرکردہ لوگ جواب دیں گے: ان لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔

۴۔ اٰغْوَيْنَهُمْ كَمَا اٰغْوَيْنَا: ان لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا۔ ہمارے اشارے پر یہ گمراہ ہوئے۔ ہم نے کسی پر جبر نہیں کیا۔ جس طرح ہم خود اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے تھے۔ ہم پر بھی کسی نے جبر نہیں کیا۔

۵۔ تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ: اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں۔ ان کے مشرکانہ عمل سے بیزاری اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے اختیار سے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اسی بنا پر ان لوگوں نے اگلا جملہ کہا:

۶۔ مَا كَانُوا اِلَّا نَائِبِيْنَ عَنْكَ: یہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے۔ ہماری پرستش اس وقت ہوتی جب ہم ان کو مجبور کرتے۔ اب چونکہ ان لوگوں نے اپنے اختیار سے شرک کیا ہے لہذا اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔

ان کی منطق یہ ہے کہ اگر ہم نے ان سے جبراً شرک کا کام لیا ہوتا تو یہ ہمارا عمل شمار ہوتا۔ ہم نے تو صرف ان کو دعوت دی تھی اس کو ان لوگوں نے اپنے اختیار سے قبول کیا ہے لہذا یہ خود ان کا عمل شمار ہوگا۔ (استفادہ از المیزان)

اہم نکات

- ۱۔ غیر خدا پر بھروسہ ایک واہمہ ہے۔
- ۲۔ ہمیشہ دوسروں کو وہ لوگ گمراہ کرتے ہیں جو خود گمراہ ہیں۔

۶۴۔ اور (ان سے) کہا جائے گا: اپنے شریکوں کو بلاؤ تو یہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور وہ عذاب کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، (اس وقت تمنا کریں گے) کاش وہ ہدایت پر ہوتے۔

وَقِيلَ اٰذْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَهُمْ
رَاَوْ الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا
يَهْتَدُوْنَ ﴿۶۴﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَقِيلَ اٰذْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ: ان سے کہا جائے گا: جنہیں تم نے شریک بنایا ہے انہیں آج مکہ کے لیے بلاؤ کہ وہ تمہیں اس عذاب سے بچالیں۔ یہ ان کی رسوائی کا اعلان ہے۔

۲۔ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَهُمْ: پس انہوں نے ان شریکوں کو پکارا۔ قیامت کے دن حقائق

سامنے آچکے ہوتے ہیں۔ ان کو علم ہو گیا ہوتا ہے کہ ان کے شریک تو ایک واہمہ کے علاوہ کچھ نہ تھے تو ان کو کیسے بلایا ہوگا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے: اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے شریکوں کو بلاتے تو بھی کوئی جواب نہیں ملتا تھا یا اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے: اذْعُوا شُرَكَاءَكُمُ ان مشرکین کی رسوائی کی ایک تعبیر ہے۔ اور فَدَعَوْهُمْ ان مشرکین کی حسرت کی تعبیر ہے کہ دنیا میں انہی بتوں اور غیر اللہ کو پکارتے رہے۔ آج اگر کچھ ان سے بنا تو ضرور ان کو پکارتے۔

۳۔ وَرَأَوُ الْعَذَابَ: خود معبودوں سے کسی قسم کا جواب تو کیا ملتا تھا اس کی جگہ عذاب کا مشاہدہ ہونے لگا۔ اس وقت وہ آرزو کریں گے: کاش ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ آج کا یہ سیاہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ میں لَوْ بمعنی تمنا لیا جائے گا۔

اہم نکات

۱۔ غیر مومن کے لیے قیامت کا دن حسرت کا دن ہے۔

وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا
أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾
۶۵۔ اور اس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے
گا: تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟
فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ
فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾
۶۶۔ تو ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں چلے گا (جن
سے رسولوں کو جواب دیا ہے) اور اس دن وہ
ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ: قیامت کے دن جب منکروں سے سوال ہوگا کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت کا کیا جواب دیا ہے تو ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ مشورہ کر کے کوئی عذر گڑھ دیا جائے۔

۲۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ: ایسی کسی قسم کی بات کا وجود نہیں جس سے یہ لوگ جواب دیں۔

۳۔ فَهُمُ لَا يَتَسَاءَلُونَ: چونکہ منکرین سب اس مسئلے میں برابر ہیں۔ لہذا ایک دوسرے سے پوچھنے کا بھی کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔

اہم نکات

۱۔ قیامت کے دن منکروں سے کوئی عذر نہیں بنے گا۔

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۖ لِيُنْفِئَهُ اللَّهُ بِرَبِّهِ تَابًا ۖ لِيَكُونَ مِنَ الْمُتَابِعِينَ ﴿٦٧﴾
 لیکن جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک
 عمل بجالائے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے
 والوں میں سے ہو جائے گا۔

تفسیر آیات

مگر وہ لوگ جو منکر ہونے کے بعد توبہ کر کے ایمان لے آئے تو ایمان ان کے سابقہ شرک و انکار
 جیسے عظیم گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور عمل صالح ان کا زادِ آخرت بنتا ہے تو ایمان اور عمل صالح
 کی وجہ سے یہ لوگ نجات پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ عسلی اللہ کی طرف سے نویدِ نجات ہے۔

اہم نکات

۱۔ توبہ، ایمان، عمل صالح نجات کے ضمانت شدہ وسیلے ہیں۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ
 وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾
 اور آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے خلق کرتا
 ہے اور منتخب کرتا ہے، انہیں انتخاب کرنے کا
 کوئی حق نہیں ہے، اللہ پاک بلند و برتر ہے
 اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ: خطاب رسول کریم ﷺ سے ہے کہ یہ مشرکین آپ کے رب
 کے اقتدارِ اعلیٰ میں مداخلت کرتے ہیں جب کہ خلق و اختیار اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ جس طرح خلق میں
 اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح اختیار و انتخاب میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ مشرکین اپنے لیے وسیلہ
 (بت) کو خود اختیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے اقتدارِ اعلیٰ میں مداخلت ہے حالانکہ جس طرح تخلیق میں اس کا
 کوئی شریک نہیں ہے، تشریح و قانون سازی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے بلکہ اختیار، تخلیق کا لازمہ ہے۔ جب
 اللہ کے علاوہ کوئی خلق نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ اختیار و انتخاب بھی نہیں کر سکتا۔

۲۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ: تشریحی امور کے اختیار کی نفی ہے کہ غیر اللہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ
 جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں اپنا فیصلہ اور انتخاب لے آئے۔ واضح رہے کہ
 یہ افعال عباد سے متعلق نہیں ہے کہ نظریہ جبر کی نفی و اثبات پر اس سے استدلال کیا جائے بلکہ قانون سازی و
 تشریحی امور کے بارے میں ہے۔

۳۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ: اللہ کی ذات پاکیزہ و منزہ ہے اس خیال و تصور سے کہ کسی غیر اللہ کو اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کا حق ہو۔ چونکہ یہ مداخلت گستاخی ہے۔
۴۔ عَمَّا يُشْرِكُونَ: اس کی ذات بلند و برتر ہے اس بات سے کہ کسی غیر اللہ کو اس کے اقتدار اعلیٰ میں شریک ہونے کا حق ہو۔

۶۹۔ اور آپ کا پروردگار وہ سب باتیں جانتا ہے جنہیں ان کے سینے پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔
وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۶۹﴾

تفسیر آیات

اس بات کی حکمت کا بیان ہے کہ اختیار و انتخاب کا حق صرف اللہ کے لیے کیوں مخصوص ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احاطہ علمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب فرماتا ہے تو اس علم کی بنا پر انتخاب کرتا ہے جو اس منتخب کے ظاہر و باطن کا ہے، اس علم سے اس کا لائق انتخاب ہونے یا نہ ہونے کا تعین ہوتا ہے۔

اہم نکات

۱۔ غیر اللہ کے پاس وہ احاطہ علمی نہیں ہے جو انتخاب و اختیار کے لیے ضروری ہے۔

۷۰۔ اور وہی تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
ثنائے کامل اسی کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور
آخرت میں بھی اور حکومت اسی کے ہاتھ میں
ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ
فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۚ وَ لَهُ
الْحُكْمُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۷۰﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ: آپ کا رب ہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ معبود ہونے کے اعتبار سے بھی انتخاب کا حق اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ چونکہ عبادت رب، یعنی مالک کی ہوتی ہے لہذا مملوک کا انتخاب صرف مالک کرے گا۔

۲۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ: عبادت تعظیم قول و عمل کو کہتے ہیں اور حمد و ثنا سے ہی تعظیم ہوتی ہے۔ حمد و ثنا بھی دنیا و آخرت میں اللہ کے ساتھ مختص ہے کیونکہ کسی غیر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے تو

اس کمال کی بنیاد پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت فرمایا ہے۔ واضح رہے جو تعظیم رب اور خالق سمجھ کر نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے۔

۳- وَلَهُ الْحُكْمُ: فیصلے کا حق بھی صرف اللہ کو حاصل ہے۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں کسی غیر کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ کسی غیر اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز حلال و حرام یا جائز و ناجائز نہیں ہوتی۔ غرض کسی قسم کا قانون زیست بنانا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔

۴- وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ: جو قانون بنائے گا اسی کے سامنے جوابدہی ہوگی۔ وہی باز پرس کر سکتا ہے۔

اہم نکات

۱- فیصلہ اسی کا ہوگا جو لائق حمد و ثنا اور معبود ہے۔

۱- کہہ دیجیے: یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ④

۲- کہہ دیجیے: یہ تو بتاؤ کہ اگر قیامت تک اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم (چشم بصیرت سے) دیکھتے نہیں ہو؟

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ④

تشریح کلمات

سَرْمَدًا: (س ر م د) السرمد کے معنی دائم، ہمیشہ کے ہیں۔

تفسیر آیات

۱- أَرَأَيْتُمْ: یہ ترکیب اخباری مجھے بتاؤ کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔

۲- إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّيْلَ سَرْمَدًا: اس آیت کا مطمح نظر تدبیر عالم ہے جس میں شب و روز کی آمد و رفت کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ تدبیر حیات میں شب و روز کے تبادل کو اگر بالفرض ختم کر دیا جائے اور ہمیشہ رات رہے تو تدبیر حیات میں جو خلل رونما ہوگا، کون ہے جو اس خلل کو دور کرے، روشنی لے

آئے اور اہل ارض کو نابودی سے بچائے؟

۳۔ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَا تَيْبَاتٍ بِضِيَاءٍ: اگر کوئی تدبیر عالم میں واقع ہونے والے خلل کو درست کرنے والا ہوگا تو وہ معبود ہوگا۔ صرف معبود یہ کام کر سکتا ہے۔ کوئی معبود جو ایسے خلل کو درست کر کے اپنی معبودیت کو ثابت کر دے، اگر نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

اس آیت سے یہ نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ خلق اور تدبیر ناقابل تفریق ہے۔ چنانچہ روز و شب کے خالق نے ان دونوں کی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ تدبیر عالم کا نظام قائم رہے۔ نہ رات کو دائمی خلق کیا، نہ دن کو۔ ۴۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا: اگر اللہ کے علاوہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ میں اس کائنات کی تدبیر ہے تو اس جاری نظام میں موجود لیل و نہار میں اپنے تدبیری عمل کا چھوٹا سا مظاہرہ کر کے دکھائیں اور رات کا سلسلہ اگر جاری رہے تو دن لانا اگر ممکن نہیں تو تھوڑی سی روشنی ہی لا کر اپنی قدرت نمائی کریں۔ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تو پھر غیر اللہ کے پاس کون سی تدبیر ہے۔

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۴﴾

۴۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو (یکے بعد دیگرے) بنایا تاکہ تم (رات میں) سکون حاصل کر سکو اور (دن میں) اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرو اور شاید کہ تم شکر بجا لاؤ۔

تفسیر آیات

دن اور رات کے بارے میں انسان غور نہیں کرتے کہ دن کی روشنی حیات بخش اور رات کی تاریکی سکون بخش ہونے کے باوجود یہ دونوں اگر یکے بعد دیگرے نہ آتے بلکہ ہمیشہ دن ہوتا یا ہمیشہ رات ہوتی تو اس کرہ ارض پر زندگی مفقود ہوتی۔ اللہ اس نظام کو زندگی کے لیے مناسب اور مربوط نہ بناتا تو کون ہے جو اسے مربوط بنائے۔

۵۔ اور جس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۵﴾

۵۔ کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے؟

اس مضمون کی آیت کا دوبارہ اس لیے ذکر ہوا چونکہ آنے والے مضمون کے لیے یہ تمہید ہے۔

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٥﴾

۵۷۔ اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکال لائیں گے پھر ہم (مشرکین سے) کہیں گے: اپنی دلیل پیش کرو، (اس وقت) انہیں علم ہو جائے گا کہ حق بات اللہ کی تھی اور جو جھوٹ باندھتے تھے وہ سب ناپید ہو جائیں گے۔

تفسیر آیات

۱۔ ہر امت سے ایک گواہ پیش کیا جائے گا۔ یہ گواہ ایسے ہوں گے جن کی گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ کی حقانیت بھی واضح ہو جائے گی اور اس کے خلاف کسی قسم کی دلیل بھی کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس گواہی کی نوعیت وہ نہ ہوگی جو ہماری دنیا میں متعارف ہے۔ گواہ کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ گواہ وہ ہستی بن سکتی ہے جو اعمال کا مشاہدہ کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گواہ وہ ہوگا جس کی گواہی کے بعد حقائق آشکار اور اللہ کی حقانیت روشن ہو جائے گی چونکہ یہ گواہی مشرکین کے معبودوں کے بارے میں قائم ہونے والے مقدمہ میں پیش ہوگی۔

۲۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ: مشرکین سے کہا جائے گا۔ ان غیر اللہ کے معبود ہونے پر اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ دلیل گواہوں کی گواہی کے مقابلے میں پیش ہونی چاہیے یا یہ کہیے مشاہدے اور عیاں ہونے کے مقابلے کی ہونی چاہیے۔

۳۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ: اس جگہ ان مشرکین پر یہ حقیقت کھلے گی کہ صرف اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا برحق تھا۔ یہ حقیقت دنیا میں کھلی تھی لیکن قیامت کے دن مشاہدے کے ساتھ حقیقت سامنے آئے گی۔

۴۔ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ: جن موہومات کی وہ پرستش کرتے تھے ان کا وہاں نام و نشان نہ ہوگا۔

۷۶۔ بے شک قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا پھر وہ ان سے سرکش ہو گیا اور ہم نے قارون کو اس قدر خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بارگراں تھیں، جب

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ

قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْفَرِحِينَ ⑤
اس کی قوم نے اس سے کہا: اترانا مت یقیناً اللہ
اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

تشریح کلمات

تنوء: (ن و ء) ناء۔ مثل ناع کے ہے جس کے معنی رکھنے کے ہیں۔
العصبة: (ع ص ب) وہ جماعت جس کے افراد ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہوں۔

تفسیر آیات

۱۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى: قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس نے اپنی قوم سے
غداری کی، فرعون سے جا ملا اور اس کا مقرب بن گیا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں فرعون اور
ہامان کے بعد سب سے آگے تھا۔ بائبل میں اس کا نام قاروح آیا ہے اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد
بھائی بتایا ہے۔

۲۔ وَآتَيْنَاهُ: بائبل نے قارون کی دولت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی کنجیاں تین سو نچروں کا
بوجھ بن جاتی تھیں۔ قرآن نے اس کی واقعی صورت حال بیان فرمائی: اس کے خزانوں کی چابیوں کی تعداد
اس قدر تھی کہ ایک طاقتور جماعت کے لیے بارگراں تھیں۔

۳۔ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ: جب قارون کی قوم نے اس سے کہا: دولت کے نشے میں اترانا
مت۔ دولت کا نشہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد قدریں بدل جاتی ہیں۔ حتیٰ اسے بھی بھول جاتا ہے جس
نے مال دیا، نعمت دی۔ اپنے محسن کو بھول جاتا ہے۔ صرف مالی قدروں کو جانتا ہے۔ وہ غریبوں کو حقارت کی
نظر سے دیکھتا ہے۔ دولت انسان سے تمام انسانی قدریں چھین لیتی ہے۔ جب وہ دولت کے نشے میں اترتا
ہے، تکبر سے تمام رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ باغی اور سرکش ہو جاتا ہے۔

۴۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ: ایسے اترانے والے چونکہ بندگی کے تمام رشتے توڑ دیتے ہیں،
اللہ انہیں پسند نہیں فرماتا۔

اہم نکات

۱۔ دولت کی بہتات انسان سے تمام انسانی قدریں چھین لیتی ہے۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ
الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الْأُولَىٰ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
۱۔ اور جو (مال) اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے
آخرت کا گھر حاصل کر، البتہ دنیا سے بھی اپنا

الدُّنْيَا وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٤٥﴾

حصہ فراموش نہ کر اور احسان کر جس طرح اللہ
نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین میں
فساد پھیلنے کی خواہش نہ کر یقیناً اللہ فساد یوں کو
پسند نہیں کرتا۔

تفسیر آیات

انسانی قدروں سے آشنا اور مال کی حقیقی حالت کی شناخت رکھنے والے لوگوں نے دولت کے نشے
میں بدمست لوگوں کو درج ذیل نصیحتیں کیں:

۱- وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ: اس مال سے اپنی آخرت کا گھر آباد کرو۔ اس صورت
میں مال، ذخیرہ آخرت کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور وہ مال کا انفاق ہے۔ غریبوں پر اور راہ خدا میں ہو۔
صرف مال کے ذریعے وہ نیکی حاصل کی جاسکتی ہے جس میں ایک نیکی سات سو نیکیوں کے برابر ہوتی ہے اور
مال ہی کے ذریعے برکی منزل پر فائز ہو سکتا ہے۔

۲- وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا: البتہ دنیا سے وہ حصہ جو تمہاری بااحترام زندگی اور جائز
ضروریات کے لیے ہے اسے فراموش نہ کرو۔ دنیاوی مال کا وہ حصہ جو اس دنیا کی جائز ضروریات سے مربوط
ہے اس کا حصول عبادت بلکہ جہاد ہے۔ حضرت امیر المومنین علیؑ سے روایت ہے:

يَا ابْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فَوْقَ قُوَّتِكَ اے فرزند آدم! جو تو نے اپنی غذا سے زیادہ کمایا ہے
فَأَنْتَ فِيهِ خَازِنٌ لِّغَيْرِكَ۔^۱
اس میں تو دوسرے کا خزانچی ہے۔
اس آیت کے ذیل میں حضرت علیؑ سے منقول ہے۔

لَا تَنْسَ صِحَّتَكَ وَ قُوَّتَكَ وَ فَرَاغَكَ اپنی صحت، قوت، فراغت، جوانی اور شادابی سے
وَ شَبَابَكَ وَ نَشَاطَكَ اَنْ تَطْلُبَ بِهَا
الْآخِرَةَ۔^۲

۳- وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ: جس طرح یہ مال و دولت اللہ کی طرف سے تم پر احسان
ہے، تو بھی اسی مال کے ذریعے لوگوں پر احسان کرو۔ اس مال سے غریبوں کی مدد کر کے شکر نعمت، شعور نعمت،
قبول نعمت کا حق ادا کرو۔

۴- وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ: اس مال کے ذریعے زمین میں فساد نہ کرو۔ دوسروں پر

زیادتی اور حصول دولت کے لیے ان کا استحصال کر کے فساد پیدا نہ کرو۔

اہم نکات

- ۱- ترک دنیا کے بغیر دولت سے آخرت کو آباد کرو۔
- ۲- اللہ کے احسان کا شکر یہ ہے کہ دوسروں پر احسان کرو۔
- ۳- بے ایمان دولت مند فساد پھیلاتا ہے۔

۷۸- قارون نے کہا: یہ سب مجھے اس مہارت کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جو اس سے زیادہ طاقت اور جمعیت رکھتی تھیں اور مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰی عِلْمٍ
عِنْدِيْۗ اَوْلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ
اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ
هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ
جَمْعًا وَّلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمْ
الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٨﴾

تفسیر آیات

۱- قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِيْ: قارون نے ان نصیحتوں کے جواب میں کہا: یہ دولت میں نے خود اپنی مہارت اور سمجھداری کی بنیاد پر جمع کی ہے۔ اس دولت کے حصول میں کسی اور کی طرف سے کوئی احسان نہیں۔ دوسرے لفظوں میں قارون نے کہا: یہ مال و دولت میری اپنی مہارت اور ہنرمندی کا نتیجہ ہے۔ اس میں کسی غیبی طاقت کا کوئی دخل نہیں ہے۔

مادی انسان کی سوچ قدیم ایام سے یہی رہی ہے کہ جو عقل و فکر مہارت، ہنر اور دولت اس کے پاس ہے وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے بلکہ خود اس نے پیدا کی ہے۔

۲- اَوْلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ: اگر اس نے یہ دولت صرف اپنی مہارت اور ہنرمندی سے حاصل کی ہے تو اسی مہارت کے ذریعے اس دولت کو بچا لینا اور تحفظ دینا چاہیے جب کہ قارون سے زیادہ طاقتور لوگ اپنی طاقت و مہارت کے ذریعے اپنے اموال کو تحفظ نہیں دے سکے۔ پس معلوم ہوا اصل مال و دولت کا سرچشمہ تو وہی ہے جو اسے تحفظ دے سکتا ہے۔

۳- وَّلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمْ الْمُجْرِمُوْنَ: مجرموں کو بغیر حساب کے جہنم بھیج دیا جائے گا۔ جن کے جرم کی نوعیت یہ ہو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے سرے سے منکر ہوں ایسے مجرموں سے قیامت کے دن سوال و حساب

نہ ہوگا۔ جیسا کہ سورہ الرحمن آیت ۳۹ میں فرمایا:

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا
جَانٌّ ۝

پھر اس روز کسی انسان سے اور کسی جن سے اس
کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔

اس عدم سوال کی وجہ اگلی آیت ۴۱ میں بتائی:

يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ
بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ۝

مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے پھر وہ
پیشانیوں اور پیروں سے پکڑے جائیں گے۔

اہم نکات

۱۔ نعمتوں پر ادائے شکر نہ کرنا قابل اغماض ہے لیکن انکار نعمت قابل درگزر نہیں ہے۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ
قَالَ الَّذِينَ يَرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۗ
إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝

۷۹۔ (ایک روز) قارون بڑی آرائش کے ساتھ
اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیا پسند لوگوں نے
کہا: اے کاش! ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا
جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک یہ تو بڑا ہی
قسمت والا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ: ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے
آیا۔ اس میں اس نے اپنی دولت کی نمائش کی اور اپنی ثروت کا مظاہرہ کیا۔

دولت کی اس نمائش کی نوعیت کیا تھی؟ اسرائیلیات پر مبنی بڑی کہانیاں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی لیکن
ہم اس کی نوعیت کی طرف نہیں جاتے۔ قرآن کی صراحت سے اتنا ضرور علم ہوتا ہے کہ قارون نے اپنی دولت
و ثروت کا ایک قابل توجہ مظاہرہ کیا تھا۔

ثروت مند لوگ مختلف مناسبات میں، مثلاً شادیوں میں اپنی دولت کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں جس
سے وہ اپنی شخصیت کا قد بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر مادی سوچ رکھنے والے متاثر ہوتے ہیں اور
ایسے لوگوں کو عظیم سمجھتے ہیں اور کچھ غریب لوگوں میں احساس محرومیت بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں
حسرت پیدا ہوتی ہے کاش ہم بھی اس شخص کی طرح ثروت مند ہوتے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں جذبہ انتقام
بیدار ہو جاتا ہے۔ کچھ کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے۔

۲- قَالَ الَّذِينَ يَرْتَمُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا: دنيا پرست، سطحی سوچ رکھنے والے اور راز حیات سے ناواقف لوگ دنیا کے مال و منال کو ہی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں بھی ایسے ثروت مند لوگوں کو خوش حال کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے صرف دنیا کی زندگی ہے۔ وہی لوگ دل میں یہ حسرت رکھتے ہیں: کاش ہمیں بھی قارون کی طرح کی دولت حاصل ہو جاتی۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَاقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿۸۰﴾

۸۰۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے: تم پر تباہی ہو! اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والے ہی حاصل کریں گے۔

تفسیر آیات

۱- وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ: جو لوگ راز حیات کا علم رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال و منال خوش قسمتی نہیں ہے، نہ ہی ایسے لوگ خوشحال ہوتے ہیں بلکہ دولت مند لوگ بے چین اور بے سکون ہوتے ہیں۔

یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ دولت انسان سے سکون چھین لیتی ہے۔ ایک شخص کو دنیا بھر کی دولت مل جائے وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ بے سکون ہوگا۔ اس سے یہ راز بھی منکشف ہو جاتا ہے کہ انسان اس دنیا کی آسائش کے لیے پیدا نہیں ہوا ورنہ دنیا کی دولت و آسائش سے ایسا سکون ملتا جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔

چنانچہ آیت میں اس جگہ علم والوں کا حوالہ دیا کہ جن کو علم دیا گیا ہے وہ مال و دولت کے بارے میں وہ موقف نہیں رکھتے جو دنیا دار لوگ رکھتے ہیں۔

۲- وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا: علم رکھنے والا ثواب اور مال دنیا میں موازنہ کر سکتا ہے چونکہ دونوں چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ علم کی تیز نگاہ ان دونوں میں موازنہ کر سکتی ہے، پھر موقف بنا سکتی ہے۔ وہ علمی موقف یہ ہوگا: جو ثواب اہل ایمان اور عمل صالح کے لیے اللہ کے پاس ہے وہ اس مال و دولت سے بہتر ہے جو اس انسان سے موجود سکون کو بھی چھین لیتی ہے۔

۳- وَلَا يُلَاقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ: یہ ثواب ان لوگوں کو مل سکے گا جو مال و دولت سے محرومی پر صبر کرتے اور اسی صبر سے اپنی خواہشات پر تسلط رکھتے ہیں۔

وَلَا يُلْقِيهَا فِي سَمِيرٍ ثَوَابٍ كِي طَرَفٍ هـ۔ ثَوَابٍ مَثُوبَةٍ كِي مَعْنَى فِي مِي هِي يَآ اس كَلِمَةُ كِي طَرَفٍ هِي جُو اهل علم نے کہا۔ وہ کلمہ ثواب خیر ہے۔

اہم نکات

۱۔ علم ہی دولت کی قدروں کا تعین کر سکتا ہے۔

۸۱۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا
میں دھنسا دیا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت
كَانَ لَهُ مِنْ فِتْنَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ
اس کی نصرت کے لیے موجود نہ تھی اور نہ ہی وہ
دُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ
بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔
الْمُنْتَصِرِينَ ﴿۸۱﴾

تشریح کلمات

فَخَسَفْنَا: (خ س ف) الخسف زمین میں دھنس جانا۔

تفسیر آیات

۱۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ: صرف قارون اور اس کے گھر کا گھر والوں سمیت زمین میں زندہ
درگور ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ممکن ہے ایک ایسا محدود زلزلہ آیا ہو جس سے زمین شق ہو گئی ہو۔
روایت ہے کہ اس میں قارون اور اس کی حامی جماعت کے دو سو پچاس افراد زمین میں دفن ہو گئے۔ یہ لوگ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قارون کے حامی تھے۔

۲۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِتْنَةٍ يَنْصُرُونَهُ: جب قارون زمین میں دفن ہو رہا تھا اس وقت اس کی
دولت اور اس کے حامی ورشتے دار اسے نہیں بچا سکے۔

یعنی جب بھی کوئی مجرم اپنے جرم سے باز نہیں آتا اور اپنے جرم پر اسے ناز ہوتا ہے اس وقت جب
جرم کی سزا ملنے لگے گی دنیا کی کوئی طاقت اسے اس سزا بچا نہیں سکتی۔

اہم نکات

۱۔ قارون کے قوم موسیٰ علیہ السلام سے ہونے کی وجہ سے اس پر حجت پوری ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود
اس نے نعمت کا انکار کیا اسے فوری سزا مل گئی۔

۸۲۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ
اور جو لوگ کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے

بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ
عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانُ
لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ﴿٥٨﴾

تھے وہ کہنے لگے: دیکھتے نہیں ہو! اللہ اپنے بندوں
میں سے جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ اور تنگ
کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو
ہمیں بھی دھنسا دیتا، دیکھتے نہیں ہو! کافر فلاح
نہیں پاسکتے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ: کل جو لوگ دولت کی تمنا کرتے تھے آج اس کا
انجام دیکھ کر سمجھ گئے دولت خوشحالی نہیں ہے اور دولت کا حصول کسی کا ذاتی کمال اور ہنرمندی کا نتیجہ نہیں ہوتا
بلکہ دولت دینا، نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے۔ انعام کے طور پر یا آزمائش
اور سزا کے طور پر۔

۲۔ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا: اگر مال و دولت نہ دے کر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا
ہوتا اور مال حاصل کر کے سرکش و دولت مند ہوتے تو ہمارا بھی حشر قارون کی طرح ہوتا۔

سرکش دولت مندوں کا انجام دیکھ کر یہ نکتہ ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے کہ دولت نہ دینا اللہ کا احسان
ہے لیکن انجام دیکھنے سے پہلے صرف راز حیات سے واقف لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت نہ دینا اللہ کا بڑا احسان
ہے چونکہ تنگی کی آزمائش میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے لیکن آسائش میں نہایت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔

۳۔ وَيُكَانُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا: اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر منکر نعمت ہونے والے اور
اس نعمت کو اپنی مہارت اور ہنرمندی کا نتیجہ قرار دینے والے زندگی کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے۔

وَيُكَانُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا: اس کے معنی الم تر دیکھتے
نہیں ہو کے ہیں۔ بعض کے نزدیک ویک تہدید کے معنوں میں ہے۔

پہلے معنی کے لیے شاہد پیش کیا جاتا ہے: ایک دیہاتی عرب خاتون نے اپنے شوہر سے کہا: تیرا بیٹا
کہاں ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا: ویکانہ وراء البيت دیکھتی نہیں ہو وہ گھر کے پیچھے ہے۔ بعض کے
ز نزدیک اس کے معنی ویک اعلم ہے۔ ہم نے پہلے معنی کو سیاق کے مطابق ہونے کی وجہ سے ترجیح دی ہے۔

اہم نکات

۱۔ بہت سے افراد کے لیے دولت نہ دینا اللہ کا احسان ہے: مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا....

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

۸۳۔ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو زمین میں بالادستی اور فساد پھیلانا نہیں چاہتے اور (نیک) انجام تو تقویٰ والوں کے لیے ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ: آخرت کی زندگی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیوی زندگی میں دوسرے بندگان خدا پر برتری اور انہیں زیر کرنا نہیں چاہتے۔ دوسروں پر برتری حاصل کرنا ظلم و زیادتی کے مترادف ہے۔ وہ دوسروں پر ظلم کر کے انہیں زیر کرتے اور خود برتری حاصل کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا... ل

وہ ان نشانیوں کے منکر ہوئے حالانکہ ان کے دلوں کو یقین آ گیا تھا، ایسا انہوں نے ظلم اور غرور کی وجہ سے کیا۔۔۔

۲۔ وَلَا فَسَادًا: دوسروں پر ظلم کر کے ان پر بالادستی قائم کرنا، فساد کا بہت بڑا مصداق ہے۔ اس لیے اس کا خصوصیت سے ذکر کیا۔ فساد میں ہر قسم کی ناہمواری اور غیر عادلانہ کردار شامل ہے۔

۳۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ: نیک انجام دوسروں پر ناجائز بالادستی اور فساد سے بچنے والوں کے لیے ہے۔

اہم نکات

۱۔ اللہ کے قائم کردہ نظام میں بگاڑ (فساد) پیدا کرنے والوں کا انجام برا ہوگا۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

۸۴۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر (اجر) ملے گا اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے کام کرنے والوں کو صرف وہی بدلہ ملے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا: ایک نیکی کے لیے جو اجر و ثواب علم خدا میں مناسب ہے اللہ اس اجر سے بہتر عنایت فرمائے گا۔ ایک نیکی کا اجر دس سے سات سو تک اور جن کے لیے اللہ کی مشیت

ہو، سات سو کا دو گنا یعنی چودہ سو تک دیا جائے گا۔ چنانچہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا...۔ میں دس نیکیوں کا ذکر آیا ہے۔ راہ خدا میں انفاق کے لیے سات سو نیکیوں کا ذکر فرمایا ہے اور وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ...۔ سے چودہ سو تک کے امکان کا ذکر فرمایا۔ نیکی کے لیے اس سے بہتر اجر عنایت فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔

۲- وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ: جو کوئی برائی لے کر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا تو اسے اسی برائی کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کرتا رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔

دیگر آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی برائی کے برابر دینا بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ یہ صرف اس صورت کی بات ہے کہ جب گناہ نے اس شخص کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ نیکیوں پر غالب ہے یا نیکی کا وجود نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا:

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ
خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ... ۳
البتہ جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر
حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں....

لیکن اگر برائی نے احاطہ نہیں کیا ہو تو اس برائی کو معاف کیا جائے گا فرمایا:

وَأَخْرَجُوا عَتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا
عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ
يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۴
اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف
کیا انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے برے عمل
کو مخلوط کیا، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے،
بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

یہاں ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ نیکیوں میں توحید بھی ہے۔ توحید سے بہتر کیا اجر مل سکتا ہے؟
جواب یہ ہے کہ خود توحید سے بہتر اجر نہیں ہوتا لیکن عقیدہ توحید کے لیے جو اجر مناسب ہے اللہ اس اجر سے
بہتر عنایت فرمائے گا۔

اس آیت کے ذیل میں حدیث ہے:

وَيَلِّ لِمَنْ غَلَبَتْ أَحَادُهُ أَعْشَارُهُ.. ۵
حسرت اس شخص کے لیے جس کی اکائیاں (برائیاں)
اس کی دہائیوں (نیکیوں) پر غالب آجائیں۔

اہم نکات

۱- نیکی کا اجر زیادہ دینا اللہ کا تفضل ہے اور برائی کی سزا اسی کے برابر دینا اللہ کا عدل ہے۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ۸۵- (اے رسول) جس نے آپ پر قرآن (کے

كَرَأْدَكَ إِلَى مَعَادٍ قُلِّ رَّبِّي
 أَعْلَمَ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ
 فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

احکام کو) فرض کیا ہے وہ یقیناً آپ کو بازگشت
 تک پہنچانے والا ہے، کہہ دیجیے: میرا رب اسے
 خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور
 اسے بھی جو واضح گمراہی میں ہے۔

شان نزول: اس آیت کے شان نزول میں بخاری نے اپنی صحیح باب التفسیر میں ابن
 عباس سے روایت کی ہے: كَرَأْدَكَ إِلَى مَعَادٍ میں بازگشت سے مراد مکہ ہے۔

ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے:

اس روایت کو نسائی نے اپنی سنن باب تفسیر میں اور ابن جریر نے نقل کیا ہے۔
 بغوی لکھتے ہیں:

اکثر مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں مَعَادٍ سے مراد مکہ ہے اور یہ آیت اکثر
 کے نزدیک مقام جحفہ میں نازل ہوئی جب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے
 اور حضور ﷺ کو وطن یاد آیا۔ اس لیے اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں نہ مدنی ہے،
 نہ مکی لیکن ایک نظریہ کے مطابق مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی آیات سب مکی ہیں
 خواہ مکہ میں نازل ہوئی یا غیر مکہ میں۔

تفسیر آیات

۱۔ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ: جس ذات نے آپ پر قرآن پڑھ کر سنانے اس کی تبلیغ و
 اشاعت کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو اپنی جائے بازگشت (مکہ) کی طرف فاتحانہ طور پر واپس کرنے
 والی ہے جہاں سے آپ کو نکلتا پڑ رہا ہے۔

۲۔ كَرَأْدَكَ إِلَى مَعَادٍ: اللہ آپ کو اپنے مَعَادٍ کی طرف واپس کرنے والا ہے۔ مَعَادٍ کے معنی
 عادت ہے تو معنی یہ ہوں گے: جس جگہ کی رہائش کی عادت و الفت ہے۔ وہ روایات کے مطابق مکہ ہے۔
 اور اگر عود سے ہے تو بھی مکہ مراد ہے چونکہ معاد الرجل بلدہ ہر شخص کی جائے بازگشت اپنا شہر ہوتا ہے
 اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ لوگ حج کے لیے ہر سال مکہ کی طرف آتے ہیں مکہ کو مَعَادٍ کہتے ہیں۔

۳۔ قُلِّ رَّبِّي أَعْلَمَ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى: یہ مشرکین کے اس طعن کا جواب ہے جو کہتے تھے: محمد نے
 قوم کو گمراہ کیا۔ آپ کہہ دیجیے: میرا رب بہتر جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون گمراہی میں ہے۔
 آنے والا وقت بھی بتائے گا کہ کون کیا ہے۔ جس کی طرف سے میں ہدایت لے کر آیا ہوں اس کا علم مؤثر
 ہے۔ تمہارے واہموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

اہم نکات

۱۔ راہ خدا میں ہجرت کرنے والے باعث اپنے وطن واپس ہو جاتے ہیں۔

۸۶۔ اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب
الَّذِينَ نَزَّلْنَا فِي تَيْبَةَ الْقَعْبَانَ
تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾
نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے
لہذا آپ کافروں کے پشت پناہ ہرگز نہ بنیں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ: رسالت ایسا منصب نہیں ہے جو اس کی توقع رکھنے والوں کو مل جائے یہ مقام کسی بشر کی سوچ سے بالاتر اور کسی انسان کے فکری افق سے وسیع تر ہے۔
اگر رحمت رب آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو آپ بذات خود یہ امید تک نہیں کر سکتے تھے کہ یہ قرآن آپ پر نازل کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اللہ کی رحمت سے ہٹ کر نہ نبوت مل سکتی ہے، نہ قرآن نازل ہو سکتا ہے۔ یہ رحمت آپ سے کبھی جدا نہ رہی، نہ ہی کوئی ایسا زمانہ آیا جس میں آپ ہوں اور یہ رحمت آپ کے ساتھ نہ ہو۔

تعب ہے بعض اہل قلم نے اس بات کے اثبات کے لیے کئی صفحات لکھ ڈالے کہ حضور ﷺ کو پہلے نبوت ملنے کی امید تک نہ تھی اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا بلکہ آپ وحی نازل ہونے کے بعد بھی شک میں رہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ نبوت پر فائز ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے ایسے شخص سے رابطہ فرمایا جسے اتنا بھی علم نہ تھا جتنا ایک دوسرے شخص ورقہ بن نوفل کو تھا۔

ہم نے یہ بات کئی بار لکھی ہے کہ وحی کا تعلق صرف ظاہری حواس سے نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام وحی اپنے پورے وجود کے ساتھ حاصل کرتے ہیں جس میں شک و تردید کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جس قدر انہیں اپنے وجود پر یقین ہوتا ہے اسی قدر یقین سے وحی وصول کرتے ہیں۔

چنانچہ انبیاء وحی کی آواز سنتے ہیں۔ وہ ان کانوں سے نہیں سنتے اسی لیے جو لوگ نزول وحی کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے بالکل پاس بیٹھے ہوتے تھے وہ آواز نہیں سنتے تھے اور نہ ہی فرشتہ وحی کو دیکھ سکتے تھے۔ البتہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں وہ بھی ایسی آوازوں کو سن سکتے تھے۔ خطبہ

قاصدہ ۱۹۲ نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا:

وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ
الْوَحْيُ عَلَيْهِ۔
جب آپؐ پر (پہلے پہل) وحی نازل ہوئی تو میں
نے شیطان کی ایک چیخ سنی۔

میں نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ آواز کیسی ہے ہے؟ آپؐ نے فرمایا:

هذا الشيطان قد آيس من عبادته
انك تسمع ما اسمع و ترى ما ارى
الا انك لست بنبي...۔
یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا
ہے۔ (اے علی) جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو
اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو۔ فرق اتنا ہے
کہ تم نبی نہیں ہو...۔

شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید، مسند احمد بن حنبل سے ایک روایت نقل
کرتے ہیں جس میں اس آواز کا ذکر ہے جسے رسول اللہؐ کے ساتھ حضرت علیؑ نے بھی سن لیا تھا۔

۲۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرَ الْكٰفِرِيْنَ: رسول اللہ ﷺ سے یہ بات قابل تصور نہیں کہ آپؐ کافروں
کے پشت پناہ بن جائیں۔ اس کے باوجود یہ خطاب اس لیے ہوا کہ مشرکین آپؐ کے قتل کے درپے تھے۔
اس لیے حضور ﷺ کو یہ حکم مل رہا ہے کہ اس مذموم کوشش میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ
ابن عباسؓ کہا کرتے تھے۔ قرآن، ایاک اعنی فاسمعی باجارہ خطاب کسی سے، سمجانا کسی اور کو مقصود
ہے کی بنیاد پر نازل ہوا ہے۔ یعنی سردلبران در حدیث دیگران کی بنیاد پر۔ اس آیت میں دوسروں کو بتانا
مقصود ہے کہ کافروں کے پشت پناہ نہ بنیں۔

اہم نکات

۱۔ نبوت رحمت الہی ہے اور رسول رحمت کبھی بھی اس رحمت سے جدا نہ تھے۔

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ
أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۷﴾
۸۷۔ جب یہ آیات آپؐ کی طرف نازل ہو چکی ہیں
تو کہیں یہ آپؐ کو اللہ کی آیات (کی تبلیغ) سے
روک نہ دیں اور آپؐ اپنے رب کی طرف دعوت
دیں اور آپؐ مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہوں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ: مشرکین نے آپؐ کو دعوت توحید سے برگشتہ کرنے کے لیے

ہر حربہ استعمال کیا۔ آخر میں وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے دار الندوة میں جمع ہو گئے۔ ایسے حالات میں آپ کو سہارا دینے اور مشرکین کو مایوس کرنے کے لیے یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ ان میں ارشاد فرمایا: کسی سے ہو نہیں سکتا کہ آیات الہی آپ پر نازل ہونے کے بعد آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ ڈالے۔ آیات الہی کے نزول کے بعد ممکن نہیں ان کو غیر موثر کیا جاسکے یا ان آیات کی تبلیغ ممکن نہ ہو سکے۔ آیات کا نزول اپنے مقصد نزول میں ناکام ہو جائے۔

۲۔ وَادْع إِلَى رَبِّكَ: اپنی دعوت جاری رکھیں۔ یہ دعوت جاری رہنے کے لیے وجود میں آئی ہے۔

۳۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ: مشرکین کی یہ کوشش ناکام ہو جائے گی کہ آپ اس دعوت کو چھوڑ کر مشرکین کے ساتھ ہو جائیں۔ اس میں مشرکین کے لیے ناامیدی کی نوید ہے کہ ان کی مذموم کوشش بار آور نہیں ہو سکے گی۔

اہم نکات

۱۔ آیات الہی نزول کے بعد مقصد نزول میں ناکام نہیں ہو سکتیں۔

۸۸۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی
ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت کا حق
اسی کو حاصل ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے
جاؤ گے۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ لَهَ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿۸۸﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ: اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو۔ غیر اللہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت میں اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ غیر اللہ کیوں معبود نہیں ہو سکتے۔

۲۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ: وجہہ ذاتہ۔ الوجہ سے ذات مراد لی جاتی ہے۔ جیسے وجہ النہار سے مراد خود ”دن“ لیا جاتا ہے۔

۳۔ لَهَ الْحُكْمُ: جس فیصلے پر نظام کائنات قائم ہے، اس فیصلے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے۔ لہذا کائنات پر جس کا فیصلہ نافذ ہوگا اسی کے ہاتھ میں کائنات کی تدبیر ہوگی۔ پس وہی معبود ہے۔

۴۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ: جس کا فیصلہ نافذ ہوگا اور جس نے فیصلہ دیا ہے اسی کے سامنے جوابدہی ہو

گی۔

اہم نکات

- ۱- معبود وہ ہوتا ہے جو فنا پذیر نہ ہو: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ...-
- ۲- حاکمیت صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے: لَهُ الْحُكْمُ...-



سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

خالی



سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

اس سورۃ المبارکۃ کا نام العنکبوت اس لیے ہے کہ اس میں العنکبوت کا ذکر آیا ہے:
 مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا
 وَرَأَى أَوْهَانَ الْبُيُوتِ لَيْسَتْ الْعَنْكَبُوتُ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝۱
 جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا ہے
 ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے
 اور گھروں میں سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے
 اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔

یہ سورۃ ۹۹ آیات پر مشتمل ہے۔ آیات کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
 بعض آیات سے عندیہ ملتا ہے کہ یہ سورۃ اس وقت نازل ہوئی جب بعض مسلمان حبشہ کی طرف
 ہجرت کر رہے تھے اور مشرکین کی طرف سے مظالم اس قدر زیادہ تھے کہ کچھ لوگ ایمان کے بعد
 کفر کا اظہار کرنے لگے۔ اسی کو نفاق کہا گیا ہے جس سے بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ آیات
 مدنی ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر راوی ہیں:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْعَنْكَبُوتِ وَ الرُّومِ فِي
 شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعَ عَشْرِينَ
 فَهُوَ وَاللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مِنْ أَهْلِ
 الْجَنَّةِ لَا أَسْتَنْبِي فِيهِ أَبَدًا وَ لَا
 أَخَافُ أَنْ يَكْتُوبَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي
 يَمِينِي إِثْمًا وَ إِنَّ لَهَا تَيْنِ السُّورَتَيْنِ
 مِنَ اللَّهِ مَكَانًا ۝۱
 جو شخص سورۃ العنکبوت اور سورۃ الروم کی تلاوت
 رمضان کی ۲۳ ویں شب کو کرے اللہ کی قسم اے ابو
 محمد! (ابو بصیر) وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس
 میں کسی قسم کا استثنا نہیں کروں گا، نہ ہی مجھے اس کا
 خوف ہے کہ میں نے جو قسم کھائی ہے اس پر اللہ
 میرے لیے گناہ مقرر کرے گا چونکہ ان دونوں سورتوں
 کو اللہ کے نزدیک ایک مقام و منزلت حاصل ہے۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ

اَحْسَبَ النَّاسَ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ

يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝۱

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

فَلْيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا

وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ الف، لام، میم۔

۲۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟

۳۔ اور تحقیق ہم ان سے پہلوں کو بھی آزما چکے ہیں کیونکہ اللہ کو بہر حال یہ واضح کرنا ہے کہ کون سچے ہیں اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ کون جھوٹے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ اَحْسَبَ النَّاسَ: ناس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مکہ میں مشرکین کے زرعے میں ہیں اور مشرکین کی طرف سے اس حد تک اذیت برداشت کر رہے ہیں کہ اسلام سے برگشتہ ہونے کے خطرے میں ہیں۔ ان مسلمانوں کو سامنے رکھ کر ایک کلی حکم بیان ہو رہا ہے: ایمان صرف ایک لفظ اٰمَنَّا کے تلفظ سے عبارت نہیں ہے بلکہ ایمان ایک نظام اور دستور حیات کو اپنانے اور اسے اپنانے کی راہ میں پیش آنے والی تمام مشکلات و مصائب کا مجاہدانہ مقابلہ کرنے نیز کردار و امانت کا نام ہے۔ ایسے ایمان کی کوئی قیمت نہیں جس کا انسان کے کردار پر کوئی اثر نہ ہو۔

اگر ایمان کا رتبہ اتنا ارزاں ہوتا کہ لب ہلانے سے حاصل ہو جائے تو صادق و کاذب میں تمیز نہ ہوتی۔ مجاہد اور فراری میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ ایمان کے لیے قربانی دینے اور ایمان کے نام پر مفاد حاصل

کرنے والوں میں کوئی امتیاز نہ ہوتا۔

فلسفہ امتحان کے بارے میں ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت ۱۲۴ و آیت ۲۱۴۔

۲۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: آزمائش اور امتحان اللہ تعالیٰ کا دائمی قانون ہے جو تمام

امتوں میں جاری رہا ہے۔

۳۔ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ: اللہ کو قدیم سے علم ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے لیکن امتحان کے ذریعے

اللہ کا علم ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کا قدیم علم منصفہ شہود میں آتا ہے۔ علم کے مرحلے سے عمل کے مرحلے میں آتا

ہے اور عمل سے استحقاق کا مرحلہ آتا ہے۔ نیک عمل سے ثواب اور بد عمل سے عذاب کا مستحق ہونے کا مرحلہ

آتا ہے چونکہ امتحان و آزمائش کے ذریعے عملی شکل میں استحقاق کا مرحلہ آنے سے پہلے بلا استحقاق ثواب

دے تو سب کو دے۔ نیک کردار اور بد کردار دونوں کو دے۔ یہ ایک عبث کام بن جاتا ہے۔ اس لیے حکمت

الہی کا یہ تقاضا ہوا کہ کامیابی کے راستوں کو دشوار بنایا جائے۔

فضائل: حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں:

جب آیۃ أَحْسِبَ النَّاسَ... نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ

آزمائش کیا ہے فرمایا: یا علی انک تبلی و تبلی بک۔ یا علی یہ آزمائش آپ کی بھی

ہوگی اور آپ کے ذریعے بھی۔ یعنی اس آزمائش سے آپ بھی دوچار ہوں گے اور آپ

کے سلسلے میں بھی لوگ آزمائش سے دوچار ہوں گے۔

ملاحظہ ہو: کشف الغمۃ: ۱: ۶۱۳ ط بیروت۔ شرح ابن ابی الحدید: ۴: ۱۰۸۔

اہم نکات

۱۔ ایمان کی منزل پر کڑی آزمائشوں سے گزر کر فائز ہوا جا سکتا ہے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا

يَحْكُمُونَ ﴿۵﴾

تفسیر آیات

اس آیت میں ان مشرکین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کو سخت ترین آزمائش میں ڈال

رکھا تھا۔ ان مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اپنی مکاری اور فتنہ بازی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نکلیں

اور اللہ نے جو مہلت دے رکھی ہے اس سے انہیں یہ گمان ہو چلا ہے کہ ہم اللہ کی گرفت میں آنے والے نہیں ہیں۔

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ: ان کا یہ فیصلہ خود ان کے حق میں بدترین فیصلہ ہے۔ اس غلط فیصلے کی وجہ سے وہ اللہ کے بدترین عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو رہے ہیں۔

اہم نکات

۱۔ عذاب الہی سے بچ نکلنے کا گمان ایک بدترین گمان ہے۔

۵۔ جو اللہ کے حضور پہنچنے کی امید رکھتا ہے تو (وہ باخبر
مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ
أَجَلَ اللَّهِ لَا تٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ۝)

رہے کہ) اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے ہی
والا ہے اور وہ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ: اس آیت شریفہ میں لِقَاءَ اللَّهِ سے مراد اللہ کے سامنے حساب کے لیے حاضر ہونا ہے جہاں وہ تمام حجاب ہٹ جائیں گے جو دنیا میں اس کی آنکھوں کے سامنے تھے اور حقائق روشن ہو کر سامنے آئیں گے۔

اس آیت کا رخ کلام مؤمنین مکہ کی طرف ہو سکتا ہے کہ جس طرح مشرکین اللہ کی گرفت سے نکل نہیں سکتے بالکل اسی طرح جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی جان لیں کہ وہ مقررہ وقت آنے والا ہے جس میں وہ اپنے رب کے پاس سے اجر و ثواب حاصل کریں گے۔

۲۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے وہ تمام آوازوں کا سننے والا، تمام افعال و کردار کا جاننے والا ہے۔

اہم نکات

۱۔ نہ ایمان کے مدعی امتحان سے بچ سکتے ہیں، نہ منکرین انتقام سے۔

۶۔ اور جو شخص جفاکشی کرتا ہے تو وہ صرف اپنے
وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۖ
إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝)

فائدے کے لیے جفاکشی کرتا ہے، اللہ تو یقیناً
سارے عالمین سے بے نیاز ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ: جو جدوجہد اور مصائب و آلام کا مقابلہ کرے گا اور ہر قیمت پر

اپنا ایمان بچائے گا، اس کا نتیجہ خود اس کے حق میں ہوگا۔ وہ اپنا مستقبل سنوارے گا۔ اپنی ابدی زندگی کو آباد کرے گا۔ اسی سعی و کوشش سے خود تمہیں ارتقا حاصل ہوگا اور تمہارے ایمان کی صداقت ثابت ہوگی۔ ورنہ خدا تمہاری سعی و کوشش کا محتاج نہیں ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

۷۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہم ان سے ان کی برائی ضرور دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا صلہ بھی ضرور دیں گے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: ایمان اور عمل صالح دونوں کے اثرات کا ذکر ہے۔ ایمان کے اثرات یہ ہیں کہ ایمان کی وجہ سے ایمان سے پہلے حالت کفر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایمان لے آنا حالت کفر کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایمان کے بعد بجا لائے جانے والے تمام اعمال صالحہ قابل قبول ہیں۔ ان کا ثواب ملے گا۔ چونکہ ایمان کے بغیر نہ عمل صالح سودمند ہوگا اور نہ ہی گناہوں سے نجات ملے گی۔

اہم نکات

۱۔ ایمان گناہوں کا کفارہ اور قبول اعمال کا وسیلہ ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ
بِئِمَّا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا
تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ
فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

۸۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اگر تیرے ماں باپ میرے ساتھ شرک کرنے پر تجھ سے الجھ جائیں جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو تو تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا، تم سب کی بازگشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے ہو؟

۹۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں ہم بہر صورت صالحین میں شامل کریں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٥٢﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ: پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسل (اولاد) کی محبت تکویناً انسان میں ودیعت فرمائی ہے اور جانے والی نسل (والدین) سے محبت کرنا تشریحاً واجب گردانا ہے چونکہ جانے والی نسل کی جدائی اکثر ہر صورت میں ہونی ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے کہ اس جدائی کو سنگین نہیں بنایا۔

والدین پر احسان کے بارے میں سورہ بقرہ آیت ۸۳، النساء آیت ۳۶، الانعام: ۱۵۱، بنی اسرائیل: ۲۳ ملاحظہ فرمائیں۔

۲۔ وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِنَاہِ: اگر والدین تجھے مشرک بنانے کے لیے تجھ پر دباؤ ڈالیں اور شرک کے ارتکاب کرانے کی کوشش کریں تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ جَاهَدَكَ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدین تجھے شرک اختیار کرنے کے لیے صرف حکم نہیں کرتے بلکہ وہ اس میں کوشش کرتے ہیں، تجھ پر دباؤ ڈالتے ہیں تو بھی ان کی اطاعت نہ کر۔

۳۔ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ: شرک ایک موہوم چیز ہے۔ اس کا واقع اور نفس الامر سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا اس کا علم بھی نہ ہوگا۔ جس کا وجود نہیں اس کا علم کیسے ہوگا۔

اسی مطلب کو سورہ لقمان ۱۵ میں بھی بیان فرمایا ہے لیکن وہاں فَلَا تُطْعَمَهُمَا انِ دُونِیْ كِی طاعت نہ کرو کے بعد ایک جملے کا اضافہ ہے: وَصَاحِبُهُمَا فِی الدُّنْيَا مَعْرُوفًا خَوَاهِ والدین مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ البتہ انسانی پہلو کے تحت ان مشرک والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی لیے آیت میں فرمایا: ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس مسئلے کو انسان کی انسانیت سے مربوط فرمایا۔

۴۔ اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ: ان دونوں مشرک والدین کی اطاعت نہ کرو۔ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کو جواب دینا ہے:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ۔
خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔

۵۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی صورت میں اللہ کا اٹل قانون یہ ہے کہ ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔

اہم نکات

۱۔ والدین کو صرف خالق کے مقابلے پر ترجیح حاصل نہیں ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ
النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ
نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا
مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا
فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ⑩
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ⑪

۱۰۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو
ہیں: ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن جب اللہ کی راہ
میں اذیت پہنچتی ہے تو لوگوں کی طرف سے پہنچنے
والی اذیت کو عذاب الہی کی مانند تصور کرتے
ہیں اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے
مدد پہنچ جائے تو وہ ضرور کہتے ہیں: ہم تو تمہارے
ساتھ تھے، کیا اللہ کو اہل عالم کے دلوں کا حال
خوب معلوم نہیں ہے؟

۱۱۔ اور اللہ نے یہ ضرور واضح کرنا ہے کہ ایمان
والے کون ہیں اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے
کہ منافق کون ہیں؟

تفسیر آیات

۱۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: یہ دو آیات روایات کے مطابق ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں
جو کئے میں اسلام لائے لیکن بعد میں مشرکین کی طرف سے اذیت پہنچنے پر دوبارہ کفر اختیار کیا۔

۲۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ: جب انہیں ایمان کی وجہ سے اذیت اٹھانا پڑی تو انہوں نے لوگوں کی
طرف سے ہونے والی اذیت کو عذاب الہی کی مانند قرار دیا۔ جس طرح عذاب الہی سے بچنے کے لیے ایمان
کی طرف آیا جاتا ہے بالکل اسی طرح یہ لوگ، لوگوں کی اذیت سے بچنے کے لیے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔

۳۔ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ: اذیت سے بچنے کے لیے کفر کی طرف جانے والے لوگ اگر دیکھتے
ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے فتح و نصرت مل جاتی ہے تو وہ ضرور کہتے ہیں: ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔
آیت کے اس جملے کی وجہ سے کچھ مفسرین اس آیت کو مدنی خیال کرتے ہیں چونکہ مکہ میں مسلمانوں
کو کوئی فتح و نصرت نہیں ملی تھی۔

ساتھ دوسری آیت میں منافقین کے وجود کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ مکہ میں نفاق کا سوال پیدا نہیں
ہوتا کہ اسلام کا اظہار کرے اور دل میں کفر رکھے۔ مکہ میں اس کا بالعکس ہو سکتا ہے، دل میں ایمان رکھے اور
کفر کا اظہار کرے۔ یہ نفاق نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت اس کی اجازت بھی ہے۔

اس موقف پر یہ سوال آتا ہے کہ مدینہ میں کسی مسلمان کو ایسی اذیت نہیں ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ کفر
کی طرف چلا جائے۔ لہذا فتح و نصرت اور نفاق کی ایسی تشریح درکار ہے جو کئی حالات کے ساتھ سازگار ہو۔

کی سادگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ گمراہ کن تجویز سامنے رکھی کہ اگر یہ شرک گناہ ہے تو تمہارے گناہ کا بوجھ ہم اٹھائیں گے۔ تمہارا گناہ ہماری گردن پر ہوگا۔ آج بھی بعض سادہ لوح لوگ یہی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر یہ جرم ہے تو یہ میری گردن پر ہوگا۔

۲۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ: جب کہ کوئی اور کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تمام دنیا کے قوانین میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ مجرم کی سزا کسی اور کو دی جائے۔ قرآن نے تو متعدد آیات میں اس بات کی صراحت کی ہے:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى... ۱
اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

یہ ایسا ہے جیسے کوئی کسی سے یہ کہے: اس چیز کو کھالو۔ اگر اس میں بیماری ہے تو تیری جگہ میں بیمار ہو جاؤں گا۔

اہم نکات

۱۔ ہر ایک کو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا ہے کوئی اور اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ
أَثْقَالِهِمْ ۚ وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳﴾
۱۔ البتہ یہ لوگ اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بوجھ بھی اور قیامت کے دن ان سے ضرور پرسش ہوگی اس بہتان کے بارے میں جو وہ باندھتے رہے ہیں۔

تفسیر آیات

البتہ دوسروں کا گناہ کے بوجھ اپنے سر آنے کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کو جرم کے ارتکاب پر اکسائے تو اس صورت میں اس اکسانے والے پر بھی اس گناہ کا بوجھ آئے گا جس کا دوسرے نے ارتکاب کیا ہے اور اس دوسرے کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ چنانچہ حدیث ہے:

وَمَنْ اسْتَنَّ بِسُنَّةِ بَاطِلٍ كَانَ عَلَيْهِ
وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ... ۲
جو ایک باطل کا رواج ڈالے اس کا گناہ اس کے ذمے ہے اور جس نے اس پر عمل کیا قیامت تک اس کا بھی گناہ اس کے ذمے ہے۔

اہم نکات

۱۔ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

۲- کوئی کسی کو گناہ پر اکسائے تو اس شخص کے گناہ کا بوجھ اس پر آئے گا اور اس شخص کے گناہ میں کمی نہ ہوگی۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوْمِهِ ۙ
فَلَبِثَ فِيهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا
خَمْسِيْنَ عَامًا ۙ فَآخَذَهُمُ
الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُوْنَ ﴿۱۴﴾

۱۴- اور تحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان پچاس سال کم ایک ہزار سال رہے، پھر طوفان نے انہیں اس حال میں اپنی گرفت میں لیا کہ وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔

تفسیر آیات

۱- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوْمِهِ: حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں الاعراف: ۵۹، یونس: ۷۱، ہود آیات از ۲۵ تا ۴۹ ملاحظہ فرمائیں۔

۲- فَلَبِثَ فِيهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا: وہ اپنی قوم میں پچاس سال کم ایک ہزار سال رہے۔ بظاہر یہ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کی مدت ہے، عمر کی نہیں۔ رسالت پر مبعوث ہونے سے پہلے کی عمر اور قوم کی تباہی کے بعد کی مدت کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اس قدر لمبی مدت تبلیغ و ارشاد اور قوم کی طرف سے تکذیب و آزار کا ذکر رسول اکرم ﷺ کے لیے باعث تسلی و تقویت ہے۔

توریت میں آیا ہے کہ طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چھ سو سال تھی اور طوفان کے بعد ساڑھے تین سو سال زندہ رہے۔ مجموعاً ان کی عمر ساڑھے نو سال ہو جاتی ہے۔ (پیدائش باب نم) قرآن نے اس کی تصحیح فرمائی کہ ان کی رسالت کی مدت ساڑھے نو سو سال ہے۔

۳- فَآخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُوْنَ: طوفان نوح کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ آسمان سے ایک یا چند بڑے اجرام سمندر میں گرے جس کی وجہ سے سمندروں کا پانی خشکی کے ایک بڑے علاقے پر طوفان کی شکل میں آ گیا۔

فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّفِيْنَةِ ۙ
وَجَعَلْنَاهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۵﴾

۱۵- پھر ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔

تفسیر آیات

۱- اللہ نے اس طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو نجات دی۔

۲۔ وَجَعَلْنَهَا: ہا کی ضمیر اکثر کے نزدیک کشتی کی طرف ہے چونکہ اس کشتی نے مؤمن اور کافر میں امتیاز قائم کیا اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سچائی کی علامت اور حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ آیت سے مراد کشتی ہی ہے:

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمُسْحُونِ ۝۱

اور یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔

اہم نکات

- ۱۔ طبیعتاً انسان طولانی عمر کی قابلیت رکھتا ہے خود انسانی تصرفات سے عمریں مختصر ہو گئیں۔
- ۲۔ بد توفیق پر ہزار سالہ تبلیغ بھی اثر نہیں کرتی۔

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۚ ذِكْرٌ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

۱۶۔ اور ابراہیم کو بھی (بھیجا) جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا: اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

تفسیر آیات

- ۱۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے: ہم نے ابراہیم کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔
- ۲۔ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ: ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو عبادت خدا و تقویٰ کی دعوت دی۔ یہ دعوت بندگی کی دونوں اہم پہلوں پر مشتمل ہے۔ واجبات کی بجا آوری اور محرمات سے پرہیزگاری، عبادت و تقویٰ سے عبارت ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل عبادت ہے اور اللہ کے غضب سے بچنے کی صورت تقویٰ ہے۔
- ۳۔ ذِكْرٌ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ: اگر انسان جان جاتا۔ اس کی سعادت ان دونوں باتوں، اپنے دین و دنیا کے لیے مفید باتوں پر عمل کرنے اور مضر چیزوں سے بچنے میں ہے۔

اہم نکات

- ۱۔ انسان کی سعادت مندی کے لیے دستور حیات عبادت اور تقویٰ ہے۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا ۗ

۱۔ تم تو اللہ کو چھوڑ کر بس بتوں کو پوجتے ہو اور

وَتَخْلُقُونَ أَفْكَانَ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا
عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَ
اشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

جھوٹ گھڑ لیتے ہو، اللہ کے سوا تم جن کی پوجا
کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں
رکھتے، لہذا تم اللہ کے ہاں سے رزق طلب کرو
اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، تم
اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔

تشریح کلمات

اوٹان: (وٹن) وٹن۔ بت۔ اوٹان ان پتھروں کو کہا گیا ہے جن کی پرستش جاہلیت میں کی جاتی تھی۔

تفسیر آیات

۱۔ اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا: سابقہ آیت میں اللہ کی عبادت اور تقویٰ کی دعوت دینے کے
بعد دیگر جعلی معبودوں کی نفی ہو رہی ہے۔ اللہ کی جگہ تم تو بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اللہ کی جگہ بت!!! کوئی
موازنہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ کل ہستی اور نیستی میں کیا مقابلہ ہے؟

۲۔ وَتَخْلُقُونَ اَفْكَانًا: تم ایک جھوٹ گھڑ لیتے ہو۔ بت کے متعلق ساری باتیں خود تمہاری
گھڑی ہوئی ہیں۔ یہ بت نہ تو تمہارے خالق ہیں، نہ تمہارے رازق ہیں۔ یہ تو صرف تمہاری ذہنی تخلیق ہے۔
ان سے منسوب باتیں ہی صرف گھڑی ہوئی نہیں ہیں بلکہ خود ان کا ظاہری وجود بھی خود تمہارا تراشا ہوا ہے۔

۳۔ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا: جن معبودوں کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں
پہنچا سکتے۔ وہ ان بتوں کی پوجا صرف دنیوی مفادات کے لیے کرتے ہیں۔ آخرت کے تو یہ لوگ قائل نہیں
ہیں۔ مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ فرشتوں اور جنوں کی شبیہ تھے۔ وہ ان شبیہوں کی پوجا اس لیے
کرتے تھے کہ وہ فرشتے اور جنات خوش ہو جائیں جن کے ہاتھ میں ان کے خیال میں ان کا رزق ہے۔
فرمایا: ان بتوں کے ہاتھ میں تمہارا رزق نہیں ہے۔

۴۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ: تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سے اپنا رزق
طلب کرو اور عبادت بھی اسی رازق کی کرو۔ اس سے یہ بات مزید واضح ہو گئی کہ عبادت رازق کی ہوتی ہے۔
ہم نے عبادت کی یہ تعریف کئی بار واضح کی ہے کہ کسی ذات کو خالق اور رب سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے وہ
تعظیم عبادت ہے، نہ ہر تعظیم۔ اس جگہ مشرکین اپنے بتوں کو رازق سمجھ کر ان کی تعظیم کرتے تھے۔ رازق ہونا
رب ہونے کے تقاضوں میں سے ایک ہے۔

۵۔ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ: عبادت صرف دنیوی مفادات کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عبادت

کا اصل مقصد سعادت ابدی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور حساب دینے کے بعد اس سعادت کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اہم نکات

- ۱۔ رازق صرف اللہ ہے۔ عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔
- ۲۔ غیر اللہ سے مفادات وابستہ کرنا ایک واہمہ ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

وَأَنَّ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّمٌ ۱۸۔ اور اگر تم تکذیب کرو تو تم سے پہلے کی امتوں
مَنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا
الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۱۸﴾ نے بھی تکذیب کی ہے اور رسول کی ذمہ داری
بس یہی ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کرے۔

تفسیر آیات

- ۱۔ وَأَنَّ تَكْذِبُوا: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب ہے یا مکہ کے مشرکین سے خطاب ہے۔ دونوں صورتوں میں بتانا یہ مقصود ہے: اگر تم رسول کی تکذیب کرتے ہو تو یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے کہ تم کہہ سکو کہ اگر تم رسول ہوتے تو تمہاری کوئی تکذیب نہ کرتا۔
- ۲۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ: تکذیب اس لیے واقع ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا تعلق طاقت کے ساتھ نہیں، قلب و ضمیر کے ساتھ ہے۔ لہذا قلب و ضمیر تک آواز حق پہنچائی جاتی ہے۔ جن کا قلب و ضمیر زندہ ہے وہ اس آواز کو پہچان لیتے ہیں اور مردہ ضمیر اس کی تکذیب کرتے ہیں۔

اہم نکات

- ۱۔ تکذیب انبیاء کا تعلق ضمیروں سے ہے خود پیغام حق سب کے لیے یکساں ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۱۹۔ کیا انہوں نے (کبھی) غور نہیں کیا کہ اللہ خلقت
اللَّهُ يَسِيرٌ ﴿۱۹﴾ کی ابتدا کیسے کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے،
یقیناً اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔

تفسیر آیات

- ۱۔ أَوَلَمْ يَرَوْا: کیا ان لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ روایت سے مراد روایت قلبی لیا جائے تو عقل و فکر

کو سوچنے کی دعوت ہے کہ جو ذات، خلقت کی ابتدا کر سکتی ہے وہ اعادہ بھی کر سکتی ہے۔
۲۔ كَيْفَ يَبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ: غور و فکر اس بات میں کرنا ہے کہ اللہ خلقت کی ابتدا کیسے کرتا ہے۔ اگر خلقت کی ابتدا سمجھ میں آجائے تو اعادہ سمجھ میں آنا آسان ہو جائے گا۔ خلقت کی ابتدا میں مشرکین کو اختلاف نہیں ہے تو اعادہ میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا سَعْدًا أَمْرًا أَمْرًا رَوِيَتْ حَسَى وَبَصْرَى لَيْسَ تُو آيَتِ كَامَطْلَبِ يَهْ هُوَا كَهْ كِيَا تَم رُوْز نَهِيْسْ دِيكْهِيْ تَهْ كَهْ اللّٰهُ خَلَقَتْ كِيَا اِبْتَدَا وَاعَادَهْ كَسْ طَرَحْ كَرْتَا هِيْ۔ اعَادَهْ كَامَطْلَبِ يَهْ هِيْ كَهْ كِيَا تَحْلِيْلْ شَدَهْ عَنَا صَرْ كُوْ دُوْبَارَهْ تَحْلِيْقِيْ عَنَا صَرْ مِيْ شَامِلْ كَرْنَا۔ اس كَا هَم رُوْز مَشَاهِدَهْ كَرْتَهْ هِيْ۔ اسَهْ كِيْمِيْكَلْ تَبْدِيْلِيْ كِهْتَهْ هِيْ۔ اِنْسَانْ كَا اِبْنَا مَادِيْ وَجُوْدْ خَلْقْ وَاعَادَهْ خَلْقْ سَهْ عِبَارَتْ هِيْ۔ اِنْسَانِيْ خَلِيَاَتْ (Cells) هِيْمِيْشَهْ كَرْتَهْ، خْتَمْ هُوْتَهْ رِهْتَهْ هِيْ۔ اِنْ كِيَا جِغَهْ خُوْنْ كَهْ ذَرِيْعَهْ دُوْبَارَهْ اِنْ خَلِيَاَتْ كَا اعَادَهْ تَحْلِيْقْ هُوْتَا رِهْتَا هِيْ۔ اِنْسَانْ كَا دُهَا نِجَهْ اِسِيْ خَلْقْ وَاعَادَهْ خَلْقْ پَرْ قَائِمْ هِيْ۔ اِيْكْ لَذِيْذْ غَذَا فَضْلَهْ مِيْ، پَهْرْ يَهْ فَضْلَهْ كَهَادْ كِيَا صَوْرَتْ مِيْ اِيْكْ پَهْوَلْ كِيَا تَحْلِيْقْ مِيْ، پَهْرْ يَهْ پَهْوَلْ تَحْلِيْلْ هُوْ كَرْ دِيْگَرْ كِيَا نَبَاتْ كَا عَضْرْ تَحْلِيْقْ بِنْ جَاتَا هِيْ۔

لاوازيه (Lavazieh) كَهْ نَظْرِيْ كَهْ بَعْدْ تُوْ اَبْ يَهْ بَاتْ سَبْ پَرْ وَاَضَحْ هِيْ كَهْ دُنْيَا مِيْ كُوْنِيْ كِيَا چِيْزْ مَعْدُوْمْ نَهِيْسْ هُوْتِيْ اُوْرْ كِيَا چِيْزْ كُوْ دُوَامْ بَهِيْ نَهِيْسْ هِيْ۔ مَظَا هَرْ قَدْرَتْ خَلْقْ وَاعَادَهْ خَلْقْ سَهْ عِبَارَتْ هِيْ۔ خَلْقْ وَاعَادَهْ خَلْقْ كَهْ ذَرِيْعَهْ دُنْيَا مِيْ شَادَا بِيْ اُوْرْ زَنْدِگِيْ كُوْ رُوْنَقْ حَاصِلْ هِيْ۔

۳۔ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ: خُوْدْ تَهْمَا رَا اعَادَهْ خَلْقْ اللّٰهُ كَهْ لِيْ اَسَانْ هِيْ۔ اللّٰهُ كَهْ لِيْ اَسَانْ اُوْرْ مَشْكَلْ كَا تَصُوْرْ نَهِيْسْ هِيْ۔ اِنْسَانِيْ سُوْجْ كَهْ مَطَابِقْ اِبْتَدَا كِيَا بَهْ نَسْبَتْ اعَادَهْ اُوْرْ نَقْشْ دُوْمْ اَسَانْ هُوْتَا هِيْ۔

اہم نکات

۱۔ کائنات کی رونق، خلق و اعادہ خلق سے ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾
۲۰۔ كَهْدِ بِيْجِيْ: تَمْ زَمِيْنْ مِيْ چَلْ پَهْرْ كَرْ دِيْكْهُوْ كَهْ خَلْقَتْ كِيَا اِبْتَدَا كِيْسَهْ هُوْنِيْ پَهْرْ اللّٰهُ دُوْسَرِيْ خَلْقَتْ پِيْدَا كَرَهْ كَا، يَقِيْنًا اللّٰهُ هَرْ چِيْزْ پَرْ قَادِرْ هِيْ۔

تفسیر آیات

۱۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ: سیر فی الارض سے احساس و شعور بیدار ہو جاتا ہے۔ مانوس مناظر

سے شاید آنکھ نہ کھلے لیکن جدید مناظر سے آنکھیں کھل سکتی ہیں۔ پھر سیر فی الارض سے کرہ ارض کے مختلف گوشوں سے ابتدائے خلقت کے بارے میں معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔
آئندہ نسلوں کو مزید معلومات حاصل ہونے کے بعد اگر راز حیات مزید منکشف ہو جائے تو ممکن ہے اعادہ حیات کا مسئلہ سائنسی بنیادوں پر حل ہو جائے:

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولٰٓئِیَ... ۱ اور تحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو،
۲- ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْاٰخِرَةَ: جب نشاۃ اولیٰ کا علم ہو جائے تو نشاۃ اخریٰ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔

اہم نکات

۱- طلب علم کے لیے سیر فی الارض اہمیت رکھتا ہے۔
یُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَآلِیْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿۱۱﴾
۲- وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

تفسیر آیات

۱- نشاۃ اخریٰ میں جانے والوں میں سے کچھ لوگوں کو اگر اللہ چاہے عذاب دے گا اور جن پر چاہے رحم کرے گا۔ اللہ کا چاہنا ایک عادلانہ قانون کے تحت ہوگا۔ عدل و انصاف کی بنیادوں پر رحم کرے گا اور عذاب دے گا۔
۲- وَآلِیْهِ تُقْلَبُوْنَ: اس فیصلے کے لیے کہ کس پر عذاب اور کس پر رحم کیا جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ فِی الْاَرْضِ ۚ وَآسْمَانِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلٰیٍّ وَّلَا نَنْصِیْرُ ﴿۱۷﴾
۲۲- اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز بنا سکتے ہو اور نہ آسمان میں اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔

تفسیر آیات

۱- قیامت کے دن تم اللہ کے فیصلے سے نہیں بچ سکتے، نہ تم اللہ کو اپنے فیصلے پر عمل کرنے سے عاجز بنا سکتے ہو، نہ اللہ کی حکومت سے فرار ہو سکتے ہو۔ تمہارے لیے نہ زمین میں کوئی فرار ہے، نہ آسمان میں۔

۲۔ اللہ کے فیصلے سے بچنے کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی تمہاری مدد کو آ جائے۔ قیامت کے دن ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی کی مدد کر سکے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَآيَاتِ رَسُولِهِ
أُولَٰئِكَ يَسْأَلُونَ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۳﴾

۲۳۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے ناامید ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا: جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی آیات و دلائل کو رد کیا اور اللہ کی معبودیت تسلیم نہیں کی، نتیجتاً اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ نہیں کیں۔

۲۔ وَآيَاتِ رَسُولِهِ: اور روز آخرت کا بھی انکار کیا اور تسلیم نہیں کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔

۳۔ أُولَٰئِكَ يَسْأَلُونَ رَحْمَتِي: جب ان لوگوں نے دنیا میں اللہ کی رحمت کو قبول نہیں کیا تو لازمی طور پر قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ انہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اللہ کی رحمت کے اہل نہیں رہے۔

اہم نکات

۱۔ جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا اہل نہیں بناتے، قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ
اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۴﴾

۳۴۔ تو اس (ابراہیم) کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ وہ کہیں: انہیں قتل کر ڈالو یا جلا دو لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، ایمان والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قائم کردہ دلائل اور نصیحتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

۲۔ اَلَا اَنْ قَالُوا اَفْتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ: آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس قسم کی سزا دینی چاہیے۔ چنانچہ آخر یہ طے ہوا کہ قتل کرنے سے سزا کو شہرت نہیں ملے گی، آگ میں جلانے سے زیادہ شہرت مل جائے گی۔ اس طرح یہ سزا زیادہ عبرتناک ثابت ہوگی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت الی الحق کے مقابلے میں اس طاغوت کے پاس کوئی منطقی جواب نہیں تھا۔ اس لیے طاقت کی زبان استعمال کرتے ہوئے انہیں قتل کرنے یا آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتش سے بچنے کے مادی وسائل نہ تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور آگ کو گلزار بنا دیا۔

یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ جہاں اس کے بندے اپنے دفاع کے لیے مادی وسائل نہ رکھتے ہوں اور دشمن پوری طاقت کے ساتھ مقابلے میں آجائے تو اللہ کی مدد معجزے کی صورت میں آجاتی ہے اور اگر بندوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے وسائل موجود ہوں، پھر بھی وہ دشمن کا مقابلہ نہ کریں تو اللہ کی مدد نہیں آتی۔ دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ نمرود والے اس عظیم معجزے کے مشاہدے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کل کے مادہ پرست محسوس معجزوں پر بھی ایمان نہیں لائے۔

۳۔ فَانجَلِ اللَّهُ مِنَ النَّارِ: اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آتش سے نجات دی۔ تفصیل کے لیے سورۃ الانبیاء ملاحظہ فرمائیں۔ روایت ہے کہ آتش نے صرف اس رسی کو جلایا جس سے حضرات ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھے گئے تھے۔

۴۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش سے نجات دینا اللہ کی قدرت کاملہ، وعدہ الہی کے سچا ہونے، اپنے رسول کی حفاظت، دشمن کی خواری، بت شکنی کو جاودانی ملنے اور ایمان والوں کی فتح کی نشانی ہے۔

اہم نکات

۱۔ ایمان باللہ کی طاقت، باطل کی آتش پر غالب آنا ہے۔

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ
اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا اُولٰٓئِكَ

۲۵۔ اور ابراہیم نے کہا: تم صرف اس لیے اللہ کو
چھوڑ کر بتوں کو لیے بیٹھے ہو کہ تمہارے درمیان
دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں پھر قیامت کے
دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک
دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور جہنم تمہارا ٹھکانا ہو

النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ لُصْرَيْنَ ۝۲۶ گاہ اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔

تفسیر آیات

۱۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ: بظاہر آتش نمود سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارشادات کا

ذکر ہے۔

۲۔ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ: ان معجزوں کے بعد بھی بت پرستی کو ترک نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اب بھی بتوں پر تمہارا عقیدہ و ایمان پختہ ہے بلکہ ان کی پرستش کا واحد محرک آپس کے روابط اور رشتے ہیں۔ وہ گہرے روابط اور محبت و ہمدردی کو حق پر قربان کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے۔

آپس کے تعلقات اور برادری کی بندش ہی سبب ہے کہ تم اپنی برادری کے رسم و رواج سے باہر سوچتے نہیں ہو۔ اگر برادری کی بندش سے آزاد ہو جاتے تو تم حق کو ترجیح دیتے۔

آج بھی ہم اپنے معاشروں میں ایمانی قدروں کو برادری کی بندش پر قربان کرتے نظر آتے ہیں۔

۳۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ: قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ یہ بندش ٹوٹ جائے گی بلکہ ایک دوسرے کے منکر ہو جائیں گے۔ مرید اپنے آقا کے، آقا اپنے مریدوں کے منکر ہو جائیں گے۔ نہ صرف انکار بلکہ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ایک دوسرے پر لعنت کریں گے:

أَلَا خَلَاءَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ بِبَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝۲۷

اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔

اہم نکات

۱۔ ہر چیز ایمان پر قربان ہو سکتی ہے، ایمان کسی چیز پر نہیں۔

۲۶۔ اس وقت لوط ان پر ایمان لے آئے اور کہنے

فَأَمِّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي

مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۲۷

۱۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے آپ کی تصدیق کی۔ حضرت

لوط علیہ السلام آپ کے بھانجے تھے اور خود بھی نبوت کی منزل پر فائز تھے۔ وہ پہلے مؤمن باللہ تھے۔

۲۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ یعنی اپنے رب کی خوشنودی کی طرف۔ چنانچہ حضرت ابراہیم لوط علیہما السلام اور اپنی زوجہ سارہ کے ساتھ کلدان (عراق) سے ہجرت کر کے ماوراء اردن چلے گئے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ
جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا
فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۵﴾

۲۷۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور انہیں دنیا ہی میں اجر دے دیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ: ہم نے ابراہیم کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ کہتے ہیں یہاں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں آیا چونکہ عمر کے آخری حصے میں اولاد سے مایوس ہونے کے بعد اسحاق علیہ السلام عنایت ہوئے تھے۔ اس لیے اس احسان کا خاص طور پر ذکر فرمایا:

۲۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ: چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے مبعوث ہوئے۔ خاندانی نجابت اور وارثی خصوصیات کو اس بار امانت کو اٹھانے کی اہلیت میں بڑا دخل ہے۔

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ... ۱۔ اللہ (ہی) بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الہی منصب کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے۔

۳۔ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا: دنیا میں جو نیک نامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں۔ آپ علیہ السلام تمام ادیان ساوی کے امام ہیں اور سب اپنی حقانیت کے لیے آپ علیہ السلام کو سند قرار دیتے ہیں۔ نمرود کا تخت و تاج مٹ گیا لیکن نمرود کے ہاتھوں اسیر ہونے والے ابراہیم علیہ السلام آج تمام ادیان کی امامت کر رہے ہیں اور قیامت تک آپ علیہ السلام کی امامت قائم رہے گی۔

۴۔ وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ: ابراہیم علیہ السلام کو دنیا و آخرت دونوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ دنیا میں امامت کا مقام حاصل ہے اور آخرت میں صالحین کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔

اہم نکات

۱۔ اللہ نے نبوت کو ایک خاندان میں مختص کر دیا ہے۔

۲- خاندانی نجابت کو منصب الہی کی اہلیت میں دخل ہے۔

۲۸- اور لوط کو بھی (رسول بنایا) جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا: بلاشبہ تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا۔

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۲۸﴾

۱- وَلَوْطًا: اور ہم نے لوط کو نبی بنا کر بھیجا۔

۲- إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: قوم لوط سے پہلے اس دنیا میں اس حرکت بد سے کوئی آشنا نہ تھا یا دنیا میں یہ بد فعلی اس قدر نہیں پھیلی جیسے اس قوم میں پھیلی۔

۲۹- کیا تم (شہوت رانی کے لیے) مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی محافل میں برے کام کرتے ہو؟ پس ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ وہ کہیں: ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۗ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ ۗ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّتُمْ بَعْدَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۲۹﴾

تفسیر آیات

۱- أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ: کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ چونکہ اس قوم میں یہ بد فعلی اس قدر عام ہو گئی کہ کسی مہمان کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔

۲- وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ: اس جملے کی ایک تفسیر یہ ہے کہ تم افزائش نسل کا راستہ روکتے ہو چونکہ عورتوں سے نکاح نہ کرنے اور مردوں کے پاس جانے سے نسل کشی ہو جاتی ہے۔

دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے: یہ لوگ رہزنی کرتے اور راہ گزر مسافروں کو پتھر مارتے تھے۔ جسے پتھر لگ جاتا وہ اس کا ہو جاتا۔ اس کا مال چھین لیتا، اس کے ساتھ بد فعلی کرتا تھا اور تین درہم کا جرمانہ بھی اس پر لگاتا۔ اس فیصلے کے لیے ان کے پاس ایک قاضی ہوتا تھا۔

قوم لوط کی بہتی چونکہ شام جانے والے قافلوں کے راستے پر واقع تھی وہ ان قافلوں پر رہزنی

کرتے تھے۔

۳۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ: وہ اس بدکاری کو پوشیدہ طور پر نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے لیے محفلیں جماتے تھے جیسا کہ آج کل پکچر گیلری، سینما اور میوزک ہال وغیرہ میں بجلائی جاتی ہے اور فحاشی اور بے حیائی پر مشتمل بے تحاشا چینلز نے تو شرم و حیا کا مفہوم و مصداق بدل کر رکھ دیا ہے۔

۴۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ: حضرت لوط عليه السلام کی اس نصیحت کے جواب میں وہ کہتے ہیں: اگر آپ اپنے دعوائے نبوت میں سچے ہیں اور عذاب آنے کی جو آپ خبر دے رہے ہیں اس میں آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں۔

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ⑤
۳۰۔ لوط نے کہا: پروردگارا! ان مفسدوں کے خلاف میری مدد فرما۔

تفسیر آیات

حضرت لوط عليه السلام نے قوم کا یہ جواب سن کر اللہ سے اس مفسد قوم کے مقابلے کے لیے مدد مانگی۔ اس مدد کا تعلق اس قوم کی ہدایت اور راہ راست پر لانے سے تھا لیکن جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس مدد کا تعلق اس قوم کی تباہی سے ہو گیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اس عذاب کا ذکر آ رہا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ
بِالْبَشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا
أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا
كَانُوا ظَالِمِينَ ⑥
۳۱۔ اور جب ہمارے فرستادہ (فرشتے) ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے: ہم اس بستی کے باسیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یہاں کے باشندے یقیناً بڑے ظالم ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ: حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق و یعقوب عليهم السلام کی بشارت دینے کے لیے یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم عليه السلام کے پاس آئے جس کی تفصیل سورہ ہود آیت ۷۱ میں گزر گئی ہے۔ اس بشارت کے بعد بتایا ہمیں قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجا گیا ہے۔

۲۔ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ: اس بستی کے باشندوں کی ہلاکت کے لیے ہم آئے ہیں۔ چونکہ قوم لوط کی بستی شہر سدوم، حضرت ابراہیم عليه السلام کی بستی ارض مقدس کے نزدیک تھی اس لیے ہذہ اشارہ قریب کا لفظ

استعمال ہوا۔

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۖ قَالُوا نَحْنُ
أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۗ لَنُنَجِّيَنَّهُ ۗ وَ
أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۗ كَانَتْ مِنَ
الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾

۳۲۔ ابراہیم نے کہا: اس بستی میں تو لوط بھی ہیں،
وہ بولے ہم بہتر جانتے ہیں یہاں کون لوگ ہیں،
ہم انہیں اور ان کے اہل کو ضرور بچائیں گے سوائے
ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

تفسیر آیات

حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے حق میں نہ تھے اور اِن فِيهَا لُوطًا کہنے کا
مطلب یہی ہے کہ جس قوم میں لوط موجود ہیں اس پر عذاب نازل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ سورہ ہود میں
فرمایا:

يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۗ
قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ: فرشتوں نے کہا: ہمیں زیادہ علم ہے کہ اس بستی میں کون کون بستا ہے۔ ہم لوط
اور اس کے اہل بیت کو نجات دیں گے۔ سوائے اس کی زوجہ کے جو ہلاکت میں جانے والوں میں شریک ہو
گی۔ چونکہ یہ عورت ایک رسول کی زوجہ ہونے کے باوجود قوم لوط کے ساتھ جرم میں شریک تھی۔

وَلَمَّا آتَتْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا
سَيِّئًا ۖ وَصَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا ۗ
قَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۗ إِنَّا
مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾

۳۳۔ اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس
آئے تو لوط ان کی وجہ سے پریشان اور دل تنگ
ہوئے تو فرشتوں نے کہا: خوف نہ کریں نہ ہی
محزون ہوں، ہم آپ اور آپ کے گھر والوں
کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے
جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

تفسیر آیات

۱۔ فرشتوں کو خبر ہو جانوں کی شکل میں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ بدرکار قوم ان

کی طرف بری نیت سے آئے گی اور وہ ان مہمانوں کو تحفظ بھی نہیں دے سکتے۔ اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا: لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ کسی قسم کا خوف اور ملال نہ کریں ہم آپ کو ان کے شر سے بچائیں گے۔ تفصیل سورہ ہود آیت ۷۷ و حجر میں گزر چکی ہے۔

۳۳۔ بے شک ہم اس بستی میں رہنے والوں پر
اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰی اَهْلِ هٰذِهِ
الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا
يَفْسُقُوْنَ ﴿۳۳﴾
آسمان سے آفت نازل کرنے والے ہیں اس بد عملی
کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔
۳۵۔ اور تحقیق ہم نے عقل سے کام لینے والوں کے
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿۳۵﴾
لیے اس بستی میں ایک واضح نشانی چھوڑی ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰی اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ: یہ تصور مسلمہ شمار کیا جاتا ہے کہ ایک ہولناک زلزلے کے نتیجے میں شہر سدوم دھنس گیا اور اس جگہ بحیرہ مردار وجود میں آیا جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔
۲۔ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ: رجز عذاب کے معنوں میں ہے۔ سورہ ہود میں بھی اس عذاب کا ذکر آیا کہ یہ عذاب زلزلہ کی شکل میں تھا یا آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں۔
ممکن ہے یہ عذاب آتش فشانی کے دھماکے کے ساتھ آیا ہو جس میں زلزلہ بھی ہوتا ہے اور زمین تہ و بالا ہو جاتی ہے اور آتش فشانی کی وجہ سے اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے۔
۳۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً: یہ نشانی آج بھی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ کہتے ہیں آج تک بحر لوط کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں اس دھماکے کے آثار ہر طرف نمایاں ہیں۔
راقم کو سنہ ۲۰۰۱ء میں بحیرہ مردار دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ موجودہ اردن اور فلسطین کے درمیان واقع اس علاقے پر آج بھی موت کے آثار چھائے ہوئے ہیں۔

چنانچہ صافات: ۱۳۷ میں فرمایا:

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصِحِّينَ ۝

اور سورہ حجر ۷۵۔ ۷۶ میں فرمایا:

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّمَنْ تَوَسَّوْنَ ۝ وَإِنَّهَا

لِلسَّبِيْلِ مُّقِيْمٍ ۝

اور تم دن کو بھی ان (بستیوں) سے گزرتے رہتے ہو۔

اس واقعہ میں صاحبان فراست کے لیے نشانیاں ہیں اور یہ بستی زیر استعمال گزرگاہ میں (آج بھی) موجود ہے۔

وَالۡیَ مَدۡیۡنَ اَخَاهُمۡ شُعَیۡبًا ۙ
فَقَالَ یٰقَوْمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَارۡجُوا
الۡیَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعۡتَوۡا فِی الْاَرْضِ
مُفۡسِدِیۡنَ ﴿۳۶﴾
۳۶۔ اور (ہم نے) مدین کی طرف ان کی برادری
کے شعیب (کو بھیجا) تو انہوں نے کہا: اے
میری قوم! اللہ کی بندگی کرو اور روزِ آخرت کی
امید رکھو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔

تفسیر آیات

۱۔ وَالۡیَ مَدۡیۡنَ اَخَاهُمۡ شُعَیۡبًا: حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف مبعوث کیا: ان کی
دعوت تین اہم ستونوں پر قائم تھی:

الف۔ اعۡبُدُوا اللّٰهَ: صرف اللہ کی عبادت اور ہر قسم کے شرک کی نفی۔

ب۔ وَارۡجُوا الْیَوْمَ الْاٰخِرَ: ان عبادتوں سے آخرت کی نجات کی امید رکھ۔ یعنی آخرت کا عقیدہ
راخ کرو۔

ج۔ وَلَا تَعۡتَوۡا: زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ان کے فساد کے دائرہ، ناپ تول یعنی تجارتی میدان
میں خیانت اور بددیانتی پر مشتمل تھا۔

فَكَذَّبُوهُ فَاَخَذَتۡهُمُ الرَّجْفَةُ
فَاَصۡبَحُوۡا فِیۡ دَارِهِمۡ جِثَمِیۡنَ ﴿۳۷﴾
۳۷۔ پس انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو انہیں
زلزلے نے گرفت میں لے لیا پس وہ اپنے گھروں
میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

تفسیر آیات

سورہ ہود میں فرمایا: اس قوم کو خوفناک آواز نے ہلاک کیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا: زلزلے
نے ہلاک کیا۔ ممکن ہے خوفناک دھماکے سے شدید زلزلے کے ساتھ خوفناک آواز بھی نکلی ہو۔

وَعَادًا وَّ ثَمُوْدًا وَّقَدۡ تَبَّیۡنَ لَکُمۡ
مِّنۡ مَّسٰکِنِهِمۡ ۗ وَزَیۡنَ لَّهُمۡ
الشَّیۡطٰنُ اَعۡمٰلَهُمۡ فَصَدَّہُمۡ عَنِ
السَّبۡیۡلِ وَكَانُوۡا مُسۡتَبۡصِرِیۡنَ ﴿۳۸﴾
۳۸۔ اور عاد و ثمود کو (بھی ہلاک کیا) اور تحقیق
ان کے مکانوں سے تمہارے لیے یہ بات واضح
ہو گئی اور شیطان نے ان کے لیے ان کے
اعمال کو آراستہ کیا اور انہیں راہ (راست) سے
روکے رکھا حالانکہ وہ ہوش مند تھے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَعَادًا وَثَمُودًا: اور ہم نے قوم عاد اور قوم ثمود کو بھی ہلاک کیا۔ جن مقامات کو آج احقاف، یمن اور حضر موت کہتے ہیں یہاں قوم عاد آباد تھی اور شمالی حجاز میں رابع سے لے کر عقبہ تک اور خیبر سے لے کر تبوک تک کے تمام علاقوں میں قوم ثمود آباد تھی۔

۲۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ: شام اور یمن کی طرف اپنے سفروں میں تم ان کی تباہی کا مشاہدہ کرتے ہو۔ نزول قرآن کے زمانے میں مکہ والے ان علاقوں سے گزرا کرتے اور اس قوم کے تباہ شدہ گھروں کا مشاہدہ کرتے تھے۔

۳۔ وَرَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ اَعْمَالَهُمْ: ان کے اعمال زشت کو شیطان نے خوشنما بنا دیا۔ اس لیے وہ ان جرائم کو نیک عمل سمجھ کر بجالاتے ہیں۔ وہ شرک کو بہترین شکل دے کر تم کو دھوکہ دیتا رہا۔

۴۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ: یہ قوم اپنی جگہ ہوشمند لوگ تھے۔ اس جملے کی چند ایک تفسیریں ہیں: ایک یہ کہ یہ قوم راہ راست سے منحرف ہونے سے پہلے دین فطرت دین توحید پر تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے: ان لوگوں کے شیطان کے ہتھے چڑھنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ نادان تھے بلکہ یہ خاصے عقل و خرد کے مالک ہونے کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ضلالت اختیار کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ سیاق آیت ان تفاسیر کے ساتھ متضاد نہیں ہے لیکن کسی ایک تفسیر کا اختیار کرنا مقام تا مل ہے۔

۳۹۔ اور قارون و فرعون اور ہامان کو (بھی ہم نے
وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا
كَانُوا اسْتِقِينَ ﴿۳۹﴾

ہلاک کیا) اور تحقیق موسیٰ واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے تھے پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن وہ (ہماری گرفت سے) نکل نہ سکے۔

تفسیر آیات

۱۔ اور ہم نے قارون جیسے بڑے سرمایہ دار تکبر کو ہلاک کیا اور فرعون جیسے طاغوت اور جابر کو غرق آب کیا اور ہامان جیسے طاغوت کے ستون کو گرا دیا۔

۲۔ حالانکہ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے تھے۔ ان پر حجت پوری کر چکے تھے اور حق واضح کرنے کے لازم تمام وسائل استعمال میں لائے تھے لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا اور ان معجزات کو جادو کہہ کر حقارت سے ٹھکرا دیا۔

۳۔ وَمَا كَانُوا سَاقِيْنَ: آخر میں وہ ہماری گرفت سے نہیں بچ سکے اور ہلاکت کی گہرائی میں گر

گئے۔

۴۰۔ پس ان سب کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہم نے گرفت میں لیا پھر ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر برسائے اور کچھ کو چنگھاڑنے گرفت میں لیا اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا مگر یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔

فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۴۰﴾

تفسیر آیات

۱۔ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ: ان سرکش اقوام میں سے ہر ایک کو اس کے جرم کے مطابق ہم نے گرفت

میں لیا۔

۲۔ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا: ان میں سے قوم عاد کو شدید آندھی کے ذریعے تباہ کیا جو ان پر سات

راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہی۔

۳۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ: قوم ثمود کو چنگاڑنے گرفت میں لیا۔

۴۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ: قارون کو زمین دھنسا دیا۔

۵۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا: فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔

۶۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ: یہ سزائیں خود ان سرکش اقوام کے جرائم کے لازمی نتائج کے

طور پر وقوع پذیر ہوئیں۔ ان سزاؤں کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے۔

یہاں اہل مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم تاریخ کے اس مکافات عمل سے مستثنیٰ نہیں ہو۔ تمہارے

ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔

۴۱۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۚ

بنایا ہے ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو

اِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَاِنْ اَوْهَنْ
الْبُيُوتِ لَبِيَّتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾
اپنا گھر بناتی ہے اور گھروں میں سب سے
کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے اگر یہ لوگ جانتے
ہوتے۔

تفسیر آیات

اس کائنات میں قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی طاقت موجود ہے تو اسی سرچشمے سے متصل اور اسی طاقت کے ذیل میں واقع ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی اس سلسلے میں باہر چلا جاتا ہے اور غیر اللہ سے لو لگاتا ہے تو اس غیر اللہ کی بے ثباتی اور ناتوانی مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو معمولی چوٹ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

لہذا جو لوگ غیر اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے اور اس حیات کے لیے غیر اللہ سے سہارا لینا چاہتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے مکڑی کے جالے کو اپنے لیے سہارا سمجھیں۔ بھلا مکڑی کا جال انہیں کو کس مصیبت سے بچائے گا اور زندگی میں کس کام کے لیے ان کا سہارا بنے گا۔

اہم نکات

۱۔ جو غیر اللہ کو اپنا سہارا سمجھے وہ بے سہارا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ
مِنْ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾
یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس چیز کو پکارتے
ہیں اللہ کو یقیناً اس کا علم ہے اور وہی بڑا غالب
آنے والا، حکمت والا ہے۔

تفسیر آیات

یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جن غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ وہ لاشیء کو پکارتے ہیں اور وہ ضرورت کے موقع پر مکڑی کے جالے کی طرح ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اگر کوئی بالادست طاقت کا مالک ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی حقیقت سے منسلک رہنا ہے تو اللہ کی ذات ہی حقیقت ہے باقی لاشیء ہے۔

اہم نکات

۱۔ صرف اللہ کی ذات حقیقت اور واقع ہے۔

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ
وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ ﴿٣٣﴾

۳۳۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے
ہیں مگر ان کو علم رکھنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔

تفسیر آیات

عام سطحی ذہن ان مثالوں میں مشبہ بہ (جس کی تشبیہ دی گئی ہے) کی طرف جاتا ہے۔ وہ عظیم ہے
تو تمثیل عظیم، وہ حقیر ہے تو تمثیل حقیر۔

جب کہ اہل علم کا ذہن وجہ شبہ کی طرف جاتا ہے۔ کڑی کی مثال میں عامۃ الناس کا ذہن کڑی کی
طرف اور اہل علم کا ذہن ناپائیداری کی طرف جاتا ہے۔ جس سے اس مثال کی لطافت سمجھ میں آتی ہے۔

اہم نکات

۱۔ صرف اہل علم عقل سے کام لیتے ہیں۔

خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِالْحَقِّ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٤﴾

۳۴۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا
ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً ایک
نشانی ہے۔

تفسیر آیات

اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حق و حقیقت کی بنیاد پر بنایا۔ اس کی خلقت بے مقصد اور بے حکمت
نہیں ہے۔ کائنات کی تخلیق میں مضمحلہ سمجھنے کے لیے حقیقت بین قلب کی ضرورت ہے اور حقیقت بین
قلب وہ ہوتا ہے جس میں ایمان ہے۔ ایمان کی شفافیت سے حقائق نظر آتے ہیں۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ
تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَ
لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تَصْنَعُونَ ﴿٣٥﴾

۳۵۔ (اے نبی) آپ کی طرف کتاب کی جو
وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم
کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی
ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور تم
جو کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ اَتْلُ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ: اس آیہ مبارکہ میں رسالتِ مبارکہ کے لیے دو حکم آئے ہیں۔ ایک تلاوت کتاب، دوسرا اقامہ نماز۔

تلاوت کتاب میں دعوت، تعلیم اور تربیت ہے۔ اسی لیے پہلے تلاوت کتاب کا حکم ہے کہ احکام کی ذمہ داری ڈالنے سے پہلے لوگوں کو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ضروری تعلیم و تربیت دیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اسی لیے احکام کے نفاذ سے پہلے ایک مدت تک آیات قرآنی کی تبلیغ و ارشاد فرماتے رہے۔

۲۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ: الف۔ دن میں پانچ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جانے والا شخص اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر بے حیائی اور برائی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ البتہ گناہ کا ارتکاب ممکن رہ جاتا ہے مگر جس کے دل میں شعور بیدار ہو کہ وہ اللہ کے حضور میں ہے وہ جرم کے ارتکاب سے شرماتا اور ڈرتا ہے۔

نماز، نمازی کا ضمیر بیدار رکھتی ہے جس سے گناہ کا احساس زندہ رہتا ہے۔ نماز اور عبادت سے انسان کا نفس پاکیزہ اور شفاف ہو جاتا ہے اور دل میں روشنی آ جاتی ہے جس سے برائی نمازی کے سامنے برائی کی شکل میں اور بے حیائی بے حیائی کی شکل میں آ جاتی ہے ورنہ شیطان بے حیائی کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔

وَزَيْنٌ نَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ
عَنِ السَّبِيلِ... ۱
اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ
کیا اور انہیں راہ (راست) سے روک رکھا۔
حدیث میں آیا ہے:

الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ كُلُّ تَقِيٍّ... ۲
نماز ہر متقی کے لیے ذریعہ قربت ہے۔
قرب الہی کے حصول سے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا شعور زیادہ ہو جاتا ہے جو اللہ سے دور کر

دیتی ہیں۔

۳۔ تَنْهَى: میں انہی روکنے کے معنوں میں ہے۔ روکنے کی دو صورتیں ہیں: پہلی صورت یہ ہے کہ نماز، نمازی کو برائی سے روکتی ہے۔ اس صورت کا ذکر ہو گیا ہے۔ دوسری صورت خود نماز برائی کو روکتی ہے، برائی کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی نماز، نمازی کے ذمے برائی رہنے نہیں دیتی بلکہ دور کر دیتی ہے۔ اس پر سورہ ہود کی آیت ۱۱۴ شاہد ہے کہ اقامہ نماز کے حکم کے بعد فرمایا: نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ
اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. ۳
اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں اور رات کے کچھ
حصوں میں، نیکیاں بیشک برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔

حدیث رسول ﷺ سے بھی یہی بات سامنے آتی ہے:
الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ۚ
والے گناہوں کا کفارہ ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

صلوة اللیل کفارۃ لما اجترح بالنهار۔ ۱ رات کی نماز دن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔

اس طرح نماز بہترین نیکی اور بہترین کفارہ ہے جس سے گناہ دور ہو جاتے یا دھل جاتے ہیں۔

جو نماز بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے اس نماز کے یہ نتائج ہوں گے: یہ بے حیائی اور برائی کو دور کر

دیتی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے جس میں آپؐ نے فرمایا:

من احب ان يعلم اقبلت صلوتہ ام لم تقبل فلینظر هل منعتہ صلاتہ

جو یہ جاننا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں

تو وہ یہ دیکھے کہ کیا اس کی نماز نے بے حیائی اور

عن الفحشاء والمنکر فبقدر ما

برائی کو دور کیا ہے۔ جس قدر دور کیا ہے اسی مقدار

منعتہ قبلت منه۔ ۲

میں قبول ہوئی ہے۔

و: نماز بے حیائی اور برائی کا قدرتی علاج نہیں ہے۔ نماز دوائی نہیں ہے کہ جس سے بے حیائی اور

برائی کا درد ختم ہو جائے اور یہ سوال پیدا کیا جائے کہ اس کا فوری اثر نہ ہوا اور نماز کے باوجود بے حیائی اور

برائی کا درد ختم نہیں ہو رہا بلکہ نماز کے اپنے اثرات ہیں جو کسی وقت بھی نمودار ہو سکتے ہیں۔

چنانچہ روایت ہے:

انصار کا ایک جواں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا لیکن وہ بے حیائی اور برائی

کے ارتکاب سے باز نہیں آتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر ہوا تو آپ نے

فرمایا:

ان صلوتہ ستنہاہ

اس کی نماز عنقریب اسے روک دے گی۔

چنانچہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے توبہ کر لی۔ ۳

المیزان میں اس جگہ لکھا ہے:

یہاں نمازی اور بے نمازی میں موازنہ ہونا چاہیے۔ بے نمازی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ

نماز ترک کرنے کے ساتھ روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور دیگر دینی واجبات ترک کرتا ہے۔

پاک و نجس اور حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا اور نہایت لاپرواہ ہے۔ پھر اگر آپ

موازنہ کریں اس تارک الصلوٰۃ اور معمولی درجہ کے نمازی میں تو تارک الصلوٰۃ کی یہ نسبت اس نمازی کو بہت سی برائیوں سے پاک پائیں گے پھر جو زیادہ نماز کا پابند ہے اسے زیادہ پاکیزہ پائیں گے۔

۳۔ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ: ذکر خدا تو بہت بڑا ہے۔ ذکر خدا، خدا کے علاوہ تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ نماز ذکر خدا ہے لہذا نماز سب سے بڑی ہے۔ ذکر خدا اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی غرض تخلیق ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ نماز اور ذکر خدا میں اللہ کی خوشنودی ہے۔

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔

۴۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ: اللہ کو خوب علم ہے ہماری حرکتوں، اعمال، ان اعمال کے اصل محرک، ان کی نوعیت، ان کے وزن، ان میں موجود خلوص اور دیگر تمام خصوصیات کا۔

اہم نکات

- ۱۔ نماز پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔
- ۲۔ ذکر خدا سے بڑی چیز کوئی نہیں۔

۴۶۔ اور تم اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر بہتر طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں اور کہہ دو کہ ہم اس (کتاب) پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور اس (کتاب) پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقَوْلُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۴۶﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ: اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے چونکہ یہ آیت کمی ہے۔ مکہ میں اہل کتاب کے ساتھ بحث و مناظرہ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ممکن ہے گزشتہ آیات میں گزشتہ اقوام کے حالات بیان ہوئے تو اہل کتاب اور مومنین میں قرآن کے وحی ہونے کے موضوع

پر بحث چھڑ گئی ہو اور اہل کتاب یہ الزام عائد کر رہے ہوں کہ یہ قرآن ہماری کتابوں سے اقتباس ہے۔ اس احتمال پر آیت ۴۸ قرینہ ہے جس میں فرمایا: آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے کہ توریت و انجیل سے اقتباس ہو سکے۔ اس آیت میں یہ حکم آیا کہ اہل کتاب سے بحث و مناظرہ کریں تو احسن طریقے سے کریں۔ احسن اخلاق اور احترام و آداب کے دائرے میں رہ کر کریں۔ حسن گفتار سے دوسرے فریق کا دل آپ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ آپ کی بات سمجھنے کے لیے دل کے در پیچے کھل جاتے ہیں۔ آپ کے حسن گفتار سے وہ آپ کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ جب کہ بدکلامی سے دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ نفرت سے دل کے در پیچے بند ہو جاتے ہیں جس سے آپ کی منطق، دلیل اور برہان کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اسلام انسانی دعوت کا حامل ہے۔ اس دعوت میں انسان دوستی، دوسروں سے ہمدردی مضمر ہے۔ آپ دوسروں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان سے ہمدردی ہے۔ ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بحث کریں تو پیار و محبت کے ساتھ کریں۔

۲۔ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ: جو آپ کے ساتھ گفتگو اور بحث میں اعتدال سے کام نہیں لیتے، اخلاق و آداب کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن گفتار موثر نہیں ہے۔ نرمی کو وہ کمزوری سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے حسن گفتار کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے علاج بالمثل ہونا چاہیے۔

۳۔ وَقَوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِيْۤ اُنزِلَ اِلَيْنَا: اس جملے میں اصول مناظرہ کا ایک بنیادی اصل بیان ہوا ہے کہ کسی سے اگر مناظرہ کرنا ہو تو اختلافی مسائل پیش کرنے کی بجائے فریقین میں مشترکات کو زبر بحث لایا جائے، پھر بحث اس بات پر ہو کہ اس قدر مشترکات پر کون سا فریق قائم ہے۔ چنانچہ توریت و انجیل کو ہم سب مانتے ہیں۔

۴۔ وَاللّٰهُنَّآوَاللّٰهُمُّوَاحِدٌ: یہاں قدر مشترک یہ ہے کہ مسلمان اور اہل کتاب دونوں کا معبود ایک ہے۔ دونوں ایک ہی معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بحث اس بات پر ہونی چاہیے کہ دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق اس کی عبادت کرتا ہے اور کون سا فریق ہے جو ایک ہی معبود کی عبادت سے انحراف کا شکار ہو گیا ہے۔

۵۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ: ہم دونوں اس ایک معبود کو تسلیم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک معبود کو تسلیم کر کے اس کے احکام اپنانے اور اسے اپنی حیات کا حصہ بنانے میں کون سا فریق کامیاب ہے۔

اہم نکات

۱۔ مناظرہ میں مد مقابل کو قریب کرنے کا طریقہ قدر مشترک کو موضوع بحث بنانا ہے۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۖ
فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ
بِهِ ۚ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۖ وَ
مَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾

۴۷۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی بعض اس پر ایمان لے آئے ہیں اور صرف کفار ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ: جس طرح دیگر انبیاء علیہم السلام پر ہم نے کتاب نازل کی ہے۔ اے رسول آپ پر بھی کتاب نازل کی ہے۔ یہ سلسلہ انبیاء علیہم السلام کی تسلیم شدہ روایت ہے۔ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔
۲۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ: اس بنیاد پر کہ یہ سلسلہ انبیاء علیہم السلام کی ایک کڑی ہے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن وہی کتاب ہے جس کی پیشگوئی ہماری کتابوں میں موجود ہے۔
۳۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ: ان لوگوں میں سے کچھ ایمان لاتے ہیں۔ اشارہ مشرکین کی طرف ہے کہ مشرکین میں سے کچھ ایسے ہیں جو اسے اللہ کی کتاب سمجھ کر اس پر ایمان لے آئے ہیں۔
۴۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ: اس قرآن کی آیات کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو حق چھپاتے اور باطل کا پرچار کرتے ہیں خواہ وہ مشرک ہوں یا اہل کتاب۔

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ
كِتَابٍ وَلَا تَخْطُءُ بِيَمِينِكَ إِذَا
لَا زِتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

۴۸۔ اور (اے نبی) آپ اس (قرآن) سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ کر سکتے تھے۔

تفسیر آیات

۱۔ اگر مشرکین نے کبھی رسول اللہ ﷺ کو پڑھتے اور لکھتے دیکھ لیا ہوتا تو انہیں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا بہانہ مل جاتا کہ یہ قرآن وحی نہیں ہے بلکہ دوسری کتابوں سے ماخوذ ہے۔
مشرکین کہہ نے رسول اللہ کے خلاف ہر الزام عائد کیا آپ کو سحر زدہ کہا گیا:
إِذ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا
یہ ظالم کہتے ہیں: تم (لوگ) تو ایک سحر زدہ آدمی کی

مَسْحُوْرًا ۱

بیروی کرتے ہو۔

اور آپ ﷺ کو جادوگر اور کذاب (بڑا جھوٹا) کہتے:

وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ كٰذِبٌ ۱ اور کفار کہتے ہیں: یہ جھوٹا جادوگر ہے۔

آپ ﷺ کو مجنون اور کاہن کہتے:

فَذَكَرْنَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكٰهِنٍ لٰهٰذَا اٰپ نصیحت کرتے جائیں کہ آپ اپنے رب

وَلَا مَجْنُوْنٍ ۲ کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔

آپ ﷺ کو شاعر کہتے:

وَيَقُوْلُوْنَ اٰبَاتُنَا رِجْوَا الْهَيْتَا لِشَاعِرٍ اور کہتے تھے: کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر

مَجْنُوْنٍ ۳ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟

یہ الزام بھی عائد کیا کہ آپ کو کوئی عجمی تعلیم دیتا ہے:

وَلَقَدْ نَعَلْنَا اَنْهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا عَلَّمَهُ اور تحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ (آپ کے بارے

بَشَرٌ لِّسَانِ الَّذِي يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ میں) کہتے ہیں: اس شخص کو ایک انسان سکھاتا ہے،

حالاںکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی

زبان عجمی ہے اور یہ (قرآن) تو واضح عربی زبان ہے۔

اس طرح ہر الزام عائد کیا لیکن ان الزامات میں یہ الزام شامل نہیں ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا

ہے۔ اس قرآن کو دوسری کتابیں پڑھ کر بنایا ہے بلکہ ایک جگہ تو مشرکین نے اپنے الزام میں کہا ہے: یہ

انگلوں کی داستانوں کو لکھواتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ لکھتا ہے:

وَقَالُوْا اَسٰطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اَكْتَتَبَهَا اور کہتے ہیں: (یہ قرآن) پرانے لوگوں کی داستانیں

فِيْهَا تَمَلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَاَصِيْلًا ۴ ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں اور جو صبح و شام

اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔

اگر رسول کریم ﷺ لکھتے اور پڑھتے تو مکے کے ناخواندہ معاشرے میں جہاں پوری آبادی میں

صرف سترہ افراد کو لکھنا آتا تھا، یہ بات نمایاں طور پر معلوم ہوتی اور آج کل کے معاندین کی بہ نسبت مکہ کے

معاندین کو اس الزام کی زیادہ ضرورت تھی۔

واضح رہے کہ رسول کریم ﷺ ان سیاہی کی لکیروں کو نہیں پڑھتے تھے جو انسانوں کی کھینچی ہوئی

ہیں کیونکہ آپ کا علم ان سے ماوراء تھا۔ آپ لوح محفوظ کی تحریریں پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ

۱ ۱۷ بنی اسرائیل: ۴۷ ۲ ۳۸ ص: ۴ ۳ ۵۲ طور: ۲۹

۴ ۳۷ صافات: ۳۶ ۵ ۱۶ نحل: ۱۰۳ ۶ ۲۵ فرقان: ۵

آپ ان تحریروں کو بھی پڑھ اور لکھ سکتے تھے۔ قرآن میں امکان اور صلاحیت کی نفی نہیں ہے بلکہ وقوع کی نفی ہے کہ آپ ان کتابوں کے محتاج نہ تھے لہذا انہیں پڑھنے کا کبھی اتفاق نہ ہوا۔ نہ یہ کہ پڑھنے سے معذور تھے۔

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُوْرٍ ۝۴۹ بلکہ یہ روشن نشانیاں ان کے سینوں میں ہیں
الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُوْنَ جنہیں علم دیا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار
بِآيَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُوْنَ ۝۵۰ وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔

تفسیر آیات

یہ قرآن کسی بشر کا ساختہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک واضح اور کھلا معجزہ ہے۔ اس معجزے کی جائے نزول و ظہور ان ہستیوں کا سینہ ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ یہ معجزہ ان لوگوں سے مربوط نہیں ہے جنہوں نے کسی انسانی مکتب میں بشری علم حاصل کیا ہے۔ علم حاصل کرنا اور ہے اور علم دیا جانا اور ہے۔ جو لوگ بشری مکتب میں علم حاصل کرتے ہیں وہ نہایت محدود ہوتا ہے چونکہ ایسے لوگوں کا معلم ایک محدود انسان ہوتا ہے لیکن جنہیں علم دیا گیا ہے ان کا معلم اللہ تعالیٰ ہے جس کا علم غیر محدود ہے۔

وَمَا يَجْحَدُوْنَ بِآيَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُوْنَ: وہ لوگ کس قدر اپنے آپ سے ناانصافی کر رہے ہیں جو ایسے واضح معجزات کا انکار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔

اہم نکات

۱۔ قرآن ایک ایسا روشن معجزہ ہے جو سینہ رسول ﷺ سے ظاہر ہوتا ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۵۰ اور لوگ کہتے ہیں: اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟
کہہ دیجیے: نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں اور میں تو صرف واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَقَالُوا: مشرکین کہتے ہیں کہ آپ عصائے موسیٰ، دم مسیح کی طرح کوئی معجزہ پیش کیوں نہیں کرتے۔ وہ تمسخر کے طور پر کہتے تھے: یہ کیسا رسول ہے جس کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے۔ وہ قرآن کو اعتناء میں نہ لاتے اور اسے معجزہ قبول نہیں کرتے تھے۔

۲۔ قُلْ اِنَّمَا الْاٰیٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ: کہد تیجی معجزہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ ہر زمانے کے عصری تقاضوں کے مطابق معجزہ از خود دیتا ہے۔ تمہارے روز کے اور ہر شخص کے مطالبے پر نہیں دیتا کیونکہ جو لوگ معجزہ برائے اثبات حجت چاہتے ہیں ان کے لیے وہ معجزہ کافی ہے جو اللہ نے از خود اپنے رسولؐ کے ہاتھ ظاہر فرمایا۔ عصائے موسیٰ ان لوگوں کے لیے کافی معجزہ تھا لیکن لوگوں نے اسے جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔

۳۔ وَ اِنَّمَا اَنۡزَلۡنَا ذِیۡرًا مُّبۡیِّنًا: واضح طور پر تنبیہ کرنے کے لیے جو معجزہ درکار تھا وہ اللہ تعالیٰ نے از خود پیش فرمایا، وہ قرآن ہے لیکن اسے تم نے ٹھکرا دیا، جادو، خود ساختہ داستان کہہ کر وغیرہ۔

اہم نکات

۱۔ کس زمانے کے لیے کس قسم کا معجزہ دینا ہے اس فیصلہ کا حق اللہ کے پاس ہے: اِنَّمَا الْاٰیٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ...

۵۱۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں سنائی جاتی ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اس (کتاب) میں رحمت اور نصیحت ہے۔

اَوَلَمْ یَكُنْ فِیۡہِمۡۤ اَنۡۡاۡ اَنۡزَلۡنَا عَلَیۡكَ الْكِتٰبَ یَتْلٰی عَلَیۡہِمۡۤ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَرَحۡمَةً وَّ ذِکۡرًا لِّقَوۡمٍ یُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۵۱﴾

تفسیر آیات

۱۔ اَوَلَمْ یَكُنْ فِیۡہِمۡ: کیا معجزہ کے لیے یہ قرآن کافی نہیں ہے جو ایک جامع نظام حیات ہے جس کا ملکتی انداز کلام معجزہ ہے۔ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ عقل و فکر کی دعوت پر مشتمل تعلیمات، روحانی اور مادی تقاضوں کا حامل معجزہ ہے۔ اس معجزے کو دیگر انبیاءؑ کے معجزات پر درج ذیل امتیازات حاصل ہیں:

i۔ یہ معجزہ یَتْلٰی عَلَیۡہِمۡ ہر وقت، ہر عصر کے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ دیگر معجزات کی طرح ایک وقت، ایک قوم، ایک واقعہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ایک دائمی اور مستمر اور جاری معجزہ ہے۔

ii۔ یہ ایک عقلی اور فکری معجزہ ہے۔ دیگر معجزات کا تعلق حسی اور محسوساتی ہونے کے اعتبار سے صرف حس و مشاہدہ سے ہے۔ صرف حس کبھی اشتباہ کا شکار ہو سکتی ہے اور جادو کا احتمال آتا ہے لیکن قرآن کا تعلق حس سماعت سے بھی ہے اور عقل و خرد سے بھی ہے۔ عقلی امور میں جادو نہیں ہوتا اور ساتھ قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ مصر و بابل کی طرح حجاز میں جادو کا کوئی رواج نہ تھا۔

iii- یہ معجزہ ہونے کے ساتھ رحمت بھی ہے: اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً۔ اس قرآن میں رحمت ہے۔ اس

قرآن کی ہر آیت، ہر قانون، ہر حکم اس پر عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے:

وَتُنزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝۱۰۷

اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے لیکن ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔

۲- وَذِكْرِيْ: یہ قرآن دیگر معجزات کی طرح خاموش اور صامت معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ناطق

معجزہ ہے جو انسانوں کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور ہر اس چیز سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے جو دونوں جہاں کی زندگی کے لیے مضر ہے۔

کیا ان منکرین کے لیے ان امتیازات کا حامل معجزہ (قرآن) کافی نہیں ہے۔ قوموں کی تاریخ گواہ

ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ابتدائی معجزے پر ایمان نہیں لاتے وہ تجویز شدہ معجزوں سے متاثر نہیں ہوتے۔

جن لوگوں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے ابتدائی معجزات کو تسلیم نہیں کیا ان لوگوں نے دیگر

معجزوں کو بھی تسلیم نہیں کیا۔

اہم نکات

۱- جو لوگ اللہ کے پیش کردہ معجزات کو نہیں مانتے، وہ تجویز شدہ معجزات کو بھی نہیں مانتے۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ بَيِّنًا وَبَيْنٰتِكُمْ ۝۵۲

کہد بیجیے: میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہ ان سب چیزوں کو

جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو

لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کے منکر ہوئے

وہی خسارے میں ہیں۔

الْخٰسِرُوْنَ ۝۵۲

تفسیر آیات

۱- رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر اللہ کی گواہی کی مختلف صورتیں ہیں:

الف: اللہ نے قرآن جیسا معجزانہ کلام نازل کر کے اس رسالت کی حقانیت کی گواہی دی ہے وہ یہ

نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے چونکہ قرآن نے بار بار چیلنج کیا ہے کہ اگر کلام اللہ نہیں ہے تو اس جیسا کلام پیش کرو۔

ب: اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے جو وعدے کیے تھے، اسلام کی فتح و نصرت اور مشرکین کی نابودی کے وہ سب وعدے پورے ہوئے۔

ج: رسول ﷺ کی زبان سے قرآن و سنت کے ذریعے جو پیشگوئیاں ہوئیں وہ سب وقوع پذیر ہوئیں۔

د: اس رسولؐ نے ایک جامع نظام حیات پیش کیا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ وقت بتائے گا کہ وہ واحد نظام حیات ہے جو انسان کے لیے عدل و انصاف اور آسائش دے سکتا ہے۔

۲- يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ: گواہی کے لیے وہی ذات کافی ہے۔ سارا جہاں اس کے احاطہ علمی میں ہے۔ ہر جنبش اس کی نظر میں ہے۔ وہی گواہی دے سکتی ہے۔

۳- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبٰطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ: وہ لوگ خسارے میں ہیں جو ایمان کی جگہ کفر رکھتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کفر کے ساتھ پیش آتے ہیں اور باطل پر ایمان لاتے ہیں۔

اہم نکات

۱- اللہ کی گواہی ناقابل تردید ہوتی ہے۔

۵۳- اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آچکا ہوتا اور وہ (عذاب) ان پر اچانک ایسے حال میں آکر رہے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔

۵۴- یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں حالانکہ دوزخ کفار کو گھیرے میں لے چکی ہے۔

۵۵- اس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے گھیر لے گا اور (اللہ) کہے گا: اب ذائقہ چکھو ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَوْ اَجَلَ مُّسَيِّ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۗ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَعْتَةٌ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۭ بِالْكَافِرِيْنَ ﴿٥٤﴾

يَوْمَ يَعْشُرُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ ۗ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُو قُوَاِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ: لوگ بار بار آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے دعوائے نبوت میں سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں جس کی ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے۔

جواب میں فرمایا: اگر حکمت الہی کے تحت اس عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا اور عدل الہی کے تحت مہلت دینا ضروری نہ ہوتا تو اس عذاب کے آنے میں دیر نہ لگتی۔ مہلت دینے میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بطور مثال چند ایک کا ذکر کرتے ہیں:

الف: یہ مہلت ظالموں کے لیے سزا ہے کہ ان کے جرم میں اضافہ ہوتا ہے۔

ب: یہ مہلت مومنین کے لیے رحمت ہے۔ ان کا امتحان سنگین اور ان کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔

ج: کافروں کی صفوں میں چند ایک قابل ہدایت لوگ ہوتے ہیں۔ آئندہ وہ اہل ایمان کی صفوں میں اس مہلت کی وجہ سے شامل ہو سکیں گے۔

د: کافروں کی نسلوں میں اہل ایمان آنے والے ہیں۔ مہلت سے ان کو وجود میں آنے کا موقع دیا جاتا ہے۔

۲۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً: جب مقررہ مہلت ختم ہو جائے گی تو وہ عذاب دفعۃً آجائے گا:

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝۱
ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ گھڑی بھر کے لیے نہ تاخیر کر سکیں گے اور نہ تقدیم۔

۳۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ: ان نادانوں کو عذاب میں جلدی ہے حالانکہ وہ عذاب میں گھرے ہوئے ہیں۔ گویا ان لوگوں نے کفر اختیار کر کے عذاب اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے جس کا عملی مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا۔

۴۔ يَوْمَ يَخْشَهُمُ الْعَذَابُ: قیامت کے دن انہیں ہر طرف سے عذاب گھیر لے گا۔ ہر طرف کے لیے اوپر اور نیچے کے ذکر پر اکتفا کیا ہے چونکہ ان دو جہتوں سے جب عذاب آئے گا تو دائیں بائیں اوپر سے آنے والا عذاب گھیر لیتا ہے۔

۵۔ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ: دنیا میں جو تمہارا کردار بد رہا ہے اس کا مزہ چکھو۔ خود ان کا کردار ان کو عذاب دے گا۔

اہم نکات

۱۔ مہلت مومن کے لیے رحمت اور کافر کے لیے عذاب ہے۔

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي
وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾
۵۶۔ اے میرے مومن بندو! میری زمین یقیناً
وسیع ہے پس صرف میری عبادت کیا کرو۔

تفسیر آیات

اگر وطن اللہ کی بندگی میں آڑے آئے اور کسی وطن میں اللہ کی بندگی ممکن نہ ہو تو اللہ کی بندگی کے مقابلے میں وطن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خدا کی بندگی ہمیشہ وطنیت اور قومیت پر مقدم ہے۔ اگر وطن میں مومن اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتا یا گناہ سے اجتناب کرنا ممکن نہیں ہے تو ایسے وطن کو ترک کر کے، ہجرت کر کے ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں مذہبی آزادی ہو۔

حدیث میں آیا ہے:

من فر بدینہ من ارض الی ارض و
ان کان شبراً من الارض استوجب
الجنة وکان رفیق ابراهیم و محمد
صلی اللہ علیہما...۔
جو شخص اپنے دین کی خاطر ایک زمین سے دوسری
زمین کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ خواہ وہ ایک ہاتھ
برابر ہی کیوں نہ ہو تو وہ جنت کا سزاوار ہوگا اور
ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔

اس سے ان لوگوں کا انجام معلوم ہوتا ہے جو دنیا کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے اور اولاد تو نہ ان کی دنیا کی رہتی ہے نہ دین کی۔

اہم نکات

۱۔ دین کی خاطر وطن چھوڑنا واجب ہے دنیا کی خاطر دین چھوڑنا گمراہی ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾
۵۷۔ ہر نفس کو موت (کا ذائقہ) چکھنا ہے پھر تم
ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔

تفسیر آیات

اگر ترک وطن میں احباب، رشتہ داروں، املاک اور گھر سے جدائی کا خوف ہے تو انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایک دن ان سب سے موت کے ذریعے جدائی آنے ہی والی ہے۔

۱۔ اس زندگی نے ہر صورت میں ختم ہونا ہے۔ اس ناپیدار زندگی کی خاطر اپنی ابدی زندگی کو تباہ نہ کرو۔ ہر عاقل بہتر مستقبل کے لیے وقتی اذیت اور مستقبل کی شیرینی کے لیے بہت سی تلخیاں برداشت کرتا ہے۔

۲۔ ثُمَّ الْيُنَاتُّرُ جَعُونَ: لہذا دیکھنا یہ چاہیے کہ موت کے بعد نجات کس بات میں ہے اور اس زندگی کے بارے میں سوچو جو ابدی ہے۔ جہاں موت نہیں آئے گی: لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ... لہ جنت میں موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔

اہم نکات

- ۱۔ مستقبل کی فکر کرنا عقل مندوں کا کام ہے: ثُمَّ الْيُنَاتُّرُ جَعُونَ۔
- ۲۔ جس زندگی میں موت نہیں ہے اس کے لیے سوچنا چاہیے۔

۵۸۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں ہم انہیں جنت کے بلند و بالا محلات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، نمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿۵۸﴾

تفسیر آیات

- ۱۔ ایمان و عمل صالح کی صورت میں ملنے والے ثواب اور نعمتوں اور کفر اختیار کرنے والوں کا احاطہ کرنے والے عذاب کے درمیان موازنہ ہو رہا ہے کہ جہاں کافروں کو عذاب نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہوگا وہاں مومنین جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔
- ۲۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ: ان کو اقامت گاہ فراہم کریں گے۔ یہ اقامت گاہیں بالا خانے ہوں گے جن کے زیریں علاقے نہروں پر مشتمل ہوں گے۔
- ۳۔ خَالِدِينَ فِيهَا: سب سے بڑی نعمت ان نعمتوں کا دائمی ہونا ہوگا: نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ عمل کرنے والوں کا اجر کس قدر اچھا ہے اس کا اندازہ دنیا میں انسان نہیں لگا سکتا۔

۳۲۸

اہم نکات

- ۱۔ ایمان اور عمل صالح کا ثواب دائمی اور وصف و بیان سے بالاتر ہوگا۔

۵۹۔ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسا

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

کرتے ہیں۔

تفسیر آیات

اوپر جس ثواب اور ابدی نعمتوں کا ذکر ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں ایمان و عمل صالح کے ساتھ صبر و توکل کی خصوصیت بھی موجود ہیں۔

ایمان اور نیک اعمال دوستوں پر قائم ہو سکتے ہیں: وہ دوستوں صبر و استقامت اور اللہ پر بھروسہ ہیں۔ صبر انسان کو مشکلات کے مقابلے میں چٹان کی طرح مضبوط بناتا ہے اور توکل اطمینان دلاتا ہے۔ صبر دشمن کی سازشوں کو حقیر دکھاتا ہے۔ توکل انجام بخیر ہونے کی امید دلاتا ہے۔ صبر دشمن کی حشمت کو نظر انداز کرتا ہے۔ توکل سے اللہ تعالیٰ کی حشمت نظر آتی ہے۔ صبر ایک عظیم طاقت ہے۔ توکل اس طاقت کا سرچشمہ ہے۔ صابر، مصیبت پر صبر کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ معصیت پر صبر کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ اطاعت پر صبر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اس طرح صابر اعمال صالحہ آسانی سے بجالاتا ہے۔

اہم نکات

۱۔ اللہ کی بندگی کا راز صبر و توکل میں مضمر ہے۔

وَكَايِنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا
اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

۶۰۔ اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی اور وہ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔

تفسیر آیات

ہجرت کی صورت میں یہ نہ سوچو، کاروبار اور گھر چھوڑنے کے بعد پردیس میں کہاں سے کھائیں گے؟ اس سلسلے میں ان حیوانات سے سبق لیکھو جو اپنا رزق ذخیرہ نہیں کرتے۔ اللہ ہر روز کی روزی ان کو عنایت فرماتا ہے۔

بعض حیوانات انسان کی طرح روزی ذخیرہ کرتے ہیں۔ جیسے چوہا، چیونٹی وغیرہ مگر بہت سے حیوانات وحشرات ایسے ہیں جو ایک دن کی روزی بھی ذخیرہ نہیں کرتے۔ وہ اپنے بل یا گھونسلے سے بھوکے نکل جاتے ہیں اور شکم سیر واپس آتے ہیں۔

ہمارے معاصر تارکین وطن سے تو اس طرح خطاب ہے: اپنے وطن میں رہ کر یہ نہ سوچو ہم کہاں

سے کھائیں گے۔ تمہیں دین کے ساتھ وطن میں بھی روزی میسر آئے گی۔

اہم نکات

۱۔ روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اس کی فکر مت کرو۔ جو کام تمہارے ذمے ہے اس کی فکر کرو۔

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَإِنِّي يُوَفِّكُونُ ⑪

۶۱۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا تو ضرور کہیں گے: اللہ نے، تو پھر یہ کہاں لٹے جا رہے ہیں؟

تفسیر آیات

۱۔ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ: سوال مشرکین سے ہے جو اپنے بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی دنیا سدھر جائے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس کائنات کا خالق اگرچہ اللہ ہے مگر تدبیر ان کے معبودوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان سے سوال ہے کہ کائنات کا خلق اور شمس و قمر کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ مشرکین کا جواب یہ ہو گا کہ خالق اللہ ہے اور مسخر کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس جواب میں اس بات کا اعتراف ہے کہ تدبیر کائنات کے لیے جس تخلیق و تسخیر کی ضرورت ہے وہ اللہ کے پاس ہے تو ان کے معبود کس ذریعے سے تدبیر کر رہے ہیں۔

یہ بات قرآنی تصریحات کی روشنی میں نہایت واضح ہے کہ خلق و تدبیر ناقابل تفریق ہیں۔ اللہ کی تخلیق کی کیفیت میں تدبیر مضمحل ہے۔ شمس و قمر کو جس نہج پر خلق فرمایا ہے اسی میں تدبیر مضمحل ہے۔

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑫

۶۲۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے، اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔

تفسیر آیات

سابقہ آیت کے مضمون کا نتیجہ ہے کہ جب تخلیق و تسخیر اللہ کے ہاتھ میں تو اس تخلیق و تسخیر کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رزق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس طرح اور جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ اسی طرح جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔

اللہ اپنی مشیت کے مطابق کسی بندے کے لیے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کرتا ہے۔ اللہ کی مشیت اندھی بانٹ نہیں ہے۔ وہ اپنی علم و قدرت اور حکمت و مصلحت کے مطابق ارزاق تقسیم فرماتا ہے۔

اہم نکات

۱۔ حصول رزق کے تمام وسائل جو انسان بروئے کار لاتا ہے وہ سب اللہ کے تخلیق کردہ ہیں۔

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ
بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ
لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۳۱﴾

۶۳۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد کس نے زندہ کر دیا؟ تو وہ ضرور کہیں گے: اللہ نے، کہہ دیجیے: الحمد لله، البتہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ: اسی طرح اگر اللہ بارش برساتا اور زمین کو آباد کرتا ہے تو تمہارے معبود کس پانی اور کس زمین سے تمہیں روزی فراہم کرتے ہیں؟ اللہ اپنی تخلیقی عمل کے ذریعے روزی فراہم کرتا ہے۔ سورج کی تپش، پانی کی طراوت اور رطوبت بارش کا سبب ہے اور رزق دینا تخلیق مسلسل سے عبارت ہے۔ جو ذات پانی کے ذریعے زمین میں دانے کا سینہ چاک کرتی ہے وہی خالق ہی رازق ہے۔

۲۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ: آپ اس بات پر اللہ کی حمد بجا لائیں کہ ان مشرکین پر حجت پوری ہو گئی اور آپ کے موقف کے مطابق ان کا اعتراف بھی ہو گا کہ اس کائنات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا صرف وہی معبود ہے۔

۳۔ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ: وہ اس حد تک اپنی عقل سے کام نہیں لیتے کہ ان کے اپنے عقیدے سے متصادم عقیدہ رکھتے ہیں۔ رزق کے تمام وسائل اللہ نے پیدا کیے ہیں تو تمہارے معبود کن وسائل سے روزی دیتے ہیں۔

اہم نکات

۱۔ کائنات کی تدبیر اس کے خالق کے ہاتھ میں ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَ
لَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ
الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۶۳﴾
۶۳۔ اور دنیاوی زندگی تو جی بہلانے اور کھیل
کے سوا کچھ نہیں اور آخرت کا گھر ہی زندگی
ہے، اگر انہیں کچھ علم ہوتا۔

تشریح کلمات

لَهْوٌ: (ل و ہ) اللہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹائے اور باز رکھے۔
لَعِبٌ: (ل ع ب) بغیر صحیح مقصد کے کوئی کام کرنے کے معنوں میں ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ: دنیا کی وہ زندگی جو مرضی رب کے خلاف اختیار کی جاتی ہے، بے مقصد زندگی ہے اور خود انسان بھی اس صورت میں نیچر (Nature) کے ہاتھوں ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ اس زندگی میں اس کا مشقت اٹھانا، بیمار ہونا، زندگی میں ناکامیوں کا سامنا کرنا اور ہر روز پیش آنے والے نشیب و فراز کا مقابلہ کرنا سب بے مقصد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس زندگی کے تمام گوشے ایک کھیل سے زیادہ نہیں ہوتے۔ پس اس صورت میں دنیا ایک لہو ہے جو آپ کو اپنے مقصد سے دور رکھتی ہے۔ ایک کھیل ہے جو ایک خیالی مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔

۲۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ: آخرت کی زندگی ہی زندگی اور حقیقی و دائمی زندگی ہے جس کے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے سب سے زیادہ اس زندگی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تاکید کی ہے۔

بعض اہل تحقیق کے مطابق قرآن میں ایک ہزار سات سو آیات آخرت کی زندگی کے بارے میں ہیں۔ قرآن کا ایک تہائی حصہ اس زندگی کو باور کرانے کے لیے ہے۔

البتہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے مرضی رب کے مطابق گزاری جائے تو اس دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس زندگی کا ایک لمحہ آخرت کی زندگی کے کھربوں سالوں کے لیے تقدیر ساز ثابت ہو سکتا ہے۔

اہم نکات

- ۱۔ دنیا برائے دنیا کی زندگی آپ کو مقصد سے دور ایک خیالی منزل کی طرف لے جاتی ہے۔
- ۲۔ دنیا برائے آخرت آپ کا ایک لمحہ قیمتی بنا دیتی ہے۔

فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللّٰهَ ۖ وَهٖ جِبْ كَشْتِيْ پَر سَوَارِ هُوْتِيْ هِيْنَ تُو اللّٰهَ كُو
 مُخْلِصِيْنَ لَهٗ الدِّيْنَ ۗ فَلَمَّا ۖ خُلُوْصَ كِي سَاتِهٖ پَكَارَتِيْ هِيْنَ پَهْرَ جِبْ وَهٖ اَنْهِيْنَ
 نَجَّتْهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ ۖ نَجَاتِ دِي كَر خَشْكِيْ تَكِ پَهْنَجَا دِيْتَا هِيْ تُو وَهٖ شُرْكَ
 يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾ ۖ كَرْنِيْ لَكْتِيْ هِيْنَ۔

تفسیر آیات

۱۔ مشرکین کے مذہب کے بطلان پر سابقہ آیات میں خود ان کے عقائد و نظریات سے استدلال کیا گیا۔ اس آیت میں ان کے ایک عمل سے ان کے مذہب کے بطلان پر استدلال کیا گیا ہے۔ وہ عمل ایسا ہے جو ان سے بے ساختہ صادر ہوتا ہے۔ اس عمل کے پیچھے اصل محرک وہ فطرت ہے جو ہر انسان میں موجود ہوتی ہے لیکن بیرونی محرکات کی وجہ سے یہ فطرت انسان کی جبلت کی گہرائیوں میں دبی رہتی ہے۔ جب وہ محرکات و عوامل ہٹ جاتے ہیں تو فطرت فعال ہو جاتی ہے۔ جس رب سے وہ مانوس ہے اسے پکارتی ہے۔ چنانچہ کشتی پر سوار مشرک جب طوفان کے خطرے میں گھیر جاتا ہے اور بچنے کے تمام وسائل سے وہ مایوس ہوتا ہے اس وقت فطرت کے منافی تمام عوامل ماند پڑ جاتے ہیں اور اس کی فطرت آزاد ہو جاتی ہے۔ فوراً وہ اپنے اس رب کو پکارتی ہے جو اس کی خلقت میں رچا بسا ہے۔

۲۔ فَلَمَّا نَجَّتْهُمْ اِلَى الْبَرِّ: جب وہ نجات حاصل کر کے دوبارہ شرک کے ماحول میں آتے ہیں تو فطرت کے منافی عوامل دوبارہ فعال ہو جاتے ہیں اور پھر شرک میں پھنسا ہو جاتے ہیں۔

لِيَكْفُرُوا بِمَا اٰتَيْنَاهُمْ ۗ وَ ۖ تَا كِهٖ هَمَّ نِيْ جُو اَنْهِيْنَ (نَجَاتِ) بَخْشِيْ هِيْ اَس
 كِي نَاشْكِرِيْ كَرِيْ اَوْر مَزِيْ لُوْئِيْ لِهٰذَا عَنقَرِيْب
 لِيَتَمَتَّعُوْا ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ ۖ اَنْهِيْنَ مَعْلُوْمَ هُو جَا ئِيْ كَا۔

تفسیر آیات

وہ دوبارہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں تاکہ مشرکانہ عقائد کے تحت جو کچھ ہم نے انہیں نعمتیں فراہم کیں ہیں انہیں اپنے معبودوں کی طرف نسبت دے کر اللہ کی نافرمانی کریں اور پھر توحید کی قید و بند سے آزاد ہو کر کافرانہ مزے لوٹیں۔

اگر لِيَكْفُرُوا اور لِيَتَمَتَّعُوْا میں لام کو لام امر قرار دیتے ہیں تو آیت کی یہ تفسیر ہوگی: جو نعمتیں ہم نے عنایت کی ہیں ان کی ناشکری کرو اور مزے لوٹو۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ عنقریب اس کے انجام کا تمہیں علم

ہو جائے گا۔ اس صورت میں یہ ایک تہدید کی جملہ ہوگا جیسے اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ...^۱ ہے۔

اہم نکات

۱۔ اگر فطرت سے متصادم عوامل نہ ہوں تو فطرت ہمیشہ صرف اللہ کو پکارتی ہے۔

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا
إِمْنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ
حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِإِنْعَمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿۶۷﴾

۶۷۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک
پر امن حرم بنا دیا ہے جب کہ لوگ ان کے گرد
و نواح سے اچک لیے جاتے تھے؟ کیا یہ لوگ
باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی
ناشکری کرتے ہیں۔

تفسیر آیات

جن نعمتوں کی یہ مشرکین ناشکری کرتے ہیں ان میں سے ایک امن کی نعمت ہے کہ ہم نے ان کے
لیے مکہ کو حرم امن قرار دیا جب کہ ان درندہ صفت مشرکین کو حرم سے بیرون امن و سکون نصیب نہیں ہے
کیونکہ جاہلیت عرب ہمیشہ جنگ و قتال لوٹ مار میں مشغول ہوتی تھی۔ صرف حرم مکہ کے رہنے والے امن و
سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ کیا یہ مشرکین باطل معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں
اور اللہ کی طرف سے عنایت شدہ امن و سکون جیسی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں کہ اس نعمت کو اللہ کی نعمت
قرار نہیں دیتے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ
اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا
جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِّلْكَافِرِينَ ﴿۶۸﴾

۶۸۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو
اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے اور جب حق اس کے
سامنے آچکا ہو تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا جہنم
میں کفار کے لیے ٹھکانا نہیں ہے؟

تفسیر آیات

۱۔ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے پر تو مشرکین کا مذہب قائم ہے۔ ظلم، حدود سے تجاوز کرنے کے معنوں

میں ہے اور یہ تجاوز اگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہو تو یہ ظلم سب سے زیادہ قبیح ظلم ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے مقام ربوبیت میں کسی مخلوق یا موہوم چیز کو شریک کرنا بہت بڑا ظلم ہے جب کہ یہ نظریہ کسی منطق اور دلیل پر قائم نہیں ہے۔ یہ صرف بہتان ہے۔

۲۔ اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ: ان کے ظلم اور تجاوز کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس حق کے پیغام کو جھٹلایا جو ان کی نجات اور ان کے لیے دارین کی بھلائی لے کر آیا تھا۔

۳۔ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ: کیا جہنم کافروں کا ٹھکانا مَثْوًى نہیں ہے؟ اس تعبیر میں یہ بات مضمحل ہے کہ جہنم کے علاوہ ان کا کیا ٹھکانا ہو سکتا ہے۔ پس انہیں یقیناً جہنم جانا ہے۔ مَثْوًى اس جائے استقرار کو کہتے ہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فَاِنَّا لَنَهْدِيْهِمْ
سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٧﴾
۶۹۔ اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں
ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے اور تحقیق
اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فَاِنَّا لَنَهْدِيْهِمْ سُبُلَنَا: مشرکین کے کفر و افترا کے مقابلے میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں ہم خود ان کے لیے اپنے راستوں کی راہنمائی کریں گے۔ انہیں اس جہاد میں کامیابی مل جائے گی بشرطیکہ وہ جہاد، فیتنا راہ خدا ہی میں ہوں تو اس کو سُبُلَنَا کی راہنمائی ملے گی۔

پہلے ہم راہ خدا میں جدوجہد کریں پھر اللہ سے مشکل کشائی کی امید رکھیں۔ لہذا ہمیں پہل کرنا ہوگی پھر ہم اللہ کی ہدایت کے اہل ہوں گے۔ یہ درست نہیں ہے کہ اللہ سے توقع وابستہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں تاکہ وہ ہمیں مفت میں اپنے راستوں کی ہدایت دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ پہل نہیں کرتا کیونکہ اگر اللہ پہل کرے تو بلا استحقاق سب کو دے یا بعض کو بلاوجہ دے اور بعض کو بلاوجہ نہ دے۔ یہ سب اللہ کی حکمت اور عدالت کے منافی ہے۔

۲۔ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ: اس جملے میں یہی نکتہ پنہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کرنے کے لیے نیکی کرنے والوں کی سیرت اپنانا ضروری ہے۔

اہم نکات

۱۔ اللہ پر توکل کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اللہ توفیق دیتا ہے۔

۲۔ پہلے بندے کو پہل کر کے اپنے آپ کو رحمت خدا کا اہل بنانا ہوگا۔



سورة الشورى



خالی



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس سورۃ المبارکہ کا نام سورۃ الروم اس لیے ہے کہ اس میں سلطنت روم کے ایرانیوں سے شکست کھانے کی خبر دی گئی ہے اور غَلَبَتِ الرُّومُ سے ماخوذ ہے۔

رومیوں پر ایران کی فتح تقریباً ۶۱۵ عیسوی میں ہوئی ہے اور یہی اس سورۃ المبارکہ کا سال نزول ہے۔ اسی سال حبشہ کی طرف ہجرت واقع ہوئی ہے۔

یہ سورۃ المبارکہ بعض کے نزدیک ۵۹ آیات پر مشتمل ہے لیکن قرائت کوئی جو فی الواقع معلم قرآن حضرت علیؑ کی قرائت ہے، کے مطابق آیات کی تعداد ساٹھ ہے۔

یہ سورۃ مکی ہے۔ بعض کے نزدیک آیت ۷۱ اَفَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِیْنَ تُمْسُوْنَ... مدنی ہے۔

مضامین: یہ سورۃ المبارکہ متعدد مضامین پر مشتمل ہے:

۱۔ آنے والے تین سے نو سال کے دوران ایرانیوں پر رومیوں کے غالب آنے کی پیشگوئی۔

۲۔ تدبیر جہاں اور ربوبیت کے بارے میں چند ایک محسوس دلائل۔

۳۔ مشرکین کی رسوائی کے بارے میں چند ایک حقائق کی نشاندہی۔

۴۔ مؤمنین کے لیے فتح و نصرت کی نوید اور ضمانت۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ الف ، لام ، میم۔

المّ ①

حروف مقطعات کی تشریح اس سے پہلے ہو گئی ہے۔

۲۔ رومی مغلوب ہو گئے،	غَلَبَتِ الرُّومَ ۱
۳۔ قریبی ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد	فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ
عنقریب غالب ہو جائیں گے،	غَلِبَهُمْ سَيَغْلِبُونَ ۱
۴۔ چند سالوں میں، پہلے بھی اور بعد میں بھی اختیار	فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ
کل اللہ کو حاصل ہے، اہل ایمان اس روز خوشیاں	قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ يُدْفَعُ
منائیں گے،	الْمُؤْمِنُونَ ۱
۵۔ اللہ کی مدد پر، اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا	بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَ
ہے اور وہ غالب آنے والا، رحم کرنے والا ہے۔	هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۱

تفسیر آیات

۱۔ غَلَبَتِ الرُّومَ: روم سے مراد قدیم ”رومن ایپارز“ کا وہ مشرقی حصہ ہے جو سنہ ۳۹۵ء میں اس سے کٹ کر خود ایک الگ سلطنت بن گیا۔ مسیحیوں کے قبضے میں یہ سلطنت سنہ ۱۴۵۴ء تک رہی۔ اس کے بعد ترکوں کے قبضے میں آگئی۔ اس کا دار الحکومت استنبول یا قسطنطنیہ تھا۔ اسی کا قدیم نام جدید روم بھی ہے۔ شام فلسطین اور ایشائے کوچک کے علاقے سب اسی میں شامل تھے۔ (دریابادی)۔

سنہ ۶۱۵ عیسوی میں ایرانی بادشاہ خسرو نے سلطنت روم کے شام اور فلسطین کے علاقوں پر حملہ کیا جو اس زمانے میں روم کی سلطنت کا حصہ تھے۔ اس حملے میں ایرانیوں کو فتح مل گئی۔

۲۔ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ: قریبی سر زمین سے مراد بلاد شام ہیں جو عرب علاقوں سے متصل تھے۔ واضح رہے اس زمانے میں بلاد شام عرب علاقے شمار نہیں ہوتے تھے۔

رومیوں پر ایرانیوں کا غلبہ ۶۱۵ عیسوی میں پورا ہوا جو تقریباً ۶ سال قبل از ہجرت ہے۔ یہی اس آیت کے نزول کا زمانہ ہے۔ مشرکین مکہ ایرانی مجوسیوں کے غلبے پر خوش تھے۔ کیونکہ مجوسی بھی توحید، وحی اور نبوت کے قائل نہ تھے۔ اس وجہ سے وہ مشرکین کے قریب المذہب تھے۔ جب کہ رومی عیسائی مذہب کے تھے اور وحی و رسالت کے ماننے والے اور مسلمانوں کے قریب المذہب تھے۔

۳۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ: قرآن کا عظیم زندہ معجزہ ہے کہ رومیوں کی شکست کی خبر کے ساتھ چند سالوں میں ایرانیوں پر رومیوں کے غالب آنے کی پیشگوئی فرمائی۔ چنانچہ اس غیبی خبر کے مطابق چند سالوں میں رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔

۴۔ فِ بَضْعِ سِنِينَ: اس پیشگوئی میں مدت کا تعین لفظ بَضْعِ کے ساتھ فرمایا کیونکہ بَضْعِ کا اطلاق تین سے نو تک کی تعداد پر ہوتا ہے جو کہ ۶۲۴ء میں پوری ہو گئی اور رومیوں کو ایرانیوں پر فتح مل گئی۔ اسی سال جنگ بدر میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہو گئی۔

۵۔ لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ: حقیقت میں رومیوں کی فتح سے پہلے اور بعد اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر چاہے تو ایک فریق کو فتح دے دوسرے کو شکست دے۔ یہ فتح و شکست اللہ کی مشیت کے تابع ہے اور ان پوشیدہ رازوں کے تحت ہے جو ظاہر بینوں کی نظروں سے غائب ہیں۔

۶۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ: جس دن رومیوں کو فتح ملے گی۔ اہل ایمان کو اللہ کی اس نصرت پر خوشی ہوگی اور مشرکین اس دن مایوس ہوں گے چونکہ وہ پہلے ایرانیوں کی فتح کو اپنی حقانیت کی دلیل سمجھتے تھے۔

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ①
۶۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

تفسیر آیات

الف: اگر کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے وعدہ خلافی جائز ہوتی ہے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں ممکن نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی مجبوری پیش نہیں آتی۔

ب: نہ وعدہ خلافی میں اللہ کا کوئی مفاد ہوتا ہے۔ وہ ہر مفاد سے بے نیاز ہے۔

ج: نیز اللہ نے وعدہ خلافی نہ کرنے کی خبر دی ہے۔ وہ اپنے اس قول میں صادق ہے۔

لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ: اکثر لوگ وعدہ الہی کو عام وعدوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ درج بالا نکات کو نہیں سمجھتے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ①
۷۔ لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔

تفسیر آیات

یہ لوگ وعدہ الہی کے حتمی الوقوع ہونے کو نہیں جانتے۔ یہ لوگ عرفانی باتوں سے دور ہیں۔ وہ صرف اسی دنیا کی زندگی کی سطحی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں جو ظاہری حواس اور نظر آنے والی زیب و زینت سے

مربوط ہے۔ اس سے آگے وہ اس راز زندگی کو نہیں سمجھتے جو اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی سے مربوط بنا دیتا ہے۔ اس دنیا کی وقتی زندگی سے ابدی زندگی حاصل کی جاسکتی ہے۔

اہم نکات

- ۱- فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
- ۲- وعدہ الہی پر یقین رکھنا ہی ایمان ہے۔
- ۳- دنیاوی زندگی کا راز آخرت کی زندگی کو آباد کرنے میں مضمر ہے۔

۸- کیا انہوں نے اپنے (دل کے) اندر یہ غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو برحق اور معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے؟ اور لوگوں میں یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ
مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ
مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ﴿۸﴾

تفسیر آیات

۱- أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ: کیا وہ اپنے اندر یعنی اپنے دل میں یہ نہیں سوچتے کہ اس کائنات کو عبث اور لغو نہیں، ایک مقصد و حکمت کے تحت بنایا ہے۔

۲- بِالْحَقِّ: اس کائنات کی تخلیق مبنی برحق ہے اور حقیقت اور امر واقع پر مبنی ہے۔ کیا لوگ اس میں غور نہیں کرتے کہ وہ امر واقع کیا ہو سکتا ہے؟ وہ حق کیا ہو سکتا ہے جو اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنا۔

اس کائنات کی تخلیق اور اس نظام کی تدبیر میں غور و فکر کرنے والوں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس تخلیق و تدبیر کے پیچھے ایک مدبر اور حکیم کا قصد و ارادہ کارفرما ہے۔ اس مدبر و حکیم نے اس بڑی کائنات کو کیوں خلق کیا ہوگا؟ اگر اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے تو یہ دنیا ایک کھلونے سے زیادہ کی معقولیت پر مبنی نہ ہوگی کہ اس دنیا میں انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کرنے والا اور اس انسانیت پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا دونوں برابر ہوں۔ نتیجہ دونوں کا ایک، انجام کار دونوں کا ایک جیسا ہو۔

۳- بعض نے فِي أَنفُسِهِمْ کے معنی یہ کیے ہیں: کیا انہوں نے اپنے وجود کے بارے میں فکر نہیں کیا؟ لیکن یہ معنی سیاق آیت کے خلاف ہے، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اگر انسان خود اپنے بارے میں فکر کرے تو سمجھ جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اس دنیاوی زندگی کے لیے نہیں بنایا۔ اگر ایسا ہوتا تو جس قدر

اس زندگی کی آسائش اسے مل جاتیں اسی قدر اسے زیادہ سکون مل جاتا۔ جب کہ ایسا نہیں ہے بلکہ جس قدر کسی کے پاس یہ دنیا زیادہ آتی ہے وہ زیادہ بے سکون ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کی اصل منزل دنیوی زندگی نہیں ہے۔

۴۔ وَاجَلِّ مُسَّحًى دوسری بات یہ ہے کہ یہ کائنات ایک معین مدت تک کے لیے ہے۔ اس کائنات نے ہمیشہ قائم نہیں رہنا ہے۔ آج تو سب کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس کائنات کی بھی ایک عمر ہے تو کیا اس حکیم و مدبر نے اس کائنات کو بے مقصد بنایا اور بے مقصد اس کا خاتمہ کر دے گا۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ
إِنِّي لَا أَتْرَجِعُونَ ۝۱

۵۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ: ان دلائل کے باوجود لوگوں میں ایک کثیر جماعت قیامت کی قائل نہیں ہے۔ یہاں کثیر کا لفظ استعمال فرمایا، اکثر نہیں فرمایا۔ چونکہ تمام ادیان سماوی آخرت کے قائل ہیں، اس لیے اکثر قائل ہو جاتے ہیں۔

اہم نکات

۱۔ کائنات کی تخلیق کے راز میں فکر کرنے والے کو آخرت کا وجود ضروری معلوم ہوگا۔

۹۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا؟ جب کہ وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے انہوں نے زمین کو تہ و بالا کیا (بویا جوتا) اور انہوں نے زمین کو ان سے کہیں زیادہ آباد کر رکھا تھا جتنا انہوں نے زمین کو آباد کر رکھا ہے اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پس اللہ تو ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ
قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا
أَكْثَرًا مِّمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ①

تفسیر آیات

۱۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ: مشرکین کے لیے ایک خبردار اور تباہی کی ایک خبر ہے جس میں

دعوت فکر بھی ہے کہ اگر تم زمین میں چل پھر کر اقوام گذشتہ کے انجام کا مطالعہ کرو تو تمہیں خود اپنی تباہی نمایاں طور پر نظر آئے گی۔

۲۔ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً: جن قوموں کی تباہی کا منظر تمہارے سامنے آئے گا وہ قوم تم سے زیادہ طاقتور تھی۔ ان کی طاقت کے آثار تمہیں نمایاں طور پر نظر آئیں گے۔ مشرکین مکہ کے پاس تو ان اقوام کی بہ نسبت کوئی طاقت موجود نہیں ہے۔

۳۔ وَأَشَارُوا إِلَى الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا: أَشَارُوا کے معنی تہ و بالا کرنے کے ہیں جو آباد کاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زمین کو تہ و بالا کرنے میں زراعت بھی شامل ہے نیز کان کنی اور نہریں بنانا بھی اس میں شامل ہے۔

۴۔ أَكْثَرًا عَمَرُوهَا: ان تباہ اقوام نے زمین کو مکہ والوں سے زیادہ آباد کیا تھا۔ ان کی یہ آباد کاری ان کے کام نہ آئی، وہ تباہ ہو گئیں۔ ان اقوام کے مقابلے میں مکہ والوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔

۵۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ: ان اقوام کی طرف ان کے رسول واضح دلیل لے کر آئے تو ان لوگوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی۔ اس تکذیب کے نتیجے کے یہ خود ذمے دار ہیں۔ اللہ لوگوں کو ان رسولوں کے ذریعے ہدایت دینا چاہتا تھا، ظلم کرنا نہیں چاہتا تھا۔

روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے فرزند سے فرمایا:

اے فرزند! اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی
اے بُنَيَّ اِنِّي وَاِنْ لَمْ اَكُنْ عُمَرُوتُ
اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ پھر بھی میں نے ان
عُمَرَمَنْ كَانَ قَبْلِي فَقَدْ نَظَرْتُ فِي
کی کارگزاریوں کو دیکھا۔ ان کے حالات و واقعات
اَعْمَالِهِمْ وَفَكَرْتُ فِي اَخْبَارِهِمْ وَ
میں غور کیا اور ان کے چھوڑے ہوئے نشانات میں
سِرْتُ فِي اَثَارِهِمْ حَتَّى عُدْتُ
سیر و سیاحت کی یہاں تک کہ گویا میں بھی انہی میں
كَاحِدِهِمْ بَلْ كَانِي بِمَا اَنْتَهَى اِلَيَّ
معلومات جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں ان کی وجہ سے ایسا
مِنْ اُمُورِهِمْ قَدْ عُمَرْتُ مَعَ اَوْلِيهِمْ
ہے کہ گویا میں نے ان کے اول سے لے کر آخر
اِلَى اٰخِرِهِمْ...۔

اہم نکات

۱۔ تاریخی تحولات ناقابل تغیر قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَأُوا ۱۰۔ پھر جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا
السُّوَاۤیِ اَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوا ۱۰
بِهَآئِسْتَهْزِءُوْنَ ۱۰
کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی
تھی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔

تفسیر آیات

۱۔ السُّوَاۤیِ: اسوٰ کی تانیث کا صیغہ ہے۔ جیسے احسن کی تانیث الحسنی ہے۔ جیسے لِلَّذِيْنَ
اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰی میں ہے۔
جس طرح نیکی کرنے والوں کی جزائیں ہی ہوتی ہے اسی طرح برائی کرنے والوں کی سزا بری ہو
گی۔ جس طرح سورہ یونس کی آیت میں الحسنیٰ سے مراد ثواب و جزا لی جاتی ہے اور عاقبت بھی مراد
لی جاسکتی ہے۔ اس طرح یہاں بھی السُّوَاۤیِ سے مراد سزا بھی لی جاتی ہے اور عاقبت بھی۔
۲۔ اَنْ كَذَّبُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ: ان کے برے انجام سے دوچار ہونے کی وجہ ان کی طرف سے آیات الہی
کی تکذیب اور آیات الہی کا تمسخر اڑانا ہے۔

اللّٰهُ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ثُمَّ ۱۱۔ اللہ خلقت کی ابتدا فرماتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ
اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۱۱
فرماتا ہے پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔

تفسیر آیات

اللہ کے لیے جب خلقت کی ابتدا مشکل نہیں ہے تو اس کا اعادہ کیسے مشکل ہوگا۔ اعادہ تو ابتدا سے
زیادہ آسان ہے۔ سورہ بقرہ: ۲-۳، النمل: ح، عنکبوت: ۱۹ میں مزید تشریح ملاحظہ فرمائیں۔

۳۴۵

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ ۱۲۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی مجرمین ناامید
الْمُجْرِمُوْنَ ۱۲
ہوں گے۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ ۱۳۔ اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے
شَفَعُوْا وَاَوْكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ
کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں
کَفِرِيْنَ ۱۳
کے منکر ہو جائیں گے۔

تفسیر آیات

۱۔ جب قیامت برپا ہوگی، پردے ہٹ چکے ہوں گے، حقائق سامنے آچکے ہوں گے تو ان کی سمجھ میں یہ بات آجائے گی کہ ہمارے لیے یہاں کوئی سہارا نہیں ہے۔ نجات کی کوئی امید نہیں ہے۔
۲۔ رہے وہ شریک جن کی یہ لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہیں، وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔

۳۔ وَكَانُوا بِشِرْكَائِهِمْ كَافِرِينَ: حقائق فاش ہونے پر یہ بات بھی منکشف ہو جائے گی کہ ان بتوں کی پرستش کرنا واہمہ پرستی تھی اس لیے ان شریکوں سے کسی مدد کی امید کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا بلکہ سرے سے ان کے منکر ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے معبود نہیں ہیں۔

۱۴۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِدِ
يَتَقَرَّقُونَ ﴿۱۴﴾
گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔

۱۵۔ پھر جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ
يُحْبَرُونَ ﴿۱۵﴾
اعمال انجام دیے وہ جنت میں خوشحال ہوں گے۔

۱۶۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیں اور
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي
الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿۱۶﴾
آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی وہ عذاب میں پیش کیے جائیں گے۔

تشریح کلمات

رَوْضَةٍ: (روض) الروض اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہو اور سرسبز بھی ہو۔
يُحْبَرُونَ: (ح ب ر) یحبرون کے معنی ہیں کہ وہ جنت میں اس قدر خوش ہوں گے وہاں کی نعمتوں کی تروتازگی کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا۔

تفسیر آیات

۱۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ: جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے عادلانہ فیصلے کے مطابق لوگوں کی ان کے اعمال و کردار اور ایمان و کفر کی بنیاد پر تقسیم بندی ہوگی۔



أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ
نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۝

کیا ہم ایمان لانے اور اعمال صالح بجالانے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح قرار دیں یا اہل تقویٰ کو بدکاروں کی طرح قرار دیں؟

۲۔ اس عادلانہ تقسیم کے مطابق ایمان و عمل صالح والے باغات میں خوشحال و شاداں ہوں گے اور کفر اختیار کرنے والے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ مُخَضَّرُونَ اور يُخْبِرُونَ کی تعبیر ہی میں وہ اشارہ موجود ہے کہ ایمان اور کفر والوں کا انجام کس قدر مختلف ہے کہ ایمان والے خوشحال و شاداں ہوں گے جب کہ کفر اختیار کرنے والوں کو عذاب کے لیے جبراً پیش کیا جائے گا۔

فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ
حِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۱۷﴾
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿۱۸﴾

۱۷۔ پس اللہ کی ذات پاک و منزہ ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔
۱۸۔ ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں تیسرے پہر کو اور جب تم ظہر کرو۔

تفسیر آیات

۱۔ فَسَبِّحْ لِلَّهِ: یہ تزیینی کلمہ ہے اس بات سے جو مشرکین اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پاک و منزہ ہے اس عجز و ناتوانی سے جس کی نسبت مشرکین دیتے ہیں۔ لفظ سبحان قرآن میں ہمیشہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے اور اہل لغت نے بھی تصریح کی ہے۔ العین میں آیا ہے:

سبحان الله تنزيه لله عن كل ما لا
ينبغي ان يوصف به۔
سبحان الله کا مطلب اللہ کو پاک و منزہ قرار دینا ہے ہر اس بات سے جس سے اللہ کا متصف ہونا درست نہیں ہے۔

جیسے

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝
جب تسبیح کا حکم دینا مقصود ہو تو فرماتا ہے:
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝

وہ پاک اور بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔
جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں۔

۲۔ حِينَ تُمْسُونَ: یہ جملہ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کے ساتھ مربوط ہے۔ یعنی پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اللہ دائماً پاک و منزہ ہے۔ تم جب شام و سحر دو پہر اور ظہر کے اوقات میں داخل ہوتے ہو۔ ان اوقات میں زمانے کی تقسیم بندی ہوتی ہے یا اجزاء زمانہ بتانا ہو تو ان اوقات کو اجزاء کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہمیشہ اور دوام بتانا ہے کہ اللہ ہر وقت اور زمانے میں ہمیشہ پاک و منزہ ہے۔ اکثر مفسرین یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ اس آیت میں نماز کے اوقات کی طرف اشارہ ہے اور سبحان سے مراد سبحوا ہے۔ یعنی ان اوقات میں تسبیح پڑھا کرو، نماز پڑھو۔ جب کہ سبحان، سبحو اللہ کے معنی میں نہیں آیا کرتا۔ اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور آیت میں چار اوقات کا ذکر ہے، نماز کے اوقات پانچ ہیں۔ لہذا ان اوقات سے مراد نماز کے اوقات نہیں ہیں بلکہ مطلق تسبیح کا حکم ہے۔ نماز بھی تسبیح ہے جو اس میں شامل ہے۔

۳۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ: اللہ تمہاری حمد و تسبیح کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی تسبیح تو ساری کائنات میں ہو رہی ہے۔ تَصْبِحُونَ اور تُظْهِرُونَ کے درمیان یہ جملہ معترضہ ہے۔

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا ۗ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝۱۹

۱۹۔ اور وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔

تفسیر آیات

زندگی مردہ مادے کی گود میں پلتی ہے اور بہت سے مردہ مواد ایسے ہیں جو زندہ نامی اجسام کی پیداوار ہیں۔

اگرچہ زندگی کا مصدر زندگی ہی ہوتی ہے تاہم اس زندگی کو اللہ تعالیٰ مردہ مادے کو گود میں پالتا ہے۔ اسی سے فرمایا:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝۱۰

اور تحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا۔

زمین میں یہ مناظر ہمیشہ ہماری نظروں میں ہوتے ہیں۔ بہار کی زندگی کو خزاں کی موت فنا کر دیتی ہے۔ ہری بھرا کھیت یکا یک خاک میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اس خاک سے حیات نو بڑی تیزی کے ساتھ سر اٹھاتی ہے۔

وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ: تم بھی جب خاک کے ذروں میں تبدیل ہو جاؤ گے، ان ذرات کو جمع کر کے دوبارہ اٹھانا اسی طرح ہو گا جس کا مظاہرہ تم روز دیکھتے ہو۔

وَمِنْ اٰیٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ۝۲۰ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس
تُمْ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَشْرُوْنَ ۝۲۱ نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر تم انسان ہو کر
(زمین میں) پھیل رہے ہو۔

تفسیر آیات

بے جان عناصر ارضی سے ایک عقل و شعور کا مالک پیدا کرنا کیا اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد بھی ایسا کر سکتا ہے۔

اس آیت کے مخاطب مشرکین ہیں۔ وہ اللہ کے خالق ہونے کے قائل تھے۔ وہ حیات بعد از موت کے قائل نہ تھے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کی قدرت کاملہ پر دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ مردہ خاک سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ اسی انسان کے خاک ہونے کے بعد اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔

وَمِنْ اٰیٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْۢ
اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا
اِیَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّ
رَحْمَةً ۝۲۱ اِنْ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ
یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝۲۲ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس
نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج
پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور
اس نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا
کی، غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً ان
میں نشانیاں ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَمِنْ اٰیٰتِهٖ: اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل میں سے ایک دلیل کا بیان ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور مدیریت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے:

۲۔ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ: اللہ نے خود تمہاری نوع یعنی خود انسان سے تمہارے لیے ازواج بنائے۔ انسان اپنے ہم نوع انسان سے مانوس ہوتا ہے۔

۳۔ لِّتَسْكُنُوْا اِیَّهَا: تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اگر زوجہ نوع انسان سے نہ ہوتی تو وہ

سکون حاصل نہ ہوتا جو انسان اور اپنی ہم نوع ہونے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ آیت کے اس جملے سے واضح ہوا کہ مرد و زوجہ کے بغیر بے سکون ہے، ناقص ہے اور ایک مضطرب الحال مخلوق کامل نہیں ہوتی۔

۳۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً: اللہ نے زوج و زوجہ کے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کی۔

مجمع البیان میں آیا ہے۔ مودۃ کے معنی محبت اور رحمة کے معنی مہربانی و شفقت ہے۔

محبت کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتے اور قریب آجاتے ہیں اور رحمة کی وجہ سے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ چونکہ شفقت و مہربانی کی نوبت ضرورت اور احتیاج کی صورت میں پیش آتی ہے لہذا زوجین میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے مہربان بنا دیا۔

۴۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ: صاحبان فکر کے لیے اس نظام زوجیت میں اللہ کی

ربوبیت پر دلائل موجود ہیں۔

اول تو مرد و وزن کی تخلیق میں توازن روز اول سے لے کر آج تک برقرار ہے۔ نہ عورتوں کے لیے مردوں کی قلت ہے، نہ مردوں کے لیے عورتوں کی قلت ہے۔ ثانیاً اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش و دیعت فرمائی کہ ایک دوسرے سے سکون مل جائے۔ سوم یہ کہ ان دونوں میں حاکم اور محکوم کا نہیں، محبت و شفقت کا رابطہ قائم کیا۔ دونوں احترام آدمیت میں مساوی ہیں۔

اہم نکات

۱۔ زوجین کو جن خصلتوں کے ساتھ خلق فرمایا ان میں بقائے نوع انسانی کی ضمانت ہے۔ اس لیے خلق، تدبیر سے جدا نہیں ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ اللِّسَانِكُمْ وَالْوَاوِيكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۷﴾

۲۲۔ اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، علم رکھنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَمِنْ آيَاتِهِ: اللہ کے واحد رب اور مدبر ہونے کے شواہد میں سے ایک شاہد یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق وہی ہے اور رب اور معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہے۔

۲۔ وَاخْتِلَافَ اللِّسَانِكُمْ وَالْوَاوِيكُمْ: اسی لب و دہن اور محدود حروف سے نہ ختم ہونے والے

الفاظ بنتے ہیں اور لاکھوں زبانیں وجود میں آتی ہیں۔ زبان انسان کی بقا و ارتقا کے لیے ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ زبانوں کا اختلاف اس صلاحیت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے انسان میں ودیعت فرمائی ہے۔ جس سے انسان اپنے مافی الضمیر کا اظہار لفظوں کے ذریعے آسانی سے کر دیتا ہے۔ ورنہ ایک معنی کو سمجھانے کے لیے خود اس معنی کو پیش کرنا پڑتا۔ مثلاً کسی کو پانی سمجھانا ہو تو اس کے لیے اگر لفظ کا آسان ذریعہ نہ ہوتا تو خود پانی کو سامنے کر کے سمجھانا پڑتا۔ اختلاف زبان سے اختلاف لہجہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور رنگوں کے اختلاف سے ایک دوسرے کی شناخت میں مشکل پیش نہیں آتی اور قبائل و اقوام میں امتیاز آ جاتا ہے۔

۳۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ: اس دلیل کو اہل علم سمجھ سکتے ہیں کہ زبانوں اور رنگوں کے اختلاف میں نوع انسانی کی بقا و ارتقا کے کون سے راز پنہاں ہیں۔ اگر سب کا رنگ اور زبان و لہجہ کلام ایک ہوتا تو کیا کیا مشکلات پیش آتیں۔ دنیا کا نظام ایک دوسرے سے امتیاز پر قائم ہے۔ اگر یہ امتیاز نہ ہوتا تو ظالم سے مظلوم کی شناخت نہ ہوتی۔ مدعی سے مدعا علیہ کی پہچان نہ ہوتی۔ کلوننگ کو ناجائز سمجھنے والے اسی بات سے استدلال کرتے ہیں۔

وَمِنْ اٰيٰتِهِۦ مَنّٰمُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِۦ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿۳﴾

۲۳۔ اور تمہارا رات میں سو جانا اور دن میں اس کا فضل (رزق) تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے، (دلائل کو توجہ سے) سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَمِنْ اٰيٰتِهِۦ مَنّٰمُكُمْ: اللہ کی ربوبیت کی آیات و شواہد کا ذکر ہے کہ رب صرف اللہ ہے جس نے انسان کی تخلیق کے ساتھ نیند بھی اس میں ودیعت فرمائی ہے اور نیند کے ذریعے انسانی زندگی کی تدبیر فرمائی ہے کہ نیند سے انسان کو وہ طاقت واپس مل جاتی ہے جو دن میں زندگی کی دوڑ دھوپ میں خرچ ہو گئی تھی۔ اگر انسان کی تخلیق کے ہمراہ تدبیر نہ ہوتی اور خالق مدبرانہ ارادہ نہ رکھتا تو اس تخلیق میں نیند ودیعت کر کے انسان کو ہمیشہ مستعد رکھ کر اس کی بقا و ارتقا کا سامان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

نیند ایک نعمت ہے۔ اس زندگی کا گزارنا آسان کام نہیں ہے۔ دنیا ہمیشہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں چلتی۔ پریشانی اور ذہنی تناؤ اس زندگی کا حصہ ہے۔ جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ دوسری طرف دن بھر کی جفاکشی اور محنت کے بعد آپ کے اعصاب تھک جاتے ہیں۔ ایسے میں نیند ایک ایسی نعمت ہے جس میں انسان تمام پریشانیوں سے بے خبر ہو کر سو جاتا ہے۔ خستہ اعصاب کو سکون ملتا ہے اور بدن کی

صلاحتیں تازہ دم ہو جاتی ہیں۔

۲۔ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ: تلاش معاش کے لیے محنت کرنا نیند پر موقوف ہے۔ نیند کے ذریعے انسان محنت کے لیے مستعد ہو جاتا ہے۔ لہذا رات کی نیند اور دن کی محنت تدبیر حیات کے دو اہم ستون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ مدبر ہونے کا ثبوت ہیں۔

۲۴۔ اور خوف اور طمع کے ساتھ تمہیں بجلی کی چمک دکھانا اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے کے لیے آسمان سے پانی برسانا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۴﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ: برق، اللہ کی ربوبیت اور مدبریت پر دلالت کرنے والے شواہد میں سے ایک اہم شاہد ہے۔ اللہ کے تدبیری امور میں بادلوں میں چمکنے والی بجلیوں کا اہم کردار ہے کہ اس سے نکلنے والی حرارت سے فضا کی ہوا کے دباؤ میں کمی آتی ہے، بارش برسنے شروع ہو جاتی ہے اور زمین پر موجود بہت سے جراثیم ہلاک ہوتے ہیں اور زراعت کے لیے کھاد فراہم ہوتی ہے۔

۲۔ خَوْفًا وَطَمَعًا: اس برق میں ہلاکت کا خوف ہے۔ کبھی آسمانی بجلی گرنے سے ہلاکتیں ہوتی ہیں اور بارش کی طمع بھی اس سے وابستہ ہوتی ہے۔

۳۔ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً: اوپر ذکر ہوا کہ یہ بجلی بارش کا سبب بنتی ہے جس سے زمین آباد اور ارزاق فراہم ہوتے ہیں۔

۴۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ: اس سے عقل سے کام لینے والوں کے لیے اللہ کی ربوبیت پر دلیل موجود ہے کہ وہی آسمانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس ذات نے یہ نظام پیدا کیا ہے وہی اس نظام کو چلا رہی ہے۔

۲۵۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک بار پکارے گا تو تم یکا یک نکل آؤ گے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿۲۵﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ: اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور ربوبیت و مدبریت کے شواہد میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان اور زمین امر خدا سے قائم ہیں۔ یہ دونوں صرف اپنے وجود میں آنے کے لیے اللہ کا محتاج نہیں ہیں بلکہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اجرام سماوی اور زمین، اپنی گردش اور قوت جاذبہ و دافعہ میں تعادل کی وجہ سے قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اسی تعادل کے ذریعے اس نظام کی تدبیر ہو رہی ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جاذبہ اور دافعہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ یہ حکم خدا ہے جو کل کائنات میں نافذ ہے۔

۲۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً: اسی ذات کی طرف سے جب یہ حکم آئے گا تو تم کو زمین کے حکم سے نکلنا پڑے گا جس کا حکم کل کائنات کے ذرے ذرے پر نافذ ہے اس کا حکم تمہارے ذرات پر بھی نافذ ہوگا۔

اہم نکات

۱۔ واضح رہے کہ ان آیات کا رخ ان مشرکین کی طرف ہے جو غیر اللہ کو رب سمجھتے تھے اور تدبیر حیات میں انہی ارباب کو موثر سمجھتے تھے۔ وہ ان معبودوں کی عبادت اپنی دنیوی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے کرتے تھے اور وہ حیات بعد الموت کے قائل نہ تھے۔ لہذا ان آیات میں ایک تو ان شواہد کا ذکر ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر دلالت کرتے ہیں، دوسرے وہ شواہد جو حیات بعد الموت پر اللہ کے قادر ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ ۲۶۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے
كُلٌّ لَهُ قُنُوتٌ ﴿۲۶﴾ اسی کا ہے اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ اللہ کل کائنات کا مالک ہے۔ اللہ بذات خود مالک ہے۔ دوسرے اللہ کی طرف سے مالک بنانے پر مالک ہوتے ہیں۔ اللہ ہر شے کی ذات کا مالک ہے کہ اس کا وجود اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی بقا بھی اللہ کی طرف سے ہے جب کہ غیر اللہ کسی شے کے صرف استعمال کا مالک ہے۔

۲۔ كُلٌّ لَهُ قُنُوتٌ: کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع فرماں ہے۔ جس نظام پر ان اشیاء کو چلایا ہے اس سے ذرہ برابر انحراف نہیں کر سکتیں۔ اجرام سماوی کو جس مدار پر لگایا ہے، اربوں سال میں ایک سیکنڈ کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ نباتات کو نشوونما کا جو نظام دیا ہے اس سے بالکل انحراف نہیں کر

سکتے۔ لہذا قنوت اطاعت کے معنوں میں ہے اور یہاں اطاعت سے مراد تکوینی اطاعت ہے۔

وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

۲۷۔ اور وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے اور آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے اعلیٰ شان و منزلت ہے اور وہ غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ اللہ کے لیے کوئی کام کسی دوسرے کام سے مشکل یا آسان نہیں ہوتا۔ مشکل اور آسان کا تصور وہاں آتا ہے جہاں کسی کام کی انجام دہی کے لیے وسائل اسباب کی ضرورت ہو۔ کم اسباب کا کام آسان اور زیادہ اور پیچیدہ وسائل و اسباب کا کام مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی کام کسی وسائل و اسباب کے ذریعے انجام نہیں دیتا۔ ہر کام میں اس کا ارادہ کار فرما ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے لیے اعادہ خلق زیادہ آسان ہے۔ یہ تعبیر بشری فہم کے مطابق اختیار کی گئی ہے کہ جہاں نقش اول مشکل اور نقش دوم آسان ہوتا ہے۔ سورہ ہائے یونس: ۴-۳۳، نمل: ۶۴، عنکبوت: ۱۹ میں ابتدا و اعادہ خلق کے بارے میں رجوع فرمائیں۔

۲۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ: اللہ کی لا محدود قدرت، حیات، مالکیت، عظمت، جود و سخا کے چھوٹے چھوٹے اور محدود نمونے آسمانوں اور زمین موجود ہیں۔ یہاں موجود محدود حیات کی اعلیٰ مثال اللہ کی لا محدود حیات ہے۔ یہاں کی حیات مستعار ہے۔ اللہ کی حیات بذات خود ہے۔ کائنات میں جو حیات مستعار اور محدود ہے اس کی اعلیٰ ترین مثال اللہ کی حیات ہے۔ غرض کائنات میں موجود اوصاف محدود، مستعار اور غیر مستقل ہیں۔ ان اوصاف میں اعلیٰ ترین مثال اللہ کے لیے ہے۔ قدرت کی کائنات میں اعلیٰ ترین قدرت اللہ کی ہے۔ علم کی دنیا میں اعلیٰ ترین علم اللہ کا ہے۔

۲۸۔ وہ تمہارے لیے خود تمہاری ایک مثال دیتا ہے، جن غلاموں کے تم مالک ہو کیا وہ اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ پھر وہ اس میں (تمہارے) برابر ہو جائیں اور

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۗ
كَذَلِكَ نَفِّصُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

تم ان سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح تم
(آزاد) لوگ خود ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟
عقل رکھنے والوں کے لیے ہم اس طرح نشانیاں
کھول کر بیان کرتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ: اس مثال کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق خود اللہ کی
شریک نہیں ہو سکتی۔ نہ تخلیق میں، نہ کائنات کی تدبیر میں۔

مشرکین اللہ کو مالک تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کسی مملوک کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس
مثال میں یہ وضاحت ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں اپنے مملوک غلام کو شریک کرنے کے لیے آمادہ
نہیں ہو لیکن یہ بات کس قدر نامعقول ہے کہ اللہ کی مخلوق اور مملوک کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔

فِي مَا رَزَقْنَكُمْ: قابل توجہ بات یہ ہے کہ تم اس چیز میں اپنے مملوک کو برابر شریک نہیں بنا سکتے
جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ وہ خود تمہاری پیدا کردہ نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ پھر تم اپنی پیدا کردہ باتوں
میں اس کی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔

۲۔ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ: تمہیں اس بات کا خوف لاحق ہے کہ تمہارے غلام تمہاری
مرضی کے خلاف ان چیزوں میں تصرف نہ کریں جس طرح دو شریک تصرف کرتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
ایک شریک کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ دوسرا شریک اس کی مرضی کے خلاف تصرف نہ کرے۔

۳۔ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ: تم اپنے غلاموں کے تصرف سے بالکل اسی طرح خائف رہتے ہو جس
طرح تم آزاد لوگ اپنے مشترکہ مال میں خائف رہتے ہو کہ دوسرا شریک تمہاری مرضی کے خلاف تصرف نہ
کرے۔ أَنْفُسَكُمْ سے مراد آزاد لوگ ہیں۔

تو جب تم مجازی مالک اپنے مجازی مملوک کو یہ حق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو حقیقی مالک کے
لیے اپنی مخلوق اور حقیقی مملوک کو یہ حق دینے کا عقیدہ کیسے رکھتے ہو؟

۴۔ نَفِّصُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ: اس مثال کا سمجھنا عقل سے کام لینے پر موقوف ہے۔

اہم نکات

۱۔ کبھی ایک مطلب کو سمجھانے کے لیے مخاطب کو خود اس کی حالت میں اتارنا پڑتا ہے۔

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ ۲۹۔ مگر ظالم لوگ نادانی میں اپنی خواہشات کی

أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ
يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ
مَنْ تُصِرِينَ ﴿٣١﴾

پیروی کرتے ہیں پس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے
کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ان کا کوئی مددگار
نہ ہوگا۔

تفسیر آیات

۱۔ ایک طرف خواہشات کا غلبہ ہو اور دوسری طرف جہالت ہو تو ایسے لوگوں کے لیے شرک جیسے ظلم کے ارتکاب کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ چنانچہ اگر عالم اپنی خواہشات کی پیروی کرے تو یہ امکان رہتا ہے کہ اس کا علم، اسے خواہشات سے کسی مرحلے میں روک سکتا ہے۔

۲۔ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ: جس سے ہدایت کا واحد سرچشمہ ”اللہ“ ہاتھ اٹھائے اسے ہدایت اور کون دے گا؟ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ جسے اللہ گمراہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت نہ دے: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾ بے شک اللہ ظالموں کی راہنمائی نہیں کرتا۔

ظالموں یعنی مشرکوں نے ہدایت کے سارے ذرائع مسترد کر دیے اور ہدایت کے قابل نہ رہے تو اللہ ایسے ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا یعنی جبراً ہدایت ان پر مسلط نہیں کرتا چونکہ وہ اختیاری ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں اور جبری ہدایت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ جبری ہدایت تو قیامت کے دن سب کو حاصل ہوگی۔

اہم نکات

- ۱۔ ضلالت کے دوسرے چشمے ہیں: خواہش پرستی اور جہالت۔
- ۲۔ جو اختیاری ہدایت کے لیے آمادہ نہیں ہے، اللہ اسے جبری ہدایت نہیں دیتا۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

۳۰۔ پس (اے نبی) یکسو ہو کر اپنا رخ دین (خدا)
کی طرف مرکوز رکھیں، (یعنی) اللہ کی اس فطرت
کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا
کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی
محکم دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

تفسیر آیات

۱۔ فَأَقْرَحُوا وَجْهَكَ لِلدِّينِ: مشرکین کی طرف سے ہونے والی تکذیب و تمسخر اور خواہش پرستی کی پرواہ کیے بغیر اپنی ساری توجہ دین پر مرکوز رکھیں اور اپنے موقف پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں۔

۲۔ حَنِيفًا: پوری یکسوئی کے ساتھ باطل نظریات سے لاتعلقی اور تمام غیر اللہ سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر تکیہ کر کے،

۳۔ فِطْرَتَ اللَّهِ: اللہ کی فطرت کی طرف اپنی ساری توجہ مرکوز رکھیں۔ اعنی فطرة اللہ۔ جس دین کی طرف اپنی پوری توجہ مرکوز رکھنے کا حکم ہے وہ اللہ کی فطرت سے عبارت ہے۔ وہ دین فطری تقاضوں سے عبارت ہے۔ دین ایک جبری اور مسلط کردہ چیز نہیں ہے۔ وہی فطرت اور جبلت میں موجود تقاضے ہیں۔

۴۔ اَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا: فطرت وہ اساس اور وہ بنیاد ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور دین بھی اسی اساس اور بنیاد پر قائم ہے چونکہ دین زندگی کے لیے ایک دستور حیات کا نام ہے۔ جس نے حیات بخشی ہے اسی نے اس حیات کے لیے دستور عنایت فرمایا۔ لہذا اس دستور اور حیات میں تصادم نہیں ہو سکتا بلکہ یہ دستور اس حیات کے تمام تقاضوں کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات تخلیق فرمائی تو اس وقت کائنات کی ہر چیز میں وہ باتیں ودیعت فرمائیں جو ان چیزوں کی بقا و ارتقا کے لیے ضروری ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ۖ
موسیٰ نے کہا: ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو
تَمَّ هَدَىٰ ۝۱
اس کی خلقت بخشی پھر ہدایت دی۔

واضح رہے فطرت کے تقاضے خلقت کے ماوراء میں ودیعت ہیں خود خلقت نہیں ہیں جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے کہ خلقت کے بعد ہدایت اس میں ودیعت ہوئی ہے۔ پس جس طرح تمام موجودات کی بقا و ارتقا کے لیے ضروری ہدایات اور سوجھ بوجھ ان میں ودیعت ہوئی ہیں بالکل اسی طرح شریعت نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔

فطرت میں اس بات کی سوجھ بوجھ ودیعت فرمائی کہ معاشروں میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ شریعت نے اس کی تفصیل بیان کی کہ عدل و انصاف کس طرح قائم ہو سکتا ہے:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
اور (قسم ہے) نفس کی اور اس کی جس نے اسے
وَتَقْوَاهَا ۝۱
معتدل کیا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے
بچنے کی سمجھ دی۔

پس فطرت میں بدکاری اور اس سے بچنے کی سوجھ بوجھ موجود ہے۔ شریعت نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، بدکاری کون سی چیزیں ہیں اور اس سے بچنے کے طریقے کون سے ہیں۔
اللہ نے توحید اور معرفت رب فطرت میں ودیعت فرمائی۔ شریعت نے اس کی تفصیل بیان کی کہ معرفت رب کے تقاضے کیا ہیں۔

لہذا فطرت اور شریعت میں اگر کوئی فرق ہے تو اجمال و تفصیل کا فرق ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام فطرت کے اجمال کی تفصیل بیان کرنے کے لیے مبعوث ہوئے۔ اسی لیے فطرت، انبیاء علیہم السلام کی آواز کو پہچانتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو پذیرائی ملتی ہے۔ ورنہ غیر فطری مسلط شدہ چیز کو پذیرائی نہ ملتی اور ندائے اَنْسَتْ بِرَبِّكَ كَذِبًا کا مثبت جواب بلی نہ ملتا۔

چنانچہ اعراف آیت ۱۷۲ کے ذیل میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ خالق نے تخلیق انسان کے موقع پر اولاد آدم سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا۔ ہمارے نزدیک اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے: انسان کی تخلیق کے موقع پر اس کی فطرت اور سرشت میں معرفت رب ودیعت فرمائی۔ یہ معرفت جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا اورائے خلقت ودیعت ہوئی ہے۔ جیسا کہ انسان کی تخلیق میں کام آنے والے کھربوں خلیات کی پیدائش ایک خلیے سے ہوئی اور جو سبق ابتدائی خلیے میں موجود جین (Gene) کو پڑھایا گیا وہ آنے والے تمام خلیات میں بطور وراثت منتقل ہوتا گیا۔

انسان نے اب تک جس حد تک عالم خلیات میں جھانک کر دیکھا ہے اور تخلیق و تعمیر پر مامور اس مخیر العقول لشکر کی حیرت انگیز کرشمہ سازیوں کا مشاہدہ کیا ہے اس سے یہ بات بعید از قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا تھا تو نسل انسانی کی جبلت کے ابتدائی خلیے کو اپنی ربوبیت کا درس پڑھایا ہو پھر اس سے اس کا اقرار لیا ہو۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا:

۳۵۸

لَيْسَتْ أَدْوُهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ...^۱ انہیں اس لیے بھیجا تا کہ لوگوں کو اللہ کی فطرت کا عہد و ميثاق یاد دلائیں۔

اور یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا عہد و ميثاق ہم سے لیا گیا ہے ہمیں یاد کیوں نہیں حضرت امام صادقؑ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں:

ثَبَّتَ الْمَعْرِفَةَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ نَسُوا الْمَوْقِفَ...^۲ یعنی لوگ واقعہ بھول گئے مگر معرفت دلوں میں نقش ہو گئی

ہم اپنے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں: کلاس بھول گئے مگر سبق یاد ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی حدیث مشہور ہے:

كل مولود يولد فهدى الفطرة و هر بچه فطرت پر پيدا ہوتا ہے یہ اس کے والدین ہیں
انما ابواه يهودانه او ينصرانه۔۔۔ جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔

دین کے فطری ہونے کے سلسلے میں درج ذیل نکات قابل توجہ ہیں:

i۔ فطرت کے تقاضے کبھی بیرونی منفی عوامل کی وجہ سے دب جاتے ہیں۔ مثلاً علم دوستی بھی انسان کی
فطرت میں بالاتفاق موجود ہے لیکن منفی تربیت کی وجہ سے علم دوستی کا رجحان ناپید ہو جاتا ہے۔
جب یہ بیرونی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں تو فطرت سلیمہ کو اپنا تقاضا پورا کرنے کا موقع مل جاتا ہے:

وَ اِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلُمِ اللَّيْلِ دَعَوْا
اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُمُ الدِّيْنَ...۔۔۔^۱
اور جب ان پر (سمندر کی) موج سائبان کی طرح چھا
جاتی ہے تو وہ عقیدے کو اسی کے لیے خالص کر کے اللہ
کو پکارتے ہیں۔

جب انسان کے دل و دماغ سے تمام بیرونی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں تو اس وقت انسان کو اپنی
فطرت کے ساتھ سرگوشی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس وقت فطرت کو اس کے خالق کے سوا
کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔

ii۔ نفسیاتی ماہرین کو اس بات کا علم ہو گیا کہ جمال پرستی، علم اور احسان دوستی انسانی فطرت میں
رچی بسی ہے۔ بعد میں ماہرین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا پرستی بھی انسان کی فطرت میں رچی
بسی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ باقی فطری باتوں کے لیے خدا پرستی بنیاد ہے۔ یعنی ذوق جمالیات کی
بنیاد ذوق بندگی سے ہے: اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ۔۔۔^۲ علم دوستی کی بنیاد بھی معرفت
رب کے حصول سے ہے اور احسان دوستی کا جذبہ بھی انسان کو اللہ کی عبودیت سے ملا ہے۔
چنانچہ انسان ایسے لوگوں کے عاشق ہوتے ہیں جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں۔

iii۔ دین اگر فطری نہ ہوتا تو اسے دوام نہ ملتا۔ چنانچہ غیر فطری امور بیرونی عوامل کی وجہ سے
بدلتے رہتے ہیں جب کہ دین ماقبل تاریخ کے زمانوں میں بھی رائج تھا۔

۵۔ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ: اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تخلیق سے مراد فطرت ہے۔
فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تمام انسانوں کی فطرت ایک ہے۔ نوع ایک ہے۔ مصلحت ایک ہے۔ رہنما
بھی ایک ہے۔ فطرت ہی رہنما ہے۔ ہادی میں تبدیلی نہیں اور ہدایت میں بھی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر فطرت
میں انحراف آجائے تو دین دوبارہ فطرت کی طرف واپس کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین تمام ادوار اور تمام
اقوام کے لیے ایک ضرورت ہے۔

۶۔ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ: فطرت اور شریعت کی یہ وحدت، دینِ قییم ہے۔ دین، انسانی فطرت سے قابل تفریق نہیں ہے۔

اہم نکات

- ۱۔ دین کے فطری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اقامہ دین کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں: فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ....
- ۲۔ دین ہر انسان کی فطرت و جبلت میں رچی بسا ہے: فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا....
- ۳۔ دین کو فطرت کا سہارا حاصل ہے اور محکم ہے: ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ....
- ۴۔ فطری تقاضے ماند پڑ جاتے ہیں نابود نہیں ہوتے: لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ....

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا
الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِّنَ
الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۳۱﴾

۳۱۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہونا۔

تفسیر آیات

- ۱۔ سابقہ آیت میں خطاب صرف رسول اللہ ﷺ سے ہوا اور جب یہ بات ہو چکی کہ فطرت ہی دینِ قییم ہے تو اس آیت میں سب سے خطاب کر کے فرمایا: ہر انحراف کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔
- ۲۔ وَاتَّقُوْهُ: فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے غضب اور اس کے انتقام سے بچو۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز قائم ہو جائے اور کسی قسم کے شرک کا ارتکاب نہ کیا جائے۔

اہم نکات

- ۱۔ فطرت کا شجر جب پھیلتا ہے تو تقویٰ و نماز کا پھل دیتا ہے: وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ....

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا
شِيْعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُوْنَ ﴿۳۲﴾

۳۲۔ جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور جو گروہوں میں بٹ گئے، ہر فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔

تفسیر آیات

- ۱۔ نہ ہی ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی ہے۔ چونکہ شرک ہوس پرستی کی

وجہ سے وجود میں آتا ہے اور خواہشات کی بنیاد پر جو چیز وجود میں آئے گی اس میں اختلاف ضرور آئے گا۔ چونکہ لوگوں کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں۔

۲۔ كَلَّ حَرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ: جب ہوس پرست لوگ مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں اور ہر ایک فرقہ اپنے لیے ایک معبود بنا لیتا ہے تو ہر ایک اپنے پاس موجود عقائد و خرافات پر خوش رہتا ہے چونکہ خواہشات اسے خوشنا بنا دیتی ہیں۔ کسی کو ستارہ پرستی اچھی لگتی ہے تو کسی کو بت پرستی، کسی کو آتش پرستی، کسی کو جن پرستی بھلی لگتی ہے۔ ہر ایک کو اپنا خود ساختہ معبود و مذہب اچھا لگتا ہے۔ جب کہ دین فطرت ہر جگہ، ہر وقت، ہر قوم، ہر زمانہ میں ایک ہی ہوتا ہے۔

اہم نکات

- ۱۔ تفرقہ بازی فطرت کے اثرات کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے: مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيَنَهُمْ....
- ۲۔ فرقہ بازی کی وجہ سے انسان باطل پر خوش رہتا ہے: بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔

۳۳۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک فرقہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾

تفسیر آیات

- ۱۔ تکلیف کے وقت ضمیر آزاد، فطرت شفاف اور وجدان بیدار ہو جاتا ہے، غیر فطری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی فطری محرک کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، دَعَوْا رَبَّهُمْ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔
- ۲۔ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ: اس وقت یہ حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
- ۳۔ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ: تکلیف ختم ہونے کے بعد صحت و عافیت، امن و سلامتی کی نعمتوں میں خوشی کی زندگی میسر آ جاتی ہے تو ضمیر پر وہی پرانا پردہ پڑ جاتا ہے۔ فطرت مکرر اور وجدان مردہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ دوبارہ فطرت سے منحرف ہو جاتے اور شرک جیسی غلاظت میں گر جاتے ہیں۔

اہم نکات

- ۱۔ غیر مومن صرف مصیبت کے وقت خدا کو یاد کرتا ہے جب کہ مومن اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے:

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ....

۳۴۔ تاکہ جو ہم نے انہیں بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، پس اب مزے اڑاؤ، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا^{٣٤}
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ^{٣٥}

تفسیر آیات

۱۔ لِيَكْفُرُوا: لام برائے بیان عاقبت ہے۔ وہ دوبارہ شرک میں مشغول ہو جاتے ہیں تاکہ ہم نے جو نعمتیں انہیں دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ بعض کے نزدیک یہ لام امر غائب کے لیے ہے۔ یعنی جو ہم نے انہیں عنایت کیا ہے اس کی ناشکری کرو اور مزے اڑاؤ۔ یہ تہدید کی صورت بنتی ہے۔

۳۵۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کی شہادت دے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهَوْا يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ^{٣٥}

تفسیر آیات

۱۔ سلطان سے مراد دلیل ہے کہ کیا ہم نے ان مشرکین پر کوئی دلیل نازل کی ہے کہ وہ اپنے شرک کے لیے اس دلیل کو پیش کریں۔ دلیل کا واحد مصدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ سے مربوط ہے۔ اللہ کی طرف سے سند کے بغیر خود کوئی حکم صادر کرتا ہے تو یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت ہے۔

۳۶۔ اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور جب ان کے برے اعمال کے سبب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔

وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا^{٣٦}
وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَمْأَدُمْتُمْ^{٣٧}
أَيْدِيَهُمْ إِذْ هُمْ يَقْنَطُونَ^{٣٨}

تفسیر آیات

جو شخص بھی ایک محکم اور استوار موقف پر قائم نہیں ہے وہ بدلتے حالات کی رو میں ہنکے کی طرح بہ جاتا ہے۔ خوشحالی پر اترانا اور گردش ایام میں ناامیدی کی تاریکی میں ڈوب جانا بے موقف انسان کا شیوہ ہے۔ جب کہ اللہ پر پختہ یقین رکھنے والے لوگ جبل راسخ کی طرح ہوتے ہیں اور وہ تیز ترین آندھیوں سے

نہیں ملتے۔

آیت ۳۳ میں فرمایا: یہ لوگ مصیبت کے موقع پر اللہ کو پکارتے ہیں جب کہ اس آیت میں فرمایا: مصیبت کے وقت مایوس ہوتے ہیں۔ پکارنا مایوس نہ ہونے کی صورت میں ہوتا ہے جب کہ مایوس ہونے کی صورت میں پکارتے نہیں ہیں، تو کیا ان دونوں آیتوں میں تصادم ہے؟

اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ آیت ۳۳ میں ناگہانی آفت جیسے زلزلہ طوفان وغیرہ کی صورت میں مؤمن اور مشرک سب اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کرتے ہیں جب کہ اس آیت میں فرمایا: خود ان کے اپنے کیے کے نتیجے میں بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قدرتی آفات اور اپنی شامت اعمال میں فرق ہوتا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۷﴾
 ۳۷۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے؟
 مؤمنین کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ کیا جو لوگ مصیبت کے وقت مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں جانتے کہ روزی میں کشادگی اور تنگی اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلے کے مطابق ہوتی ہے۔ لہذا نعمت کے موقع پر اترانا نہیں چاہیے۔ یہ نعمت زوال پذیر ہے اور مصیبت کے وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح ہے کہ ہر واقعہ کے پیچھے کچھ علل و اسباب، عوامل و محرکات ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب اور علة العلل ہے۔ تمام معاملات بالآخر اللہ کی حکیمانہ مشیت پر منتہی ہوتے ہیں۔

۳۶۳

قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۸﴾
 ۳۸۔ پس تم قریبی رشتہ داروں کو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ: قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے دیں۔ خطاب رسول اللہ ﷺ سے

ہے۔ حَقُّہ سے ظاہر ہوتا ہے قریبی ترین رشتہ داروں کا حق پہلے سے متعین ہے۔ اسی طرح مساکین اور مسافر کا بھی حق معین ہے۔

مجمع البیان میں ابوسعید خدری سے روایت ہے:

لما نزلت هذه الآية على النبي ﷺ اعطى فاطمة فدكا وسلمها اليها۔ جب یہ آیت رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی تو فاطمہ نے فدک کو فدک عنایت فرمایا اور ان کے سپرد فرمایا۔

شواہد التنزیل میں اس آیت کے ذیل میں ابن عباس سے روایت ہے:

لما نزلت قَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقُّهُ دعا رسول الله ﷺ فاطمة و اعطاها فدكاً و ذلك لصلة القرابة۔ جب آیت قَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقُّهُ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فاطمہ کو بلایا اور قرابتی رشتے کی لصلۃ القرابة۔ بنا پر انہیں فدک عطا فرمایا۔

حضرت امام محمد باقر و حضرت امام صادق علیہما السلام سے بھی یہی روایت ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ

ہو سورۃ بنی اسرائیل آیت ۲۶۔

اگر اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں تو یہاں مراد خمس ہے۔ چنانچہ مضمون آیت اور روایت دونوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ سورہ کی ہے تاہم یہ آیت اور آنے والی آیت جس میں ربا اور زکوٰۃ کا ذکر ہے مدنی ہیں لیکن اگر یہ آیت کی ہے تو اس صورت میں قرابتداروں کا ان کا حق دے دو سے مراد ہر قسم کا احسان ہے نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسالت مآب ﷺ نے فدک حضرت زہرا علیہا السلام کے حوالے کرتے ہوئے اس آیت کی تلاوت فرمائی ہو۔

مصارف ہشتگانہ میں سے صرف تین مصارف کے ذکر سے ان کی اہمیت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رَبٍّ لَّيْرُبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَ مَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وِجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْحِقُوْنَ ﴿۳۹﴾

۳۹۔ اور جو سود تم لوگوں کے اموال میں افزائش کے لیے دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک افزائش نہیں پاتا اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو پس ایسے لوگ ہی (اپنا مال) دوچند کرنے والے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رَبٍّ لَّيْرُبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ: اپنے کاروبار میں سہولت اور دولت میں اضافہ کے لیے بااثر لوگوں کو تم جو تحائف پیش کرتے ہو ان سے سرمائے میں اضافہ نہیں ہوتا۔ سرمائے میں اضافے کی بہتر صورت یہ ہے تم

اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس سے تمہاری دولت بڑھے گی۔

اگر اس آیت کو کئی تسلیم کیا جائے تو ربا سے مراد یہاں اصطلاحی سود نہیں جو حرام ہے بلکہ ہر قسم کا اضافہ مراد ہے۔ نہ ہی زکوٰۃ سے اصطلاحی زکوٰۃ مراد ہے بلکہ ہر قسم کا صدقہ مراد ہے لیکن اگر ان آیات کو مدنی تسلیم کیا جائے تو سود سے وہی حرام سود مراد ہو سکتا ہے اور زکوٰۃ سے اصطلاحی زکوٰۃ۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ
ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ
مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ
ذِكْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٠﴾

۳۰۔ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا وہی تمہیں موت دیتا ہے پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ پاک ہے اور بالاتر ہے وہ ذات اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ مشرکین اللہ کو خالق تسلیم کرتے ہیں، رازق تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اپنے معبودوں میں سے بعض کو رزق کا ذمے دار سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں خلق کے ساتھ رزق کا بھی ذکر اس لیے کیا کہ رزق بھی تخلیق مسلسل کا نام ہے۔ لہذا رازق، خالق سے جدا نہیں ہو سکتا۔

۲۔ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ: کیا تمہارے شریکوں میں کوئی معبود ایسا ہے جو خلق کرے اور موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہو۔ جواب نفی میں ہوگا تو معلوم ہوا جو معبود خلق، زندہ کرنے اور مارنے پر قادر نہیں ہے وہ رزق دینے پر بھی قادر نہ ہوگا۔ وہ معبود نہیں ہو سکتا۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا
كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيَذِيْقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾

۳۱۔ لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے، شاید یہ لوگ باز آجائیں۔

تفسیر آیات

۱۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ: خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا۔ یعنی پورے کرۂ ارض کو فساد نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب خشک سالی آتی ہے تو اس صورت میں سمندری حیات میں بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے، خشکی میں قحط

آجاتا ہے اور زمین آسمانی برکتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔

۲۔ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ: قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ صورت حال لوگوں کے عمل بد کے نتیجے میں پیش آئے گی۔

ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت آج کے انسانوں کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے جن کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اوزون میں سوراخ ہونے سے کرۂ ارض پر ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور پورا کرۂ ارض ایک ناقابل تلافی فساد کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔

۳۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا: تاکہ لوگوں کو اپنی بد اعمالی کی سزا مل جائے اور ان کے ضمیر اور وجدان کو بیدار کیا جائے۔

۴۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ: تاکہ وہ اس جرم سے باز آ جائیں جس سے فساد پھیلتا ہے۔ کہا جاتا ہے آیت کا اشارہ اس قحط کی طرف ہے جس سے مشرکین رسول اللہ ﷺ کی دعا کی وجہ سے دوچار ہو گئے تھے۔

یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ ممکن ہے اشارہ ایران و روم کے درمیان جنگ کی طرف ہو۔ اس وقت جنگوں میں سمندری بیڑا بھی استعمال میں لایا جاتا تھا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

حیاء دواب البحر بالمطر فاذا
كف المطر ظهر الفساد في البر و
البحر و ذلك اذا كثرت الذنوب
والمعاصي۔^۱

خشکی اور سمندر میں جانداروں کی زندگی بارش سے وابستہ ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو خشکی اور سمندر میں فساد پھیلتا ہے۔ جب انسانوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے۔

۴۲۔ کہد بیجی: زمین میں چل پھر کر دیکھ لو گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ ان میں سے اکثر مشرک تھے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ
كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۴۲﴾

تفسیر آیات

سیر فی الارض کے ذریعے تاریخ اقوام کا بصری و مشاہداتی مطالعہ درس آموز ہوتا ہے۔ گزشتہ تباہ شدہ اقوام کی اکثریت کا تعلق مشرک اقوام سے تھا۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مَنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَنَّهُ يَوْمَ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٣٣﴾

۴۳۔ لہذا آپ اپنا رخ محکم دین کی طرف مرکوز رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس کے اللہ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس دن لوگ پھوٹ کا شکار ہوں گے۔

تفسیر آیات

۱۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ: جب مسئلہ نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو رسول اللہ ﷺ کو خطاب کر کے حکم فرماتا ہے تاکہ دوسرے لوگ یہ سمجھیں کہ جب اپنے حبیب سے اس لہجے میں بات ہو رہی ہے تو اس حکم سے انحراف نہایت سنگین ہوگا۔

حکم یہ فرمایا: اپنی پوری توجہ اس محکم اور مضبوط دین پر مرکوز رکھیں جو شکست ناپذیر ہے۔ جس میں کسی قسم کا خلل نہیں ہے۔ اس میں اس دین کی الٰہی الابد کامیابی کی نوید ہے۔

۲۔ مَنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَنَّهُ: اگر اس دین پر توجہ مرکوز کرنے میں کوتاہی ہوئی اور انحراف آگیا تو قیامت کے دن اس انحراف کے خوفناک نتائج کو ٹالنے والا کوئی نہ ہوگا۔

۳۔ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ: اس دن لوگ پھوٹ کا شکار ہوں گے۔ کچھ جنت اور کچھ جہنم میں جائیں گے یا پھوٹ کا اشارہ ایک دوسرے سے فرار ہونے کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ وَأُمِّهِ ۝ وَأَبِيهِ ۝
تو جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، نیز اپنی ماں اور اپنے باپ سے۔

۴۴۔ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کے لیے ہے اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے ہی راہ سدھارتے ہیں۔

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نُنْفِئُهُمْ يَوْمَئِذٍ ﴿٣٤﴾

تفسیر آیات

اس آیت میں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ یہاں کفر و ایمان کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ کفر اور عمل صالح کا مقابلہ ہے۔ اس سے یہ بات نہایت واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان عمل صالح سے عبارت ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۴۳ میں قبلہ اول کی طرف پڑھی گئی نمازوں کے درست ہونے کی صراحت کرتے ہوئے فرمایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا....

یہاں نماز کو ایمان کہا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

الایمان عمل کلہ۔^۱ ایمان مکمل طور پر عمل ہی سے عبارت ہے۔

فَلَا نَفْسَهُمْ يَمْهَدُونَ: عمل صالح کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

عمل صالح اس کے بجالانے والے سے پہلے جنت پہنچ جائے گا اور اس کے لیے آمادہ کرے گا جس طرح تمہارا خادم تمہارے لیے بستر آمادہ کرتا ہے۔^۲

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾
۳۵۔ تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔

تفسیر آیات

تاکہ اللہ اپنے فضل سے جزا دے۔ یعنی جزا اور ثواب اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ملتا ہے۔ ورنہ ہم اس کے مملوک اور مخلوق ہیں۔ جو بھی ہم عمل انجام دیں گے اس سے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوتا چہ جائیکہ کسی اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں۔

۳۶۸

اہم نکات

- ۱۔ دین اسلام شکست ناپذیر ابدی دین ہے۔
- ۲۔ قیامت کے خطرات کو سامنے رکھیں تو انحراف نہیں آئے گا۔
- ۳۔ ایمان پر عمل صالح کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہیں ہے۔
- ۴۔ اجر و ثواب اللہ کے فضل سے ملتا ہے، صرف ہمارے اعمال سے نہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ ۳۶۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں

مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

کو بشارت دہندہ بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائے اور کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر کرو۔

تفسیر آیات

۱۔ وَمِنْ آيَاتِهِ: اللہ تعالیٰ کے مدبر کائنات اور معبود برحق ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل ہوا میں ہیں۔ ان ہواؤں سے تمہاری حیات کی تدبیر سے متعلق درج ذیل امور انجام پاتے ہیں:

الف: مُبَشِّرَاتٍ: یہ ہوائیں بشارت دہندہ ہوتی ہیں۔ بادلوں کی تشکیل کرتی ہیں یعنی بادلوں کو گھنا کر دیتی ہیں۔ پھر انہیں خشکی کی طرف چلا دیتی ہیں۔ پھر بارش آجاتی ہے۔

ب: وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ: تعفن کو دور کر دیتی ہیں۔ درختوں کو باردار کرتی ہیں۔ فضا کو معطر کر دیتی ہیں۔ ہواؤں کی وجہ سے ہونے والی بارش سے زندگی کے لیے سامان فراہم ہوتا ہے۔

ج: ہواؤں کی وجہ سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں۔ ان کشتیوں کے ذریعے ہونے والی تجارت سے تم اپنے لیے معاش فراہم کرتے ہو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ تم اللہ ہی کو مدبر اور معبود قبول کرو۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٧﴾

۳۷۔ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے، سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے بدلہ لیا اور مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا: رسول اللہ ﷺ کی تسلی و تقویت کے لیے تاریخ انبیاء کے وہ اوراق سامنے رکھے جا رہے ہیں جو ان کی تحریک سے متعلق ہیں۔ وہ درج ذیل ہیں:

الف: ہم نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا ہے تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ آپ سلسلہ انبیاء ﷺ کے رسول ہیں۔

ب: فَجَاءَهُمْ وَهُمْ بِالْبَيْتِ: سابقہ انبیاء علیہم السلام بھی آپ ﷺ کی طرح اپنی رسالت کے ثبوت کے لیے واضح شواہد لے کر آئے تھے مگر لوگوں نے ان شواہد کو مسترد کر دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ نے جو شواہد پیش کیے ہیں انہیں ان لوگوں نے مسترد کر دیا۔

ج: فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا: ان شواہد کو مسترد کر کے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرنے والے مجرمین سے ہم نے انتقام لیا ہے اس میں یہ نوید ہے کہ اے رسول ﷺ! آپ کے معاصر مجرم لوگوں سے بھی ہم انتقام لیں گے۔

د: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ: ان مجرمین کے درمیان موجود مؤمنین کی چھوٹی سی جماعت کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے۔ قابل توجہ ہے کہ مؤمنین کی نصرت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے ایک حق قرار دیا ہے جو فتح و نصرت کا صرف وعدہ نہیں بلکہ ضمانت ہے۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ
سَحَابًا فَيُبْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ
يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْفِهِ فَإِذَا
أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا
هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٣٨﴾
وَأَنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ
عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٣٩﴾

۳۸۔ اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں پھر اسے جیسے اللہ چاہتا ہے آسمان پر پھیلاتا ہے پھر اسے ٹکڑوں کا انبوہ بنا دیتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچ میں سے بارش نکلنے لگتی ہے پھر اس (بارش) کو اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

۳۹۔ جب کہ اس بارش کے ان پر برسنے سے پہلے وہ ناامید ہو رہے تھے۔

تشریح کلمات

الودق (ودق) بعض نے کہا ہے: بارش میں جو غبار سا نظر آتا ہے اسے ودق کہا جاتا ہے اور کبھی اس سے مراد بارش بھی ہوتی ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ: اللہ تعالیٰ اس حیات کی تدبیری امور کس حکیمانہ انداز میں انجام دیتا



ہے، سب سے پہلے ہواؤں کو روانہ فرماتا ہے۔ یہ ہوائیں سمندر سے اٹھنے والے بخارات کی تشکیل کے لیے درج ذیل امور انجام دیتی ہیں:

الف: فَتَنْزِلُ سَحَابًا: یہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی یعنی بادلوں کی تشکیل کرتی ہیں۔

ب: فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ: پھر اللہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے تاکہ کہہ ارض کا ایک وسیع حصہ سیراب ہو جائے۔ جن علاقوں کو سیراب کرنا اللہ کی مشیت میں ہے ان تک یہ بادل پہنچ جائیں۔

ج: وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا: پھر اسے تہ در تہ کر کے انبوہ بنا دیتا ہے چونکہ پتلا بادل بارش نہیں دے سکتا۔

د: فَتَرِي الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَلِهِ: الْوَدْقُ بارش کو کہتے ہیں۔ بادلوں کا انبوہ بننے پر اس کے درمیان سے بارش کے قطرے نکلتے ہیں۔

ه: فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَتِئَاءُ مِنْ عِبَادِهِ: جب بارش کے قطروں سے لوگ سیراب ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں چونکہ اس بارش کے پانی میں زمین کی شادابی اور زندگی ہے۔

۲- وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ: یاس و نومیڈی کے بعد برسنے والی بارش سے لوگوں میں زیادہ خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ قَبْلِهِ کی ضمیر کو ارسال ریح سے مربوط گردانا جاتا ہے۔ یعنی اگرچہ وہ لوگ بارش برسنے اور ہواؤں کے چلنے سے پہلے ناامیدی کا شکار تھے۔

فَانظُرْ إِلَىٰ أَثْرِ رَحْمَتِ اللَّهِ ۖ
كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ
إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۵۰﴾

۵۰۔ اللہ کی رحمت کے اثرات کا نظارہ کرو کہ وہ زمین کو کس طرح زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ فَانظُرْ إِلَىٰ أَثْرِ رَحْمَتِ اللَّهِ: یہ قرآن کا طرز استدلال ہے جس میں دلیل کے عناصر مشاہدات و محسوسات سے لیے جاتے ہیں کیونکہ انسان کے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ بارش سے مردہ زمین میں جان آجاتی ہے بنا برائیں یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ وہی خالق انسان کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا
أُورِثْتُمْ فِيهَا لَمَّا خَلَقْتُمُ الْبَشَرَ لَتَكْفُرْنَ

اور تحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو، پھر تم عبرت

تَذَكَّرُونَ ۝۱

حاصل کیوں نہیں کرتے؟

اہم نکات

۱۔ بارش رحمت خدا کے آثار اور معاد پر حجت خدا ہے۔

وَلَكِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا ۝۵۱ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد ہوتے دیکھ لیں تو وہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں۔

لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۝۵۱

تفسیر آیات

۱۔ اگر ان سے یہ نعمت چھین جاتی ہے تو گذشتہ تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف حالات کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے اور ایک کمزور تنکے کی طرح ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں جب کہ مومن چٹان کی طرح مضبوط اور نہایت نامساعد حالات میں بھی اللہ کے شاکر رہتا ہے۔

فَأِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمُوَلَّىٰ وَلَا تَسْمَعُ ۝۵۲ آپ یقیناً مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو (اپنی) پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پشت پھیرے جا رہے ہوں۔

جو لوگ ہدایت کے اہل نہیں ہیں انہیں آپ بزور ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس آیت کی تشریح سورہ نمل آیت ۸۰ میں گزر چکی ہے۔

۳۷۲

وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعَمَىٰ عَنْ ۝۵۳ اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں، آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں اور فرمانبردار ہیں۔

يَوْمَنْ يَأْتِنَا فَهَمْ مُسْلِمُونَ ۝۵۳

۱۔ اس آیت کی تشریح سورہ نمل آیت ۸۱ میں ہو چکی ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ۝۴- اللہ وہ ہے جس نے کمزور حالت سے تمہاری
 ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
 تَخْلِيْقَ (شروع) کی پھر کمزوری کے بعد قوت
 ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۝۵
 بخشی پھر قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا کر دیا،
 وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝۵
 وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ بڑا جاننے
 والا صاحب قدرت ہے۔

تفسیر آیات

اس بات پر ایک واضح دلیل قائم ہو رہی ہے کہ انسان بذات خود ایک بے بس وجود ہے۔ ایک
 قوت ہے جو اس کی زندگی کو چلا رہی ہے۔ وہی قوت اس کی مدبر ہے اور اس قوت کا مالک اس کا رب ہے۔
 ۱- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ: ایک نہایت کمزور جرثومہ کمزور بوند سے پیدا کیا۔ حالت
 جنین میں بھی کمزور، شیر خوار بچہ بھی کمزور اور بے بس ہوتا ہے۔

۲- ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ: ان کمزور مراحل سے گزرنے کے بعد عالم شباب میں داخل ہو
 جاتا ہے۔ کچھ طاقت و قوت کا مالک بن جاتا ہے۔ اس مرحلے میں آ کر یہ نادان اپنے ماضی اور مستقبل سے
 غافل رہتا ہے۔ حدیث میں ہے:

الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ۔ ۱
 دوسری حدیث میں ہے:

السكر اربعة سكر الشباب سكر المال و سكر النوم و سكر الملك۔ ۲
 السكر اربعة سكر الشباب سكر المال و سكر النوم و سكر الملك۔ ۲
 نشہ کی چار حالتیں ہیں: جوانی کا نشہ، مال کا نشہ، نیند
 کا نشہ اور کرسی کا نشہ۔

۳- ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً: عالم شباب کی طاقت کا مزہ چکھانے کے بعد آہستہ آہستہ
 یہ طاقت و قوت اس سے سلب کی جاتی ہے:

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا... ۳
 اور تم میں سے کوئی ٹکمی ترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ
 وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے

۴- يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ: اللہ کبھی کمزور خلق فرماتا ہے۔ کبھی طاقت و قوت عنایت فرماتا ہے۔ وہ خلق کے
 تمام اسرار و رموز کو بہتر جانتا ہے: وَهُوَ الْعَلِيمُ۔ وہ قدرت رکھتا ہے اپنی مشیت و حکمت کے مطابق جو چاہے
 خلق کرے: الْقَدِيرُ۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾
 وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

۵۵۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی مجرمین قسم کھائیں گے کہ وہ (دنیا میں) گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، وہ اسی طرح الٹے چلتے رہتے تھے۔

۵۶۔ اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے: نوشتہ خدا کے مطابق یقیناً تم قیامت تک رہے ہو اور یہی قیامت کا دن ہے لیکن تم جانتے نہیں تھے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ: جب قیامت برپا ہوگی تو انہیں ایسا لگے گا کہ مرنے کے فوراً بعد قیامت برپا ہو گئی ہے۔ وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مرنے کے بعد صرف گھڑی بھر قبر میں رہے ہیں۔

۲۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ: یہ لوگ دنیا میں بھی ایسی ہی خلاف واقع اور خلاف حق باتیں کرتے رہے ہیں۔

۳۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ: جب کہ علم و ایمان سے سرشار لوگ اس مدت کے بارے میں صحیح موقف بیان کریں گے۔ یہاں الْعِلْمَ سے مراد برزخ میں توقف کی مدت کا علم ہو سکتا ہے۔ الْإِيمَانَ سے مراد ایمان بہ آخرت ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی عالم برزخ کے بارے میں علم اور آخرت پر ایمان رکھنے والے یہ موقف بیان کریں گے۔

۴۔ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ: تم نوشتہ خدا میں قیامت تک رہے ہو۔ کتاب اللہ سے مراد اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے یا اس کتاب میں درج ہے جہاں سے اہل علم و ایمان کو خبر دی گئی ہے۔

اہل علم و ایمان دنیاوی زندگی کے مراحل سے آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک سفر ہے اور منزل ان کے سامنے ہوتی ہے۔ اس طرح وہ مرنے کے بعد کے مراحل سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ جب کہ جو لوگ علم و ایمان سے محروم ہیں وہ اس زندگی کے مراحل و منازل سے بے خبر ہوتے ہیں۔

قیامت برپا ہوتے ہی قیامت سے پہلے جو وقت گزرا ہے وہ اسے ایک گھڑی سے زیادہ معلوم نہیں

ہوگا۔

ان آیات سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں حیات برزخی حاصل نہ تھی۔ وہ خیال کریں گے کہ مرنے کے بعد فوراً اٹھائے گئے ہیں۔ جیسا کہ سورہ یس میں فرمایا کہ یہ لوگ کہیں گے:

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا...! ہمارے خوابگا ہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا؟

۳۶۱: یس: ۵۲

جب کہ اہل علم و ایمان کو حیات برزخی حاصل تھی۔ انہیں اس مدت کا اندازہ ہے جو ان کی موت اور قیامت کے درمیان گزری ہے۔ اس لیے یہ اہل ایمان دوسروں سے کہیں گے: وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم جانتے نہیں تھے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجرموں کو موت اور قیامت کے درمیان فاصلہ صرف ایک گھڑی لگا ہے تو کیا انہیں قبر میں عذاب نہیں ہوتا تھا؟ جواب یہ ہے کہ یہ ان مجرمین کے بارے میں جنہیں قبر کے سوال و عذاب کے بعد حیات برزخی نہیں ملے گی۔ البتہ بہت بڑے مجرموں کو حیات برزخی ملے گی اور تا قیام قیامت وہ عذاب میں ہوں گے۔

۵۷۔ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔

فِيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۷﴾

تفسیر آیات

قیامت کا دن حساب اور سزا کا دن ہے۔ توبہ و عمل کا دن گزر گیا۔ قیامت کے دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا چونکہ جو ابدہی کے موقع پر حساب دینا ہوتا ہے، راضی کرنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿۵۸﴾ اور انہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں۔

اگرچہ انہیں معذرت کرنے تک کی اجازت نہیں دی جائے گی چونکہ معذرت کا کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ

اجازت دی جائے۔

۳۶۱: مرسلات: ۷۷

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَكِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾
 ۵۸۔ اور تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کر بھی دیں تو کفار ضرور کہیں گے: تم تو صرف باطل پر ہو۔
 ۵۹۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ: قرآن کتاب ہدایت ہے اور مثال، حقائق سمجھانے کے لیے مؤثر ترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقائق سمجھانے کے لیے خطاب کے تمام اسلوب اختیار کیے اور دلوں اور عقلوں کی بیدار کے لیے ہر وسیلہ اختیار کیا ہے۔ ایسا اسلوب سخن اختیار کیا ہے جو ہر عقل اور ہر قلب ہر ماحول ہر طبقہ کے لیے قابل فہم ہے۔ اگر کوئی مطلب مادی ذہنوں سے دور ہے، اسے محسوسات کی مثال میں پیش فرمایا۔ اگر کوئی مطلب ملکوتی ہے اسے مشاہداتی دنیا میں لاکر پیش فرمایا۔ حتیٰ کہ سطحی ذہنوں کے لیے سطحی مثال پیش فرمائی۔ صاحبان عقل و خرد کے لیے ان کی سطح کی مثال پیش فرمائی۔ ہر طبقہ کے لیے اس کی فکری سطح کے مطابق مثال پیش فرمائی۔ یہاں تک کہ بعض دشمنان اسلام نے تو ان مثالوں کے سطحی ہونے پر اعتراض بھی کیا: مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا...! مچھر کی مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔

۲۔ وَلَكِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ: اگر آپ کوئی معجزہ پیش کرتے بھی ہیں تو یہ لوگ اس پر ایمان لانے کی جگہ اس معجزہ کو باطل کی کرشمہ سازی قرار دیتے ہیں۔ کبھی کذاب، کبھی ساحر، کبھی مجنون قرار دیتے ہیں۔
 ۳۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ: جو لوگ قرآنی امثال و آیات پر ایمان نہیں لاتے اور معجزات کو بھی باطل قرار دیتے ہیں، ایسے لاعلم، جاہل، ناقابل علاج لوگوں کو اللہ اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو ہدایت کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں اور دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْحَبَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾
 ۶۰۔ پس (اے نبی) آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو سبک نہ پائیں۔

تفسیر آیات

۱۔ فَاصْبِرْ: مشرکین کی طرف سے استعمال ہونے والے حربوں کے مقابلے میں صبر و استقامت جیسی الہی طاقت کے ساتھ مقابلہ کریں۔

۲۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ: اس صبر کے پیچھے آپ کے لیے پشت پناہ اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ آخر فتح و کامرانی آپ کی ہوگی۔ چنانچہ اسی سورہ کی آیت ۴۷ میں فرمایا:

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ○ اور مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے۔

۳۔ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ: آپ کو دشمن ایسا سبک نہ پائیں کہ آپ ان کی دھمکیوں، طعنوں اور تمسخروں سے بلا حوصلہ ہو جائیں بلکہ دشمن کی تمام تر سازشوں کے مقابلے آپ کے عزم و ارادے میں مزید مضبوطی آنی چاہیے۔ واضح رہے کہ یہ کوئی حکم تشریحی نہیں ہے بلکہ یہ امر تکوینی ہے جو حتماً وقوع پذیر ہوگا۔



خالی



سُورَةُ الْقِيَامَاتِ

خالی



اللَّهُمَّ الْحَمْدُ

اس سورۃ المبارکہ کا نام سورۃ لقمان ہے چونکہ اس میں لقمان کی حکمت کا ذکر ہے۔ بعض کے مطابق یہ سورۃ بعثت کے تیسرے سال نازل ہوا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعوت کا برملا اعلان فرمایا ہے۔

یہ سورۃ حجازیوں کے نزدیک ۳۳ آیات پر مشتمل ہے اور کوفی قرأت کے مطابق ۴۳ آیات ہیں۔ یہ قرأت علوی ہونے کی وجہ سے مستند ترین قرأت ہے۔

مضامین: اس سورۃ المبارکہ میں بعض اہم مباحث مذکور ہیں:

۱۔ لہو الحدیث کے عنوان سے حق کے مقابلے میں داستان سرائی اور غنا جیسی عظیم معصیت سے پرہیز کرنے کا حکم ہے۔

۲۔ لقمان کے نصائح میں چند ایک آداب و سلوک کی باتوں کا ذکر ہے۔ خصوصاً اونچی آواز میں بات کرنے کی ممانعت کا ذکر ہے۔

۳۔ اللہ کی ربوبیت اور مدبریت کے اثبات میں چند ایک دلائل کا ذکر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ الف، لام، میم۔

الْمَرَّةِ

۲۔ یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

۳۔ نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٢﴾

تفسیر آیات

۱۔ تِلْكَ آيَاتُ: تِلْكَ اس کتاب کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو حکمت بھری

ہے۔ حکمت کی تشریح پہلے بھی ہو گئی ہے کہ واقع بنی کو کہتے ہیں۔ حکیم وہ ہے جو واقع اور حقائق کی نشاندہی کرے۔ آیت کا مطلب یہ بنتا ہے: یہ حقائق تک رسائی دینے والی کتاب کی آیات ہیں۔

۲۔ هُدًى وَرَحْمَةً: جب یہ کتاب انسان کو حقائق تک رسائی دیتی ہے تو یہی ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی حق کی طرف جانے والا راستہ دکھانا۔ جب یہ دونوں کام ہو گئے تو رحمت الہی شامل حال ہونا قدرتی بات ہے۔

۳۔ لِلْمُحْسِنِينَ: اگرچہ یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے تاہم اس سے ہدایت لینے والوں کے ساتھ عملاً مختص ہو جاتی ہے۔ لہذا کبھی فرمایا: یہ تقویٰ والوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ کبھی فرمایا: یہ ایمان والوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس ہدایت کے لیے آمدگی صرف نیکی کرنے والوں میں پائی جاتی ہے۔

اہم نکات

۱۔ نیکی کرنے والے ہی ہدایت و رحمت کے اہل ہوتے ہیں: هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ ۝
أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

۴۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

۵۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

تفسیر آیات

المحسنین نیکی کرنے والوں کی تفصیل کا بیان ہے۔ اسے اجمال میں نہیں رکھا کہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ دین سے صرف نسبت قائم ہونے سے نیکی کرنے والا بن جاتا ہے۔ فرمایا: نیکی کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو عملاً اللہ کی بندگی کریں۔ نماز بندے کا اللہ کے ساتھ رابطہ بندگی کا نام ہے۔ یہ نہ ہو تو کوئی رابطہ نہیں رہتا اور زکوٰۃ بندگان خدا کے ساتھ رابطے کا نام ہے جو اللہ کی بندگی کا ایک اہم تقاضا ہے کہ آخرت پر ایمان۔ انسان کا اپنی زندگی پر ایمان ہے کہ یہ بے مقصد اور عبث نہیں ہے بلکہ ایک ابدی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ: ان مذکورہ اوصاف کے حامل لوگ ہی ہدایت پر ہیں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَهْوَ
الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ①

۶۔ اور انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ
کلام خریدتے ہیں تاکہ نادانی میں (لوگوں کو)
راہ خدا سے گمراہ کریں اور اس (راہ) کا مذاق
اڑائیں، ایسے لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے
والا عذاب ہوگا۔

شان نزول: اس آیت کے شان نزول میں روایت ہے:

نضر بن حارث تاجر تھا۔ فارس (ایران) کے علاقوں میں سفر کرتا تھا۔ وہاں کی داستانوں
پر مشتمل کتاب خرید کر لاتا، انہیں قریش والوں کو سنایا کرتا اور کہتا تھا: محمد تمہیں عاد و ثمود
کی داستانیں سناتا ہے اور میں تمہیں رستم و اسفندیار اور بادشاہوں کی داستانیں سناتا
ہوں۔ چنانچہ لوگ قرآن کی جگہ یہ داستانیں سنا کرتے تھے۔

تفسیر آیات

۱۔ نَهْوُ الْحَدِيثِ: لہو ان بیہودہ باتوں کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنی ضرورت کی باتوں سے باز
رکھے (المفردات)۔ الْحَدِيثِ: خبر، حکایت، کلام کو کہتے ہیں۔ نَهْوُ الْحَدِيثِ یعنی بیہودہ باتیں۔
اس آیت میں ان لوگوں کو ذلت آمیز عذاب کی خبر دی گئی جو بیہودہ باتوں کو خرید لاتے ہیں۔
يَشْتَرِي خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو مال دے کر نَهْوُ الْحَدِيثِ خریدتے ہیں، خرافات پر مشتمل
داستانیں خرید لاتے ہیں یا گلوکاروں کو معاوضہ دے کر لہویات پر مشتمل محافل جماتے ہیں یا کوئی ایسا عمل
انجام دیا جاتا ہے جس سے وہ ان بیہودہ گویوں کو بلاتے ہیں۔
نَهْوُ الْحَدِيثِ کا ایک مصداق وہ داستانیں ہیں جن سے کلام اللہ سننے سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں۔

نَهْوُ الْحَدِيثِ کا دوسرا اہم مصداق غنا ہے۔

غنا کی تعریف: الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو و الباطل۔ وہ اتار چڑھاؤ والی
آواز جو لہو اور باطل کے طور پر نکالی جاتی ہے۔ دوسری تعریف یہ کی گئی ہے: وہ آواز جو اہل لہو و لعب کے
ہاں معمول ہے۔ جیسے فلمی گانے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ
النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ۲

غنا وہ ہے جس پر اللہ نے جہنم کی سزا رکھی ہے۔ پھر
امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا: غنا بھی کُھو الحَدِيثِ میں شامل ہے۔ حضرت امام رضا عليه السلام سے بھی یہی مروی ہے۔

ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا:

الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ۔^۱
غنا نفاق کی آماجگاہ ہے۔

۲۔ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: ان بیہودہ باتوں کو خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو راہ خدا سے منحرف کر کے گمراہ کیا جائے۔ یہاں سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سَبِيلِ اللَّهِ سے مراد قرآن ہے۔ بیہودہ گوئی رائج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے۔

۳۔ بِغَيْرِ عِلْمٍ: گمراہ کرنے والوں کا کسی علم کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا بلکہ گمراہی اور جہالت باہم

مترادف ہیں۔

۴۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا: بیہودہ باتوں کا دوسرا مقصد راہ خدا سے تمسخر کرنا ہے کہ وہ بیہودہ باتیں سنا کر آیات الہی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا میں ضمیر سبیل کی طرف ہے۔ سبیل مؤنث مذکر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ (التبيان)

اہم نکات

۱۔ جو بات بھی قرآن کے مقابلے میں آئے وہ کُھو الحَدِيثِ ہے۔

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلِيٰ
مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ
فِي أذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بِعَذَابِ
الْآلِيمِ ۝

۱۔ اور جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کے ساتھ اس طرح منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں، پس اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔

تفسیر آیات

۱۔ جو لوگ کُھو الحَدِيثِ یعنی غنا جیسے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں اگر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو وہ بڑی نخوت و تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں۔ (صدق اللہ)

۲۔ كَأَنَّ لَمْ يَسْمَعْهَا: ایسی بے اعتنائی اختیار کرتے ہیں کہ جیسے کسی کلام کو سنا ہی نہیں ہے۔ گویا

اس کے پاس قوت سماعت ہے ہی نہیں۔

۳۔ فَبَشِّرْهُ: اس کو دردناک عذاب کی بشارت دو۔ عذاب اور بشارت!! اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ تمسخرانہ لہجے میں بات کرتا ہے۔ اسے دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو۔

اہم نکات

- ۱۔ لَّهُوَ الْحَدِيثُ یعنی غنا پر جہنم کی سزا ہے۔
- ۲۔ آیات قرآنی کو ناپسند کرنا دردناک عذاب کو دعوت دینا ہے۔

۸۔ جولوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال انجام دیں
 ان کے لیے نعمت والے باغات ہوں گے،
 ۹۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے
 اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔

تفسیر آیات

- ۱۔ بیہودہ گولگوں کے مقابلے میں اہل ایمان ہیں جو عمل صالح سے اپنے ایمان کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کے لیے جنت کی نعمتوں کی فراوانی ہے۔ یہ فراوانی ابدی ہوگی۔
- ۲۔ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا: یہ اللہ کا وہ وعدہ برحق ہے جس کی کسی عذر کی وجہ سے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی چونکہ وعدہ کرنے والا عزیز ہے، بالا دست، غالب آنے والا ہے۔ کسی غلط فہمی کی بنا پر وعدہ نہیں فرمایا۔ وہ حکیم ہے۔

۱۰۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگانہ جائے اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس (زمین) میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگائے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِعَدْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
 وَالْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ
 تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ
 دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
 كَرِيمٍ ⑩

تشریح کلمات

تَمِيذٌ بِكُمْ: (م ی د) زمین کی طرح کسی بڑی چیز کا مضطر ہونا۔
 بَثٌّ: (ب ث ث) کے معنی کسی چیز کو متفرق اور پراگندہ کرنا کے ہیں۔
 كَرِيمٌ: (ك ر م) الکریم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی ہم نوع چیزوں میں سب سے زیادہ قابل ستائش ہو۔

تفسیر آیات

۱۔ حَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا: آیت کے اس جملے کی تشریح کے لیے سورہ طہ آیت ۲ کی طرف رجوع فرمائیں۔
 ۲۔ وَالْأَفْئِدَةُ فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِي: آیت کے اس جملے کی تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ نحل آیت ۱۵ اور سورہ الانبیاء آیت ۳۱، سورہ نباہ آیت ۷۔
 ۳۔ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ: اس جملے کی تشریح کے لیے سورہ بقرہ آیت ۱۶۴ ملاحظہ کریں۔
 ۴۔ فَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ: زوج کریم یعنی نفیس جوڑے۔ اس سلسلے میں اب تک جو حقیقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے: ہر نبات نر و مادہ خلیوں پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں یا تو کبھی ایک پھول میں ہوتے ہیں اور کبھی ایک میں نر دوسرے میں مادہ۔ کبھی ایک شاخ میں نر دوسری شاخ میں مادہ۔ کبھی ایک درخت میں نر دوسرے درخت میں مادہ ہوتے ہیں۔ جب تک کسی ذریعے سے ان دونوں میں ملاپ نہ ہو وہ درخت پھل نہیں دیتا۔

هُذَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ۱۱۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ اللہ
 الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۱۲۔ بَلِ الظَّالِمُونَ
 فِي صَلَاتٍ مُّبِينٍ ①
 لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ: آسمانوں کو نامرئی ستونوں پر قائم اور پہاڑوں کے ذریعے زمین کو ڈولنے سے محفوظ رکھنا، زمین کو ہر قسم کے جانداروں کے لیے قابل سکونت بنانا، بارش کے ذریعے اس زمین کو زمین والوں کے لیے سرسبز بنا دینا، یہ سب اللہ کی تخلیق و تدبیر ہے۔
 ۲۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ: اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں کے تخلیقی و تدبیری کارنامے

دکھاؤ۔ ان تخلیقی امور میں ان معبودوں کا کوئی دخل ہے کہ اللہ کے شریک ہو جائیں؟ یا ان کے تخلیقی کارنامے الگ ہیں؟ جب سب مانتے ہیں کہ پیدا تو صرف اللہ کرتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ پھر تدبیر بھی صرف اللہ کرتا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ خلق کوئی کرے، تدبیر کوئی اور کرے۔ جب خلق و تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟

اہم نکات

۱۔ کائناتی تخلیق کی کیفیت میں تدبیر پنہاں ہے۔ لہذا خلق و تدبیر قابل تفریق نہیں ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ
اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا
يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝۱۲

۱۲۔ اور تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا کہ اللہ کا شکر کریں اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے (فائدے کے) لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ یقیناً بے نیاز، لائق ستائش ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ لقمان کے بارے میں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ ایک عبد صالح اور حکیم تھے۔ بعض روایات کے مطابق حبشی اور سیاہ قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض کے نزدیک ان کا تعلق مصر سے تھا اور بعض کہتے ہیں ان کا تعلق قوم عاد سے تھا جو حضرت ہودؑ کے ساتھ بچ نکلنے والوں میں شامل تھے۔ عرب لوگ لقمان کی حکمت کے معترف تھے اس لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ توحید کا عقیدہ کوئی نئی فکر نہیں بلکہ قدیم ایام سے لقمان حکیم بھی توحید کے عقیدے کے داعی تھے۔

۲۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ: ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا۔ حقائق کے ادراک کی سمجھ دی جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے علم و حکمت کی باتیں بیان کرتے تھے۔

۳۔ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ: یہ بات ان کو سمجھا دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر خدا حکمت کے مصادیق میں سب سے پہلا مصداق ہے۔ دنیائے حقیقت میں سب سے اہم حقیقت ہے۔ نعمت اور نعمت دہندہ کی قدر دانی کرنا بہت بلند اقدار کا مالک ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے مقام شکر پر کا حقہ فائز ہونے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ۝۱۳

میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔

۴۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ: شکرگزاری ایک نعمت، ایک درجہ ہے۔ ایک اہم مقام ہے جس پر فائز ہونے والا خود خوش قسمت ہے۔ اس شکرگزاری کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ خدا کسی بندے کی شکرگزاری کا محتاج نہیں ہے۔

۵۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ: جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی نہیں کرتے وہ خود کو انسان اور عبد ہونے کے مقام اور پھر قدر دانی کی قدروں سے محروم کرتے ہیں۔ اللہ کی عظمت میں فرق نہیں آتا۔
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳﴾
۱۳۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: اے بیٹا! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: واقع بین حکیم لقمان اپنی حکمت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی حکمت کا آغاز اپنے فرزند کی تربیت و تعلیم سے کرتے ہیں۔ اس سے ہم بجا طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ والدین پر سب سے پہلی ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے۔
۲۔ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ: اس تربیت میں سب سے پہلی بات توحید ہے۔ چنانچہ حکمت کا تقاضا بھی توحید اور نفی شرک ہے۔

۳۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ: شرک کا مرتکب اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے دائرے سے خارج کرتا اور ایک ناچیز کو رب العالمین کے مقابلے لاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا زیادتی ہو سکتی ہے۔

اہم نکات

۱۔ شرک باللہ عظیم ظلم ہے۔

۳۸۸

۱۴۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سے کرا سے (پیٹ میں) اٹھایا اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت دو سال ہے (نصیحت یہ کہ) میرا شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی (شکر ادا کرو آخر میں) بازگشت میری طرف ہے۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَ
فِضْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَ
لِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿۱۴﴾

۱۵۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی بات نہ ماننا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا اور اس کی راہ کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تمہاری بازگشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾

تفسیر آیات

۱۔ اگر یہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے تو اللہ پر ان کو مقدم نہ کرنا۔ اگرچہ والدین اپنے عقیدے کے مطابق اپنے فرزند پر مہربانی کر کے یہ دباؤ ڈال رہے ہوں گے لیکن والدین کا موقف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کسی علم، کسی سند کی بنا پر نہیں ہے چونکہ شرک باللہ ایک امر عدی اور موہوم تصور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا اس جہالت کو اعتقاد میں نہ لاتے ہوئے والدین کی اس جاہلانہ خواہش کو پورا نہیں کرنا ہے۔

۲۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا: البتہ ان مشرک والدین کے ساتھ دنیوی زندگی کے معاملات میں اچھا برتاؤ کرو۔ مذہبی پہلو میں ان کی خواہش پوری نہ کر سکو تو انسانی پہلو میں فرق نہ آنے دینا۔ ان کے نظریے سے بیزاری کرو مگر ان کی ذات سے الفت و محبت برقرار رکھو۔

والدین خواہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، اسلام کے نزدیک احترام آدمیت اور مقام انسانیت میں پھر بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ عقیدے سے ہٹ کر عام انسان خصوصاً والدین کا ایک انسانی مقام ہے۔

۳۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ: اتباع ہمیشہ اس شخص کی ہوگی جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، جس کا رخ

اللہ کی طرف ہو۔

اہم نکات

۱۔ مشرک والدین کے بھی انسانی و اخلاقی حقوق ہوتے ہیں۔

۱۶۔ اے میرے بیٹے! اگر رائی کے دانے کے برابر

يَبِيحُ إِلَيْهَا أَنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ

بھی کوئی (اچھی یا بری) چیز کسی پتھر کے اندر یا

فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ آسمانوں میں یا زمین میں ہو تو اللہ سے یقیناً نکال
بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيْرٌ ⑩ لائے گا یقیناً اللہ بڑا باریک بین، خوب باخبر ہے۔

تشریح کلمات

خَرَدَلٍ: (خردل) رائی کا دانہ۔

تفسیر آیات

۱۔ اِيْتِيَا اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ: اے میرے بیٹے! اِنھَا انسان کے اعمال خیر ہوں یا شر۔ وہ
رائی کے دانے کے برابر تیری نظر میں حقیر اور ناچیز ہوں،
۲۔ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ: پھر وہ ناچیز کسی چٹان کے اندر پوشیدہ ہوں یا آسمانوں کے کسی کنارے میں
چھپے ہوئے ہوں یا زمین کی تہوں میں پوشیدہ ہوں،
۳۔ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ: اللہ انہیں نکال لائے گا۔ قیامت کے دن ان اعمال کو پیش کیا جائے گا اور تجھے
ان کا حساب دینا ہوگا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

اتقوا المحقرات من الذنوب فان لها طالبا لا يقولن احدكم اذنب واستغفر الله تعالى ان الله تعالى يقول: اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ...^۱
حقیر گناہوں سے پرہیز کرو چونکہ ان کا بھی کوئی طلبگار
موجود ہے۔ تم یہ نہ کہو: گناہ کرتا ہوں تو اللہ سے مغفرت
چاہوں گا۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے: اگر رائی کے دانے
کے برابر بھی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا۔

اہم نکات

۱۔ گناہ کو چھوٹا سمجھنا گناہ کبیرہ ہے۔

۱۷۔ اے میرے بیٹے! نماز قائم کرو اور نیکی کا
حکم دو اور بدی سے منع کرو اور جو مصیبت تجھے
پیش آئے اس پر صبر کرو، یہ معاملات میں عزم
راخ (کی علامت) ہے۔
يٰۤاَيُّهَا اَبْنٰى اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ
ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ⑪

تفسیر آیات

۱۔ اَيُّهَا أَقِمِ الصَّلَاةَ: حضرت لقمان انسانی بندگی اور سعادت سے مربوط اہم ترین امور کی نصیحت کر رہے ہیں۔ ان میں نماز کو ہر دور، ہر قوم اور ہر فرد کے لیے بنیادی کردار حاصل ہے اور انسانی شخصیت کی تعمیر میں بھی نماز کی متبادل کوئی چیز نہیں ہے۔

۲۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ: نیکی کو رواج دینے اور برائی کو دور کرنے میں کردار ادا کرنے سے معاشرہ پاک ہو جاتا ہے جس کی ہر معاشرے کو ضرورت ہے۔

۳۔ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ: حالات ہمیشہ انسان کے حق میں نہیں ہوا کرتے۔ نامساعد حالات میں صبر سے کام لینے والے مضبوط شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور صبر انسان کو شکست ناپذیر بناتا ہے۔ روایت کے مطابق اس جگہ صبر کا اشارہ امر بمعروف نہی از منکر کی راہ میں پیش آنے والی مشقت اور اذیت میں صبر سے کام لینے کی طرف ہے۔

۴۔ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ: مشقت اور اذیت کے موقع پر صبر سے کام لینا مضبوط ارادے کا مالک ہونے کی علامت ہے:

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو یہ معاملات میں عزم راسخ (کی علامت) ہے۔

عزم، نفس کی ایک طاقت و جرأت کا نام ہے۔ جس میں یہ طاقت موجود ہو، اس کے ارادے میں تزلزل نہیں آتا۔

اہم نکات

۱۔ صبر، عزم راسخ اور امر بمعروف و نہی از منکر ہر امت کی ضرورت ہے۔

۲۔ صبر، عزم راسخ اور مضبوط شخصیت کی علامت ہے۔

وَلَا تَصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا

تَمِّشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

۱۸۔ اور لوگوں سے (غرور و تکبر سے) رخ نہ

پھیرا کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو، اللہ کسی

اتر آنے والے خود پسند کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔

تشریح کلمات

تَصْعِرُ: (ص ع ر) تصعیر کے معنی ہیں تکبر کی وجہ سے گردن کو ٹیڑھا کرنا۔

مَرَحًا: (م ر ح) اس کے معنی ہیں بہت زیادہ اور شدت کی خوشی، جس میں انسان اترانے لگ جائے۔
مُخْتَالٍ: (خ ت ل) خود پسندی۔

تفسیر آیات

۱- وَلَا تَصْغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ: غرور تکبر سے لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرا کرو۔ چنانچہ کوئی اگر کسی کے ساتھ برادری و برابری کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو اس کی طرف متوجہ، روبرو ہو کر، اپنے مخاطب پر نگاہ مرکوز کر کے بات کرتا ہے لیکن تکبر شخص اگر کسی سے بات کرتا ہے یا اس کا آئنا سامنا ہوتا ہے تو چہرہ دوسری طرف کر دیتا ہے۔

۲- وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا: اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو۔ انسان کی چال اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ ہر قدم اس کی نفسیات کے مطالعہ کے ایک ورق کی حیثیت رکھتا ہے۔
تکبر و نخوت اور زمین پر اکڑ کر چلنا نفسیاتی بیماری کی علامت ہے۔ جس شخص کی شخصیت میں خلا ہو وہ اسے تکبر کے ذریعے پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

۳- إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ: اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو مُخْتَالٍ ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا خیال کرتا ہے۔ خود بین ہے اور ساتھ اس خیال اور واسے کا فخر و مباہات کے ذریعے اظہار بھی کرتا ہے۔

اہم نکات

۱- خود بینی اور تکبر شخصیت میں خلا ہونے کی علامت ہے۔

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۗ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝
۱۹- اور اپنی چال میں اعتدال رکھو اور اپنی آواز
چپی رکھ، یقیناً آوازوں میں سب سے بری گدھے
کی آواز ہوتی ہے۔

تفسیر آیات

۱- وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ: چال میں اعتدال مطلوب ہے۔ نہ اکڑ کر چلو، نہ ہی ایسی حقیرانہ چال چلو جو وقار کے خلاف ہو:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا... ۱
اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر (فروتنی سے) دبے پاؤں چلتے ہیں۔



چال میں اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی چال کو اس قدر حقیرانہ بھی نہ رکھے کہ اس سے اپنا وقار مجروح کرے۔ عزت نفس کا حفظ بھی واجب ہے اور نہ تکبرانہ چال چلے کہ دوسروں کو حقیر سمجھے۔ اعتدال یہ ہے کہ نہ اپنے آپ کو حقیر دکھائے، نہ دوسروں کو حقیر سمجھے۔

حدیث میں آیا ہے۔

سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن. ۱۔ تیز چلنے سے مؤمن کا وقار چلا جاتا ہے۔

۲۔ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ: اور آواز کو دھیمی رکھنا بھی تواضع اور شخصیت میں خلا نہ ہونے کی علامت ہے۔ اونچی آواز سے اعصاب پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آداب محفل کے بھی خلاف ہے۔

چنانچہ سورة الحجرات آیت ۲ میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

آواز اونچی کرنا بے ادبی ہونے اور رسول اللہ ﷺ کے وجود کو اعتنا میں نہ لانے کی وجہ سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے آخری وقت میں شور مچانے والوں سے آپ ﷺ نے فرمایا: قوموا عنی میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ ۲

خصوصاً گدھے کی آواز میں کراہت اس کے بے ہنگم ہونے کی وجہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر جانور آواز کے ذریعے اپنے مافی الضمیر کا اظہار کرتا ہے سوائے گدھے کے۔ اس کی آواز بلا وجہ ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

الْعَطْسَةُ الْقَبِيحَةُ. ۳ (بدترین آواز) بری طرح کی چھینک کی آواز ہے۔

مناسب یہ ہے کہ چھینک کے وقت دونوں ہاتھوں ناک پر رکھ کر آواز کو کنٹرول کیا جائے اور پاس بیٹھے ہوئے لوگ اس چھینک سے پھیلنے والے مضر اثرات سے محفوظ رہیں۔

اہم نکات

۱۔ قرآن راستہ چلنے اور آواز تک کے لیے آداب کی راہنمائی فراہم کرتا ہے۔

الْمُرْتَوُونَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ١٥

جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل کر دی ہیں اور (اس کے باوجود) کچھ لوگ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہدایت اور نہ کوئی روشن کتاب۔

تشریح کلمات

أَسْبَغَ: (س ب غ) اسباغ النعم پورا پورا انعام کرنا۔

تفسیر آیات

۱۔ اَلَمْ تَرَوْا اِنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ: اپنے گرد و پیش سے غافل انسان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا: اللہ کی ربوبیت کو چھوڑ کر واہموں کے پیچھے جانے والو! کیا تم نے کبھی اس بات کی طرف توجہ کی ہے کہ اللہ ہی نے تمہارے، تمہاری زندگی کی بقا و ارتقا اور ضروریات کی فراہمی کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے مسخر کیا ہے۔ مسخر کرنے والا اللہ ہے۔ اس تسخیر کی غرض و غایت تم ہو، تمہاری زندگی کی تدبیر ہے۔ آسمان میں موجود چیزوں کی تسخیر کا مطلب یہ ہے آسمان میں موجود سورج، چاند اور ستارے ہماری زندگی کے لیے ضروری سامان فراہم کرتے ہیں۔ صرف سورج اہل ارض کے لیے سال بھر کی ضرورت کی انرجی ایک منٹ میں فراہم کرتا ہے۔

اسی طرح زمین ایک مہرباں ماں کی طرح ہمیں اپنی گود میں پالتی ہے۔ اسی زمین کے سینے سے ہم گونا گوں غذا چوستے ہیں۔ ہم ناشکرے ہو سکتے ہیں لیکن اس زمین میں بخل نہیں ہے۔ وہ ہر وقت، ہر ایک کے لیے رنگ برنگ غذاؤں پر مشتمل دسترخوان بچھائے رکھتی ہے۔

۲۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ: اللہ ہی نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہو سکتی ہیں جو مشرکین کے لیے ظاہری ہیں۔ جیسے اعضائے بدن، صحت اور انسان کی بقا و ارتقا کے لیے ضروری سامان کی فراوانی اور باطنی نعمتوں سے مراد جیسے عقل و ارادہ، وجدانیات وغیرہ۔ کتنی ہی ایسی نعمتیں ہمارے وجود میں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔

۳۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ: ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی ربوبیت، اس کی وحدانیت کے خلاف بلا دلیل بحث کرتے ہیں۔ قرآن کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی موقف کے لیے خود موقف والے کے

پاس علم ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کسی ہدایت کنندہ کی طرف سے ہدایت ہونی چاہیے یا آسمانی کتابوں میں کسی کتاب کا حوالہ ہونا چاہیے۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل بھی نہ ہو اور صرف اندھی تقلید ہو تو وہ موقف قابل اعتنا نہیں ہے۔

اہم نکات

- ۱- اللہ نے اس ناشکرا انسان کی تدبیر زندگی کے لیے آسمانوں اور زمین پر مشتمل ایک بڑا دسترخوان بچھایا ہے۔
- ۲- کسی بھی موقف کے لیے اللہ کی طرف سے ہادی اور کتاب خدا کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی۔

۲۱- اور جب ان سے کہا جاتا ہے: جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں: ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، خواہ شیطان ان (کے بڑوں) کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ①

تفسیر آیات

۱- وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا: جب ان مشرکین کو الہی دستور پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے جس پر مَا أَنْزَلَ اللَّهُ جیسی مضبوط دلیل موجود ہے تو مشرکین اس دلیل کے مقابلے میں لادلیل پیش کرتے ہیں۔ اس سند کے مقابلے میں لاسند پیش کرتے اور کہتے ہیں ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کی سیرت کی اتباع کرنی ہے۔ آبا و اجداد کے پاس کوئی دلیل اور سند تو نہیں ہے۔ البتہ شیطان کی دعوت ان تک پہنچی ہے جو انہیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔

اہم نکات

- ۱- باطل عقیدہ نسلوں میں بھی اثر چھوڑتا ہے: مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا....

۲۲- اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط رسی

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوٰثِقِي ۱ وَالْحِ اَللّٰه عَاقِبَةُ ۲
الْاُمُوْر ۳
کو تھام لیا اور سب امور کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ: یعنی ذاتہ و نفسہ۔ وجہ سے ذات مراد لینا قرآنی اصطلاح میں ایک مسلم امر ہے۔ اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذات اللہ کی ملکیت ہے اور ملکیت مالک کے حوالے ہوتی ہے۔ اگر مالک کے علاوہ کسی دوسرے کے تصرفات میں دی جائے تو یہ انحراف اور بغاوت شمار ہوتی ہے۔

۲۔ وَهُوَ مُحْسِبٌ: مالک کے حوالے ہونے کے بعد ہر عمل مالک کی مرضی کے مطابق ہو تو یہ حوالے کرنا درست ثابت ہوگا اور مالک کے حوالے کرنے کے اثرات صرف عمل کی صورت میں مترتب ہوں گے۔

۳۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوٰثِقِي: وہ اثرات یہ ہیں کہ اس صورت میں نجات و فلاح کے لیے ایک مضبوط رسی اس کے ہاتھ میں آجائے گی جس کے بعد وہ ہر قسم کے انحراف سے محفوظ رہے گا۔ مضبوط رسی کو تھامنے کی تعبیر سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ نجات کا راستہ طوفانی آندھیوں سے گزرتا ہے۔ مضبوط رسی کے ساتھ متمسک نہ ہوں تو پھٹ جانے کا خطرہ ہے۔

۴۔ وَالْحِ اَللّٰه عَاقِبَةُ الْاُمُوْر: تمام معاملات کا انجام کار اللہ کی بارگاہ میں جا کر وعدہ الہی کے ساتھ رو برد ہونا ہے اور اپنی ابدی زندگی کی قسمت کا فیصلہ لینا ہے۔

فضیلت: الزہری نے انس بن مالک سے روایت کی ہے:

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰه حَضْرَتِ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ ؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے چونکہ وہ سب سے پہلے اللہ کے لیے خلوص ایمان کا مظاہرہ کرنے والے ہیں.... الی آخر الحدیث۔ (شواہد التنزیل ذیل آیت)

اہم نکات

۱۔ ایمان عمل کے ساتھ جفت ہوگا تو پھل ملے گا: وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰه وَهُوَ مُحْسِبٌ....

۲۳۔ اور جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو محزون نہ
وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ ۱
کریں انہیں پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے پھر ہم
اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا

عَمِلُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٣٧﴾
انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں یقیناً
اللہ ہر وہ بات خوب جانتا ہے جو سینوں میں ہے۔
۲۴۔ ہم انہیں (دنیا میں) تھوڑا مزہ لینے کا موقع
دیں گے پھر انہیں مجبور کر کے شدید عذاب کی
طرف لے آئیں گے۔
إِلَىٰ عَذَابٍ عَلِيمٍ ﴿٣٨﴾

تفسیر آیات

۱۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ: عالمین کے لیے رحمت ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کو
بڑا اشتیاق رہتا تھا کہ لوگ راہ راست پر آجائیں لیکن لوگ جب کفر پر ڈٹ جاتے تو اس مجسمہ رحمت کو بڑا
دکھ ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے کیوں محروم کر رہا ہے۔
۲۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دیتا ہے کہ یہ لوگ رحمت الہی کے اہل نہیں ہیں لہذا آپ محزون نہ ہوں۔
۳۔ اَلَيْسَ أَمْرٌ جَعَلَهُمْ: انہیں ہر حال میں میرے پاس پہنچنا اور اپنے برے اعمال کا سامنا کرنا ہے۔
اللہ ان کے خفیہ ارادوں سے واقف ہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
۴۔ نُمِتُّهُمْ قَلِيلًا: اللہ کا حکیمانہ فیصلہ ہے کہ مجرموں کو چند دن مہلت دی جاتی ہے پھر انہیں اپنی
سزائے عمل تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

اہم نکات

۱۔ رسول رحمت، کافروں کے ساتھ بھی ہمدردی رکھتے ہیں: فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ....

وَلَيْبَسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ ۗ
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
۲۵۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں: آسمانوں اور
زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ ضرور کہیں
گے: اللہ نے، الحمد لله بلکہ ان میں سے اکثر
لوگ نہیں جانتے۔

تفسیر آیات

۱۔ سوال خالق کا ہے اور اختلاف مدبر میں ہے چونکہ مشرکین بھی اللہ کو خالق مانتے تھے لیکن مدبر
نہیں مانتے تھے۔ یہاں اس آیت میں خالقیت کے اعتراف سے مدبریت کے اعتراف کا نتیجہ اخذ کیا جاتا

ہے کہ تخلیق و تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔

۲۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ: اس اعتراف پر اللہ کی حمد بجالانی چاہیے اور اس لیے بھی کہ ان پر حجت پوری ہوگئی۔ اس آیت کی تشریح سورہ عنکبوت آیت ۶۱ میں گزر چکی ہے۔

۳۔ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ: ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے کہ تخلیق ہی کے ذریعے تدبیر ہوتی ہے اور دوسرے لفظوں میں تدبیر، تخلیق مسلسل کا نام ہے۔

اہم نکات

۱۔ خالقیت کا اعتراف، ربوبیت و مدیریت کا اعتراف ہے: يَقُولُونَ اللَّهُ...۔

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۲۶﴾
۲۶۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی ملکیت ہے، وہ اللہ یقیناً بے نیاز، لائق ستائش ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ کل کائنات میں موجود تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ ان کا وجود و بقا اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جو ان تمام چیزوں کا مالک حقیقی ہے، کے ارادے کے بغیر ذرہ برابر کوئی چیز جنبش نہیں کر سکتی تو اللہ کے بغیر ان کی تدبیر کوئی اور کیسے کر سکتا ہے۔

۲۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ: کائنات کی ملکیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ کو اس کائنات کی ملکیت کی ضرورت ہے، جیسا کہ غیر اللہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اس چیز کی ضرورت کی بنا پر۔ اللہ مالک ہے بے نیازی کے ساتھ اور اس کائنات کے بغیر بھی وہ لائق حمد ستائش ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کائنات کا مالک بھی ہے اور کائنات سے بے نیاز بھی۔ دوسرے مالک اپنے مملوک کے محتاج ہیں لیکن اللہ اپنی بے نیازی کے ساتھ مالک ہے۔ یہی حقیقی مالک ہے۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۷﴾
۲۷۔ اور اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر کے ساتھ مزید سات سمندر مل (کر سیاہی بن) جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ: انسان کے مشاہداتی امور کی روشنی میں محسوساتی دنیا میں بسنے والوں کے لیے ایک مثال ہے کہ کلمات خدا یعنی کلمہ کن کے نتیجے میں وجود میں آنے والی موجودات کی ایک اجمالی فہرست تیار کرنا بھی روئے زمین پر موجود درختوں سے بننے والے قلموں اور سمندروں سے بننے والی سیاہیوں کے بس میں نہیں ہے خواہ اس سمندر کے ساتھ مزید سات سمندر مل جائیں کیونکہ محدود کے لیے لامحدود کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو خود سمندری موجودات کی فہرست تیار کرنے کے لیے بھی شاید ناکافی ہوگا۔

دوسرے لفظوں میں کلمات اللہ کی یہ تشریح ہو سکتی ہے: اللہ تعالیٰ کے کلمات، وہ ارادہ اور وہ تخلیق و ایجاد اور وہ فیوض ہیں جو ہمیشہ جاری رہتے ہیں: كَلَّمَ يَوْمَ فِي شَأْنٍ۔ لہٰذا وہ ہر روز ایک (نئی) کرشمہ سازی میں ہے۔ مثل مشہور ہے: لا انقطاع فی الفيض۔ اللہ تعالیٰ کا فیض منقطع نہیں ہو سکتا۔ فیض خدا ہمیشہ جاری اور لامحدود ہے۔ ان لامحدود کلمات کا احاطہ کرنا کسی محدود کے بس میں نہیں ہے خواہ وہ محدود کتنا ہی عظیم اور وسیع کیوں نہ ہو۔

سورہ کہف آیت ۱۰۹ میں بھی کلمات اللہ کی تشریح ہو چکی ہے۔

اہم نکات

۱۔ فیوض الہی، کلمات اللہ کا احاطہ ناممکن ہے: مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ....

۲۸۔ اللہ کے لیے تم سب کا پیدا کرنا پھر دوبارہ اٹھانا
 كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
 بَصِيرٌ ﴿۲۸﴾
 ایک جان (کے پیدا کرنے اور پھر اٹھانے) کی
 طرح ہے یقیناً اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ قریش کے مشرکین کے لیے یہ بات قابل فہم نہیں کہ اللہ ایک ہی گھڑی میں تمام مخلوقات کو دفعۃً کیسے پیدا کرے گا جب کہ دنیا میں تو ان کو ایک ایک کر کے پیدا کیا ہے۔ اس سطحی سوچ اور غلط فہمی کے ازالہ کے لیے فرمایا: اللہ کے ایک ارادے سے مخلوق وجود میں آ جاتی ہے خواہ وہ مخلوق ایک ہو یا ایک کھرب ہو۔ لہٰذا اللہ کے لیے خلق و اعادہ خلق، کثرت یا قلت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب یکساں طور پر آسان ہے۔ قلت

اور کثرت کا فرق اس کے لیے سامنے آتا ہے جو علل و اسباب کے ذرائع سے کوئی چیز بناتا ہے۔ ایک چیز بنانے کے لیے تھوڑے سامان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا فراہم کرنا آسان ہوتا ہے اور اگر بہت زیادہ تعداد میں بنانا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ سامان فراہم کرنا ہوتا ہے جو مشکل ہے۔

۲۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ: کثرت کی وجہ سے کسی کی شناخت میں اللہ کو کوئی دقت پیش نہیں آتی وہ ہر آواز اور ہر شکل کو پہچانتا ہے۔

اہم نکات

۱۔ اللہ کے لیے ہر کام یکساں ہے، آسان اور مشکل کا یہاں تصور نہیں ہے: كَنَفِيسٍ وَاحِدَةٍ...۔

۲۹۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے؟ سب ایک مقررہ وقت تک چل رہے ہیں اور تحقیق اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔

الْمَرْتَرَانِ اللَّهُ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۹﴾

تفسیر آیات

۱۔ الْمَرْتَرَانِ اللَّهُ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ: اس کائنات کی تدبیر کے سلسلے میں ایک شعبہ، دن رات کا ایک دوسرے میں داخل کرنے کے عمل کا ہے کہ مختلف موسموں میں رات کا کچھ حصہ دن میں اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کیا جاتا ہے جس سے مختلف موسم وجود میں آتے ہیں۔

۲۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ: اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کیا ہے جس سے انسان کی بقا و ارتقا کا سامان فراہم ہو۔

۳۔ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى: یہ شمس و قمر اپنی مقررہ مدت تک چل رہے ہیں۔ اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ مقررہ وقت تک یہ سب چلتے ہیں۔ اس کے بعد ابتدائی نقطے کی طرف واپس آتے ہیں دوسری تشریح یہ ہے کہ یہ شمس و قمر بھی اپنی ایک عمر رکھتے ہیں۔ یہ عمر عند اللہ معین ہے۔ اس وقت تک چلتے رہیں گے۔

اہم نکات

۱۔ شب و روز کا آنا جانا، گردش شمس و قمر کا تعلق تدبیر حیات سے ہے: الْمَرْتَرَانِ اللَّهُ...۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ
اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ⑤

۳۰۔ یہ اس لیے کہ اللہ (کی ذات) ہی برحق ہے اور اس کے سوا جنہیں وہ پکارتے ہیں سب باطل ہیں اور اللہ ہی برتر و بزرگ ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ: تدبیر کائنات سے متعلق مذکورہ حقائق کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مربوط ہونے اور غیر اللہ کا کوئی تعلق نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے اور جن غیر اللہ کو تم پکارتے ہو وہ باطل، واہم، خیالی چیز ہے۔ کسی شیء کے ثبوت، وجود اور نفس الامری حالت کو حق کہتے ہیں۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو علی الاطلاق حق ہے، بذات خود موجود ہے، دوسری تمام موجودات کی منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس کا وجود کسی اعتبار اور کسی شرط کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ جب کہ باقی موجودات اللہ کے وجود کا سایہ ہیں۔ غیر اللہ اگر ارادہ الہی کے ساتھ مربوط ہے تو اسے ایک وجود ظلی حاصل ہوگا، ورنہ وہ باطل اور نیستی محض ہے۔

اہم نکات

۱۔ اللہ کا وجود حق و حقیقت پر مبنی ہے باقی معبود خود ساختہ اور واہمہ ہیں: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ...

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ⑥

۳۱۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتی سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ: اللہ تعالیٰ کے تدبیری نظام میں سمندر کی افادیت کو تونے نہیں دیکھا کہ اس کا کیا کردار ہے۔ تجارتی کشتیاں اللہ کی نعمت ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کے لیے پانی کی پشت پر کیسے چلتی ہیں۔

۲۔ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ: اللہ کا یہ تدبیری معجزہ تم کو دکھایا جاتا ہے کہ پانی اپنے سے وزن میں کم چیزوں کو اپنی پشت پر اٹھا لیتا ہے جس سے انسان اپنی زندگی کی ضروریات دنیا کے ایک علاقے سے دوسرے علاقوں تک آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں۔

۳۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبّٰرٍ شٰكُوْرٍ: اس میں اللہ کی تدبیری نشانیاں ان لوگوں پر واضح ہو جاتی ہیں جو کسب معاش کے لیے سمندری سفر کی مشقت پر صبر کرتے ہیں۔ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو کشتیوں کی وجہ سے انہیں میسر آتی ہیں ورنہ دوسرے لوگ کشتیوں کی اس عظیم افادیت سے غافل رہتے ہیں۔

۳۲۔ اور جب ان پر (سمندر کی) موج سائبان کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ عقیدے کو اسی کے لیے خالص کر کے اللہ کو پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ اعتدال پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتا ہے جو بدعہد ناشکرا ہے۔

وَ اِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلُمِ
دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ
فَلَمَّا نَجَّوْهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ
مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيٰتِنَا اِلَّا
كُلُّ خَتّٰرٍ كَفُوْرٍ ﴿۳۲﴾

تشریح کلمات

خَتّٰرٍ: (خ ت ر) اصل میں غدار کو کہتے ہیں۔

تفسیر آیات

اس آیت کی تشریح سورہ عنکبوت آیت ۶۵ میں ہو چکی ہے کہ جب انسان کے دل و دماغ سے دنیاوی خواہشات کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور انسان کو صرف اپنی فطرت کے ساتھ سرگوشی کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس وقت اس کی فطرت کو اس کے خالق کے علاوہ کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔

۲۔ فَلَمَّا نَجَّوْهُمْ اِلَى الْبَرِّ: جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راہ راست پر قائم رہتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ خطرے اور امن دونوں حالتوں میں اپنی فطرت و ہدایت پر قائم رہتے ہیں۔

۳۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيٰتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتّٰرٍ كَفُوْرٍ: اور بدعہد، ناشکرے ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ فطرت کی طرف سے ان آیات کو قبول کرنے اور فطرت کے ساتھ عہد کرنے کے بعد جب حالت امن آجاتے ہیں تو یہ بدعہد ہو جاتے اور نجات کی نعمت کو فراموش کر دیتے ہیں۔

حدیث میں آیا ہے:

الایمان نصفان نصف فی الصبر و
نصف فی الشکر۔^۱
ایمان کے دو حصے ہیں: ایک حصہ صبر اور ایک حصہ شکر میں ہے۔

اہم نکات

۱۔ کبھی اضطراری حالت میں فطرت کو اپنے خالق کی طرف رجوع کرنے کا موقع مل جاتا ہے:
دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ....

۳۳۔ اے لوگو! اپنے پروردگار (کے غضب) سے
بچو اور اس دن کا خوف کرو جس دن نہ باپ
بیٹے کے اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے
گا، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے لہذا دنیا کی یہ زندگی
تمہیں دھوکہ نہ دے اور دھوکے باز تمہیں اللہ
کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشُوا
يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ
لَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ
شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا
تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا
يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

تفسیر آیات

۱۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ: گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت، ربوبیت اور اعادہ حیات پر قدرت کے
سلسلے میں دلائل و شواہد پیش کرنے کے بعد آخر میں تمام انسانوں کو چند باتوں کی طرف متوجہ فرمایا:
الف: اتَّقُوا رَبَّكُمُ: اپنے رب کے عدل پر مبنی فیصلہ سے بچو۔ یہ فیصلہ غضب الہی اور ابدی عذاب
پر مشتمل ہوگا۔

ب: وَاحْشُوا يَوْمًا: اور قیامت کے اس دن سے ڈرو۔ جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا حتیٰ
باپ بیٹا میں سے کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن صرف اپنا عمل کام آئے گا۔
ج: إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ: اللہ کی طرف سے وعدہ آخرت، مبنی برحق ہے۔ حساب، جنت اور جہنم کا
وعدہ بھی مبنی برحق ہے۔ رب کی عدالت سے بچنے اور روز قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے
لیے دو دشمنوں کی نشاندہی فرمائی:

۲۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا: پہلا دشمن دنیوی زندگی کی رعنائیاں ہیں جو انسان کو دھوکہ دیتی
ہیں کہ وہ اسی میں مگن رہتا ہے اور روز آخرت کو ایک حقیقت کے طور پر نہیں لیتا۔
۳۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ: دوسرا دشمن، دھوکے باز شیطان ہے۔ انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور
آخرت کو ایک واہمہ قرار دیتا ہے یا اس ابدی زندگی سے غافل کر دیتا ہے۔

اہم نکات

- ۱- تقویٰ اور خوفِ قیامت، آخرت کے لئے زادِ راہ ہے: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاحْشُوا...۔
- ۲- خواہشاتِ دنیا اور شیطانی فریبِ کاری، انسان کو قیامت سے غافل کر دیتی ہیں۔

۳۴- قیامت کا علم یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، یقیناً اللہ خوب جاننے والا، بڑا باخبر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

تفسیر آیات

۱- إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ: قیامت کب برپا ہوگی؟ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ نے اس راز سے کسی کو بھی واقف نہیں کیا ہے۔

۲- وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ: بارش بھی صرف اور صرف اللہ برساتا ہے۔ کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ وسیع و عریض سمندر خلق کرے۔ بخار اوپر کو اٹھائے۔ ہواؤں کے ذریعے اسے خشکی کی طرف چلائے اور بارش برسائے۔ فضا میں موجود بخارات سے استفادہ کر کے مصنوعی بارش کا نازل ہونا قدرت کے نظام سے استفادہ ہے۔ انسان کی اپنی ایجاد نہیں ہے۔

۲۰۵

۳- وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ: جو کچھ رحموں میں ہے صرف اللہ جانتا ہے۔ یہاں سوال کرتے ہیں کہ انسان بھی جاننے لگے ہیں کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے؟ لڑکا ہے یا لڑکی؟

جواب یہ ہے:

اول: انسان بچے کو اس کی تخلیق مکمل ہونے کے بعد جانتا ہے۔ بچے پیدا ہونے کے بعد تو سب جانتے ہیں لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ چار سولہ گریں جراثیم پھر میں سے کون سا جراثیم تخمِ مادر کے ساتھ جفت ہوا ہے اور کس خاصیت کا جراثیم ہے چونکہ چار سولہ گریں جراثیموں میں سے ہر ایک اپنی جدا خاصیت رکھتا ہے۔

ثانیاً: انسان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ جس لمحے جراثیم پھر، تخمِ مادر کے ساتھ جفت ہوا، باپ کی طرف

سے Y جفت ہوا کہ لڑکا ہو جائے یا X ہوا کہ لڑکی ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی خداداد صلاحیت سے جفت ہونے کے عمل کو خود انجام دے رہا ہے۔
 ثالثاً: انسان صرف بچے کے مادی وجود کو جانتا ہے اس کی غیر مادی خاصیتوں کو نہیں جانتا کہ کس خاصیت کا بچہ ہے۔ مزید تشریح کے لیے سورہ رعد آیت ۸ ملاحظہ فرمائیں۔
 ۴۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ: انسان کو اپنے ایک دن کے فاصلے پر ہونے والے واقعات و حادثات کا علم نہیں ہے۔

۵۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ: اس انسان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کا خاتمہ زمین کے کس خطے میں ہوگا۔ یہ ناداں انسان قیامت کے بارے میں جانتا چاہتا ہے۔

اہم نکات

- ۱۔ قیامت کا علم اللہ نے صرف اپنے ساتھ مخصوص کر رکھا: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَلْمُ السَّاعَةِ....
- ۲۔ انسان کا دائرہ علم نہایت محدود ہے: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ....



سُورَةُ السَّجْدَةِ

خالی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس سورہ کی ایک آیت میں سجدہ واجب ہونے وجہ سے اس سورہ کا نام السجدة ہو گیا۔ یہ سورہ بصری قرائت کے مطابق ۲۹ آیات اور کوئی قرائت کے مطابق تیس آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرائت باب مدینۃ العلم کے شاگردوں کی قرائت ہونے کے اعتبار سے معتبر ترین قرائت ہے جو قرائت عاصم مشہور ہے۔ یہ سورہ المبارکۃ مکہ میں نازل ہوئی۔ بعض کے مطابق صرف تین آیات ۱۸-۱۹-۲۰ مدنی ہیں۔ سورہ ہائے عزائم: شیعہ امامیہ کے نزدیک قرآن مجید کی چار سورتوں میں ایسی آیات ہیں جن کے پڑھنے اور سننے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہیں: سورہ السجدة کی پندرہویں آیت۔ سورہ حم السجدة کی آیت ۳۷، سورہ النجم کی آیت ۶۲ اور سورہ العلق کی آیت ۱۹۔

قرآن میں پندرہ مقامات پر آیہ سجده مذکور ہیں۔ شافعی کے نزدیک ان تمام آیتوں پر سجدہ کرنا مستحب ہے۔ ابوحنیفہ ان آیات پر سجدہ واجب سمجھتے ہیں۔

شیعہ امامیہ کے نزدیک اوپر مذکور چار سورتوں میں واجب، باقی سورتوں میں مستحب ہے۔ محمد بن مسلم اپنی ایک صحیح السند روایت میں کہتے ہیں:

میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا: ایک شخص سورہ عزائم (جہاں سجدہ واجب ہے) کی دوسرے کو تعلیم کرتا ہے اور آیہ سجده کی ایک ہی نشست میں بار بار تکرار کرتا ہے۔ فرمایا:

عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ كُلَّمَا سَمِعَهَا وَ شَاغِرٍ وَرَدَّ وَاجِبٌ هِيَ جَبَّ آيَةُ سَجْدَةٍ سَنَ، سَجْدَةٍ كَرَى
عَلَى الَّذِي يُعَلِّمُهُ أَنْ يَسْجُدَ۔ اور استاد پر بھی واجب ہے ہر بار سجدہ کرے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ الف، لام، میم۔

الْمَجِّدِ

تَنْزِيلِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ①
۲۔ ایسی کتاب کا نازل کرنا جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے (ہی ممکن) ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ: یعنی ہذا تنزیل۔ اس کتاب کی تنزیل رب العالمین کی طرف سے ہے۔ نزول قرآن کے وقت تبلیغ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مشرکین کی طرف سے تکذیب کی صورت میں پیش آ رہی تھی۔ اس وجہ سے اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے مسئلے کو بڑے اہتمام کے ساتھ صدر کلام میں پیش فرمایا ہے۔

۲۔ لَا رَيْبَ فِيهِ: اس کتاب کے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی تشریح سورہ بقرہ آیت ۲ میں ہو چکی ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَّهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ①
۳۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ (نہیں) بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا شاید وہ ہدایت حاصل کر لیں۔

تفسیر آیات

۱۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود محمد ﷺ نے تصنیف کر کے اللہ کی طرف نسبت دی۔ سورہ یونس آیت ۳۸ میں اس کا جواب دیا ہے:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ①
کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو (محمد نے) از خود بنایا ہے؟ کہہ دیجیے: اگر تم (اپنے الزام میں) سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک سورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جسے تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔

۲۔ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ: بلکہ یہ قرآن نبی برحق ہے۔ اس کی حقانیت پر خود قرآن شاہد ہے۔
۳۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَّهُمْ مِنْ نَذِيرٍ: تاکہ آپ ایسی قوم کی تنبیہ کریں جس کے پاس آپ سے پہلے تنبیہ کرنے والا نہیں آیا۔ وہ قوم کون سی قوم ہے جس کے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا؟ ظاہر

ہے رسول اللہ ﷺ کو جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اس قوم میں نبی مبعوث نہیں ہوئے۔ مَا آتَهُمْ
اس قوم کے پاس کوئی نذیر یعنی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا اگرچہ انبیاء ﷺ کا پیغام ان تک پہنچتا رہا۔ براہ راست
ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ سورہ یس آیت ۶ میں فرمایا:

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ... تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے باپ
دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی تھی۔

ان دو آیات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نبی آیا نہ ان کی
تنبیہ ہوئی۔

درست ہے کہ عربوں کی طرف صدیوں سے کوئی نبی نہیں آیا اور یہ بھی درست ہے ایک مدت سے
ان کی تنبیہ بھی نہیں ہوئی چونکہ کفر و شرک نے ان میں ایسا رواج پایا تھا کہ انبیاء ﷺ کی دعوت بھی ان تک نہیں
پہنچنے دی گئی۔ چنانچہ عرب کے لوگ عمرو الخزاعی کے زمانے تک ملت ابراہیمی پر قائم تھے۔ عمرو
الخزاعی نے ان میں بت پرستی کا رواج ڈالا۔ اس کے بعد ان میں نہ تنبیہ رہی، نہ تنبیہ کرنے والا۔
درج بالا بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آیت آیہ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ... کے
ساتھ متصادم نہیں ہے۔ چونکہ کوئی امت کسی نبی کی دعوت کے بغیر نہیں رہی۔

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دعوت اور حجت خدا کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا۔ خواہ وہ براہ راست ہو یا کسی
وصی کے ذریعہ ہو۔ چنانچہ خود عرب مشرکین کے معاشرے میں ملت ابراہیمی کی بہت سی تعلیمات باقی رہیں
جیسے حج کے اکثر اعمال، چار مہینوں کی حرمت وغیرہ اور ان میں موحد لوگ بھی موجود رہے۔

اہم نکات

- ۱- کفار کے پاس منطق نہیں ہوتی الزام تراشی سے کام لیتے ہیں۔ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ...۔
- ۲- رسول کریم ﷺ ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے جو نذیر و نذارت سے محروم رہی:
مَا آتَهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ...۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

۴- اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر متمکن ہو گیا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ شفاعت کرنے

والا، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟

شَفِيعٌ ۱۰ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۱۰

تفسیر آیات

۱- اللَّهُ الَّذِي: آیت کے اس جملے کی تشریح سورہ اعراف آیت ۵۴ سورہ یونس آیت ۳، سورہ ہود آیت ۷ میں ہو گئی ہے۔

۲- ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ: اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیر کا نام ہے۔ اس لیے آسمانوں کی تخلیق کے بعد عرش کا ذکر آتا ہے اور ہمیشہ عرش کے ذکر کے بعد اللہ کی ولایت و حاکمیت اور شفاعت کا ذکر آتا ہے۔

اہم نکات

۱- آفاقی مطالعہ سے انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے: خَلَقَ السَّمَوَاتِ ... أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى ۵- وہ آسمان سے زمین تک امور کی تدبیر کرتا

الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرَجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ ۵ ہے پھر یہ امر ایک ایسے دن میں اللہ کی بارگاہ

كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا ۵ میں اوپر کی طرف جاتا ہے جس کی مقدار تمہارے

تَعُدُّونَ ۵ شمار کے مطابق ایک ہزار سال ہے۔

تفسیر آیات

۱- يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ: اللہ تعالیٰ کے عرش پر متمکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تدبیری حاکمیت پر متمکن ہوا۔ اللہ جس امر کے ذریعے تدبیر فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقام رفعت سے مخلوقات کی طرف نزول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بھی اہل ارض کی طرف آتی ہے اسے نزول سے تعبیر فرمایا ہے۔ جیسے وحی، کتاب وغیرہ۔ لہذا اس جگہ السَّمَاءِ سے مراد مقام والائے پروردگار ہے جہاں سے تدبیر امور نازل ہوتے ہیں۔

۲- ثُمَّ يُعْرَجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ: زمانہ مادی چیزوں میں ہر جگہ یکساں نہیں ہے جیسا کہ نظر یہ اضافت کے ہاں مسلم ہے لیکن جو چیز غیر مادی ہے وہ غیر زمانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانی نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے: كَانَ وَ لَمْ يَزَلْ حَيًّا بَلَا كَيْفٍ وَ لَمْ يَمُوتَ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ... ۱ کہ اس کے لیے ”تھا“ بھی نہ تھا۔

یعنی زمانہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے زمانی افعال کا ارضی زمانے کے ساتھ

موازنہ کیا جائے تو اللہ کا ایک روز، یہاں کے ہزار سال کے برابر ہو جائے۔ یہ صرف ایک مثال ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے امور زمان و زمانیات سے ماوراء ہیں۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے وقت اور زمانے میں امر الہی کا نزول و عروج ہوتا ہے کہ اگر ارضی زمانے کے مطابق یہ عروج و نزول انجام پائے تو ہزار سال لگ جائیں۔

اور ممکن ہے ”ہزار“ حد بندی کے لیے نہ ہو کثرت کی طرف اشارہ ہو۔ جیسے:

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعَدُّونَ ۝۱۰
اور آپ کے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہارے
ہزار برس کی طرح ہے، ایک مثال ہے، حد بندی نہیں ہے۔

يَعْرُجُ: يعرج الامر الى الله۔ یہ امر آسمان سے زمین کی طرف آنے کے بعد اللہ کی طرف اوپر جاتا ہے۔ یہ امر نزول کے بعد عروج کرتا ہے۔ بظاہر یہ عروج ایک ہزار سال کی مدت میں پورا ہوتا ہے: أَلَا أَلَيْسَ اللَّهُ تَصَدِيرُ الْأُمُورِ ۝۱۰ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف عروج سے کیا مراد ہے؟ صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو سکا۔ تقریباً تمام مفسرین کی تشریحات کا مطالعہ کیا لیکن لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ یہ مسئلہ میرے لیے حل نہ ہو سکا۔ ایک روایت کے مطابق ابن عباس نے بھی اس یوم کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا۔ ۳

اہم نکات

۱۔ تدبیر امور کا نزول و عروج اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، نہ غیر اللہ کے ہاتھ میں: يُدَبِّرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ

ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ ۶۔ وہی جو غیب و شہود کا جاننے والا ہے جو بڑا
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ①
غالب آنے والا، رحیم ہے۔

تفسیر آیات

وہ تدبیری امور کے نزول و عروج سے متعلق اسرار و رموز کا جاننے والا ہے۔ اسے معلوم ہے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ الْعَزِيزُ جو کرنا چاہیے اس کی انجام دہی کے لیے۔ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ الْعَزِيزُ غالب آنے والا ہے۔ الرَّحِيمُ جو کام بھی انجام دیتا ہے وہ اس رحمت کی بنیاد پر انجام دیتا ہے جو اللہ نے اپنے اوپر لازم گردانی ہے۔

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ۝
 ۷۔ جس نے ہر اس چیز کو جو اس نے بنائی بہترین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی۔
 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝
 ۸۔ پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کیا۔
 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝
 ۹۔ پھر اسے معتدل بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک دی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔

تفسیر آیات

۱۔ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ: اللہ نے جو خلق فرمایا، وہ بہترین خلق فرمایا۔ کسی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ہر مخلوق اپنی جگہ بہتر مخلوق ہے۔ ہر ایک کی تخلیق میں حکمت و مصلحت ہے:
 مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ... ۱۔ تو رحمن کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا۔
 اللہ نے مخلوقات کو عبث اور بے نظمی میں خلق نہیں فرمایا بلکہ ایک نظام کے تحت خلق فرمایا ہے:
 وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝ ۲۔ جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا۔

لہذا ہر چیز میں اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے۔ اگر شر آتا ہے تو بندے کی طرف سے آتا ہے۔ بندے نے اس خیر کو شر سے بدل دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کوئی بھی چیز مطلق شر اور خیر نہیں ہے بلکہ خیر و شرافتی و نسی ہیں۔ یہ انسان ہے جو خیر کو شر بناتا ہے۔

تلوار کی دھار کا تیز ہونا تلوار کا کمال ہے۔ اگر اس سے کسی مظلوم کا گلا کٹ جاتا ہے تو یہ تلوار کا نقص نہیں ہے، یہ انسان ہے جس نے تلوار کے کمال کو نقص میں بدل دیا۔ اسی طرح بچھو، سانپ، مگر مچھ وغیرہ میں اپنے تخلیقی اعتبار سے کوئی نقص نہیں ہے۔ ان کی خلقت میں موجود ہر چیز کی افادیت ہے۔ اگر کسی کو اس سے ضرر پہنچتا ہے تو یہ شخص کی نسبت سے شر ہے، یہ نسبت اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس کی ایک اور واضح مثال پانی ہے۔ پانی کی تخلیق میں مصلحت سب کو معلوم ہے اور اس پانی کا وافر ہونا بھی بہتر ہے لیکن اگر پانی کے طوفان کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ اس شخص کی نسبت شر ہے۔

۲۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ: انسانی تخلیق میں خاک کی عناصر ہی استعمال ہوئے ہیں اور یہ نہیں

معلوم ابتدائی خلیے (Cell) کو زندگی دینے کے لیے اسے کن مراحل میں گزارا گیا۔ تاہم یہ بات قرآنی نصوص کی روشنی میں واضح ہے۔ اس خلیے میں زندگی آنے سے پہلے یہ خاک کی گود میں پلتا رہا۔

۳۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ: انسان کی خلقت کی ابتدا تو مٹی سے ہوئی لیکن اس کی نسلوں کے تسلسل کو سُلَالَةٍ کے ذریعے جاری رکھا۔ یعنی طین سے ابتدا ہوئی۔ سُلَالَةٍ سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ سُلَالَةٍ نچوڑ کے معنوں میں ہے۔ اس کا بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے کہ انسانی تخلیق کی بنیاد تو ارضی عناصر، مٹی ہے لیکن اس مٹی سے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک خاص قسم کے پانی سے کام لیا گیا۔

۴۔ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ: حقیر بوند سے اس کائنات کی سب سے اہم مخلوق کی تخلیق ہوئی۔ چنانچہ اس جگہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

عَجِبْتُ لِابْنِ آدَمَ أَوْلَاهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ
حَيْفَةٌ وَ هُوَ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا وَ عَاءٌ لِلْغَائِطِ
مِمَّ يَتَكَبَّرُ۔^۱

مجھے اولاد آدم پر تعجب ہے کہ اس کی ابتداء ایک بوند ہے اور اس کی عاقبت بدبودار لاش ہے۔ درمیان میں فضلہ کے لیے ایک ظرف ہے۔ پھر تکبر کرتا ہے۔

۵۔ ثُمَّ سَوَّاهُ: پھر اسے متعادل بنایا۔ اس کے اعضا و جوارح بنائے۔ جب مادی اعتبار سے ایک معتدل حالت میں آگیا، پھر اسے زندگی کا بار امانت اٹھانے کے قابل بنا دیا۔

۶۔ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ: پھر اس میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی اور اس معتدل موجود میں اپنی امانت یعنی حیات ودیعت فرمائی۔ یہ بات اگرچہ مسلم ہے کہ مردہ مادے سے حیات پیدا نہیں ہوتی۔ حیات، حیات سے ہی پیدا ہو سکتی ہے تاہم حیات مادے کی گود میں پرورش پاتی ہے۔

مِنْ رُوحِهِ: قابل توجہ بات یہ ہے کہ انسان کے مادی وجود کو اللہ نے مَاءً مَّهِينٍ حقیر بوند سے تعبیر فرمایا اور بعد میں اس میں داخل ہونے والی روح کو اس قدر عزت دی کہ اسے اپنی طرف نسبت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ روح ہی انسان ہے۔ جسم اس کے لیے ایک طرف کی حیثیت رکھتا ہے جو پرانا ہونے پر بدلتا رہتا ہے۔

۷۔ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْبَصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ: حواس میں سماعت اور بصارت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اس لیے خصوصی طور پر ان دونوں کا ذکر فرمایا: الْأَفْئِدَةَ سے مراد عقل ہی ہو سکتی ہے جو ان سب میں اہم ترین ہے اور جس سے انسان دوسری مخلوقات پر فوقیت حاصل کرتا ہے۔

۸۔ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ: عدم شکر یہ ہے کہ ان اعضاء کو اللہ کی خوشنودی کی راہ میں استعمال نہیں کرتے۔

اہم نکات

- ۱۔ اللہ کی مخلوقات میں بہتری کا پہلو پیش نظر ہے: الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ....
- ۲۔ انسان کا مادی پہلو حقیر اور روحانی پہلو کی نسبت اللہ کی طرف ہے: مِنْ رُوحِهِ....

وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ
 ءَأَنَّا لِنُفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم
 ۱۰۔ اور وہ کہتے ہیں: جب ہم زمین میں ناپید ہو جائیں
 گے تو کیا ہم نئی خلقت میں آئیں گے؟ بلکہ یہ
 لوگ تو اپنے رب کے حضور جانے کے منکر ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ منکرین قیامت، معاد جسمانی کو قابل قبول نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ زمین میں گم شدہ اجزاء کو اللہ دوبارہ کیسے جمع کرے گا؟ ان مشرکین کو اس وقت یہ علم نہ تھا کہ صرف مرنے کے بعد نہیں بلکہ زندگی میں بھی اس انسان کے اجزاء فضا میں بکھرتے رہتے ہیں جو کبھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اجزاء کی صورت میں ایک درخت کا حصہ بن جاتے ہیں پھر اس درخت کے پھل میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ پھل ایک دوسرا انسان کھاتا ہے، اس طرح اس کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔

ان کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس دنیا کے دور و دراز علاقوں سے اٹھنے والے بادلوں کے پانی انسانی جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مختلف ملکوں سے آنے والی گندم، پھل دنیا بھر سے سمٹ کر آپ کے دسترخوان پر آ جاتے ہیں۔ جس سے آپ کا خون، نطفہ پھر آپ کا وجود بن جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
 أَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ
 مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱

۲۔ بَلْ هُمْ يَلْقَائِي رَبِّهِمْ كَفِرُونَ: وہ اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں۔ درحقیقت وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے اور اپنے گناہوں کا حساب دینے کے لیے حاضر نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے کے بے عمل لوگ عمل کی ضرورت کے قائل نہیں ہوتے۔

اہم نکات

۴۱۶

۱۔ انسان مرنے کے بعد زمین میں گم نہیں ہوتا۔ اجزاء بکھر جاتے ہیں، معدوم نہیں ہوتے: ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ...

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ
 الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 تُرْجَعُونَ ۝۱۱

۱۱۔ کہہ دیجیے: موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری رو میں قبض کرتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔

تفسیر آیات

موت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم زمین میں ناپید ہو جاؤ گے بلکہ موت یہ ہے کہ فرشتہ موت تمہارے پورے وجود کو وصول کرے گا۔ یعنی جس کو ”میں“، ”تم“ اور ”ہم“ کہا جاتا ہے وہ بغیر کسی کی بیشی کے اپنے فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ انسان کا مادی وجود، جسم تو دنیا میں بھی ہر چھ سال بعد مکمل طور پر بدلتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود انسان کی ”خودی“ نہیں بدلتی۔ انسانی جسم جن خلیوں پر مشتمل ہے ان خلیوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں۔ ہر روز انسان کے اربوں سیلز (cells) جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ ان کی جگہ خون تازہ خلیے تعمیر کرتا ہے۔ اس طرح ہر چھ سال بعد انسان کا پورا مادی وجود بدل جاتا ہے لیکن اس کی خودی نہیں بدلتی۔

اہم نکات

۱۔ انسان گم نہیں ہوتا، ملك الموت وصول کرتا ہے: يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ ...

۱۲۔ اور کاش! آپ وہ وقت دیکھ لیتے جب کافر اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے (اور کہ رہے ہوں گے) ہمارے پروردگار! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا پس ہمیں (ایک بار دنیا میں) واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل بجا لائیں کیونکہ ہمیں یقین آ گیا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ
نَاكِسَوُا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا
نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿۱۲﴾

تفسیر آیات

۱۔ آج یہ لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں لیکن کاش قیامت کے دن کی رسوائی کی حالت کا آپ مشاہدہ کرتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرگوں ہو کر کہیں گے:

۲۔ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا: جس قیامت کو ہم جھٹلایا کرتے تھے اس کو واقع ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ وَ سَمِعْنَا: ہم دنیا میں ہادیان برحق کی بات نہیں مانتے تھے اب ماننے کے لیے تیار ہیں۔

۳۔ فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا: ایک بات رہتی ہے وہ ہے عمل صالح جس کے بغیر یہاں قیامت میں نجات نہیں ہے۔ ہمیں ایک موقع اور دے دیں کہ ہم عمل صالح بجا لائیں۔ إِنَّا مُوقِنُونَ عمل صالح کے لیے جس یقین کی ضرورت تھی وہ بھی حاصل ہو گیا ہے لیکن انہیں یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔

اہم نکات

۱۔ آج کا جرم، کل کی رسوائی ہے: نَاكِسُوْا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىهَا
وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ ﴿۱۳﴾

۱۳۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت
دے دیتے لیکن میری طرف سے فیصلہ حتمی ہو
چکا ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے
ضرور بھردوں گا۔

تفسیر آیات

۱۔ اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ ہر شخص کو اس کی مطلوبہ ہدایت میسر آ جائے تو ایسا کر سکتا تھا مگر اس صورت میں وہ ہدایت اختیاری نہیں، جبری ہوتی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر اللہ کو جبری ہدایت قبول ہوتی تو سارا نظام خلقت بے مقصد ہوتا اور اس صورت میں سب کو بلا استحقاق جنت میں داخل کرنا ہوتا۔

۲۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ: لیکن یہ فیصلہ حتمی ہو چکا ہے کہ دوزخ کو جن و انس سے پر کروں گا۔ وہ اس طرح کہ جب جبری ایمان قبول نہیں اور انسان کو خود مختار چھوڑا گیا ہے تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لاتے۔ جو ایمان نہیں لاتے ان سے ہم جہنم کو پر کریں گے۔

اہم نکات

۱۔ ہدایت اختیار کی جاتی ہے مسلط نہیں کی جاتی: كَلَّ نَفْسٍ هُدًىهَا

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾

۱۴۔ پس اب اس بات کا ذائقہ چکھو کہ تم نے
اپنے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، ہم
نے بھی تمہیں فراموش کر دیا ہے اور اب تم اپنے ان
اعمال کی پاداش میں ہینگلی کا عذاب چکھتے رہو جو
تم کیا کرتے تھے۔

تفسیر آیات

۱۔ آج تمہیں اس بے اعتنائی کا مزہ چکھنا ہوگا جو اس روز کے بارے میں تم نے اختیار کر رکھی تھی۔
قیامت کے بارے میں ہماری طرف سے آنے والی پے در پے ہدایات سے بے اعتنائی برتنے کا لازمی نتیجہ یہ

ہوگا کہ آج تم سے بے اعتنائی برتی جائے گی۔ ہمارے بے اعتنائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ابدی عذاب چکھنا ہوگا۔
۲۔ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: یہ ابدی عذاب ہم سے نہیں، خود تمہارے برے اعمال کی طرف سے تمہیں مل رہا ہے۔

۱۵۔ ہماری آیات پر صرف وہ لوگ ایمان لاتے
ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۵﴾
ہیں جب انہیں یہ آیات سمجھا دی جاتی ہیں تو
سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی ثناء کے
ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

تفسیر آیات

۱۔ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْآيَاتِ: آیات الہی پر ایمان کے لیے وہ لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو نصیحت آشنا ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی ربوبیت کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں تو ان دلیلوں کے سامنے ان کے دل جھک جاتے ہیں اور ان دلیلوں کا ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے۔
۲۔ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ: دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی ربوبیت کو ان دلائل کی روشنی میں سمجھ جاتے ہیں۔ نتیجتاً اللہ کی تنزیہ کرتے اور اللہ کو ان تمام اوہام سے پاک قرار دیتے ہیں مشرکین جن کی نسبت اللہ کی طرف دیتے ہیں۔
۳۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ: ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں تکبر نہیں کرتے۔ اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں اپنی کسی حیثیت کے قائل نہیں ہوتے۔
واضح رہے اس آیت کی تلاوت پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔

اہم نکات

۱۔ آیات الہی کا اثر، سجدہ گزاروں پر ہوتا ہے: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْآيَاتِ....

۱۶۔ (رات کو) ان کے پہلو بستروں سے الگ
تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۱۶﴾
رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے
ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا
ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

تفسیر آیات

۱۔ تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ: ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔

روایات میں آیا ہے کہ وہ بستروں سے الگ ہوتے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سوتے نہیں ہیں۔ سونا اس جسم کی ایک ضرورت ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ رات کے ابتدائی حصے میں سوتے ہیں۔ جب رات کے دو حصے گزر جاتے ہیں تو یہ اٹھ جاتے ہیں اور عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز تہجد پڑھنے والوں کی طرف اشارہ ہے۔

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا: ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ خوف و امید کے درمیان ہوتے ہیں۔ وہ امید کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں اور خوف کی وجہ سے محرمات سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان میں بندگی کا سلیقہ موجود ہے اور ان میں یہ شعور ہے کہ اللہ کی بندگی خوف و امید کے درمیان میں ہوتی ہے۔ بے خونی میں بندگی ہوتی ہے اور نہ ناامیدی میں۔

وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ: ان کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ فیاض ہوتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ کی ایک حدیث میں مؤمن کے بیس اوصاف بیان فرماتے ہوئے فرمایا: رُحْبَانٌ بِاللَّيْلِ أُسْدٌ بِالنَّهَارِ...۔^۱ وہ رات کے عابد اور دن کے شیر ہوتے ہیں۔

اہم نکات

۱۔ رات کو عبادت کرنے والوں اور خوف و امید کے درمیان بندگی کرنے والوں پر ہی آیت الہی کا اثر ہوتا ہے: تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ ... يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ...

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ ۗ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{۱۵}

۱۷۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان پردہ غیب میں موجود ہے۔

تفسیر آیات

۱۔ جنت کی زندگی اور وہاں کی نعمتوں کا اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی نعمتوں کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں کی زندگی کا نظام وہ نہیں ہو گا جو یہاں ہے۔ ہم انسان صرف ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں

جن کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔ اگر ہم نے پانی کو نہ دیکھا ہوتا تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ پانی کیا چیز ہے۔ اس لیے جنت کی نعمتوں کے بارے میں روایت میں بھی یہی مطلب بیان ہوا ہے۔
رسول خدا ﷺ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین
میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ ثواب آمادہ کر
رات ولا اذن سمعت و لا خطر علی
رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے
قلب بشر... لے۔ سنا ہوگا، نہ کسی انسان کے دل نے تصور کیا ہوگا۔

۲- مَا أَخْفَى لَهُمْ: جو ان کے لیے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے پوشیدہ ہے کہ اس کا تصور نہیں
ہوسکتا۔ نہ اس کا وصف و بیان ہوسکتا ہے چونکہ ہمارا دنیوی ذہن ان چیزوں کو اپنے تصور میں نہیں لاسکتا۔
۳- مِّنْ قُوَّةٍ أَعْيَنَ: آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس سے مراد انتہائی مسرت ہے۔ کہتے ہیں خوشی کے
آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

ہر کار خیر کا ثواب قرآن میں بیان ہوا ہے سوائے تہجد کے۔ اس کے ثواب کی
عظمت کی وجہ سے اس کے ثواب کا ذکر نہیں فرمایا۔

۱۸- بھلا جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہوسکتا
فَاسِقًا ۙ لَا يَسْتَوُونَ ﴿۱۸﴾
ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

تفسیر آیات

مومن وہ ہے جو اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے اپنے مولا کی بندگی
کے دائرے میں رہنا۔ فاسق وہ ہے جو اس دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے
ترازو میں ان دونوں کا یکساں ہونا ممکن نہیں ہے۔

فضائل: اگرچہ یہ سورہ مکی ہے لیکن شیعہ سنی مصادر میں کثرت سے یہ روایت موجود ہے کہ یہ آیت
علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ولید بن عقبہ کے درمیان موازنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان روایات کی
روشنی میں آیت مدنی ہو جاتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور ولید بن عقبہ کے درمیان کسی بات میں تکرار ہوئی تو ولید بن عقبہ
نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا:

خاموش ہو جا تو ابھی بچہ ہے۔ میں تم سے زیادہ زبان اور نیزہ زنی میں تیز تر ہوں۔ تجھ سے زیادہ شجاع اور لشکر میں زیادہ نمایاں ہوں۔
حضرت علیؑ نے فرمایا:
خاموش ہو جا۔ تو تو فاسق ہے۔
اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ملاحظہ ہو: بغوی معالم التنزیل۔ نووی مراج لبید۔ ابن عطیہ المحرر۔ بغدادی لباب التاویل۔ ثعلبی الکشف و البیان۔ میدی کشف الاسرار۔ زمخشری: الکشاف۔ واحدی اسباب النزول۔ حسکانی شواہد التنزیل۔ ابن جوزی زاد المسیر۔ آلوسی روح البیان۔ قرطبی الجامع لاحکام القرآن۔ طبری جامع البیان۔ مظہری تفسیر مظہری۔ ابن کثیر تفسیر القرآن۔ سمرقندی بحر العلوم۔ اندلسی البحر المحیط۔ مقاتل التفسیر۔
اس روایت کی اسناد و طرق کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: حواشی تفسیر شواہد التنزیل مطبوعہ وزارت ارشاد اسلامی ایران۔

واضح رہے یہ ولید بن عقبہ ہے جس کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی:
إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا... ۱۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو۔
جب ولید کو بنی مصطلق کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا گیا تو اس نے رسول اللہ ﷺ کو یہ غلط خبر دی کہ بنی مصطلق مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے منکر ہیں۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ولید کو فاسق کہا ہے۔

ابن عبد البر نے کہا ہے:

قرآنی علوم کے حامل لوگوں میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ آیہ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ... ولید کے بارے میں نازل ہوئی۔ ۲۔

یہی ولید ہے کہ جب یہ کوفہ کا گورنر تھا تو شراب پی کر صبح کی نماز چار رکعت پڑھائی اور کہا: مزید پڑھاؤں اور محراب میں شراب کی الٹی کی۔

اسی ولید سے حضرت امام حسنؑ نے فرمایا:

کیف تشتم علیا وقد سماه الله مؤمنا
فی عشر آیات و سماك فاسقا۔ ۳۔
تو علی کو دشنام کیسے دے رہا ہے جبکہ علیؑ کو اللہ نے
دس آیات میں مؤمن اور تجھے فاسق کہا ہے۔

کرتے تھے۔

تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

تفسیر آیات

- ۱۔ اس آیت سے فسق کی نوعیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ فسق ایمان کے مقابلے میں کفر کی حد تک ہے۔ اسی لیے ایسے فاسقوں کے لیے جہنم کا عذاب ابدی ہے۔
- ۲۔ كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا: اس جملے سے معلوم ہوا کہ وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔
- ۳۔ وَقِيلَ لَهُمْ دُوقُوا: ان سے کہا جائے گا: آتش کا مزہ چکھو۔ اس میں عذاب کے ساتھ ان کی اہانت بھی ہے۔

وَلَنَذِيْقَنَّهِنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْيِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦﴾

۲۱۔ اور ہم انہیں بڑے عذاب کے علاوہ کمتر عذاب کا ذائقہ بھی ضرور چکھائیں گے شاید وہ باز آجائیں۔

تفسیر آیات

- ۱۔ الْعَذَابِ الْأَذْيِ: کمتر عذاب سے مراد دنیوی مصائب، بیماریاں اور نا کامیاں ہیں۔ اس کمتر عذاب اور محرومیوں سے انسانی ضمیر جھنجھوڑا اور وجدان کو بیدار کیا جاتا ہے۔ اس سے اگر قابل ہدایت ہے تو وہ راہ راست پر واپس آتا ہے: لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿١٧﴾

۲۲۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی نشانیاں سمجھا دی گئی ہوں پھر وہ ان سے منہ موڑ لے؟ ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔

تفسیر آیات

- جسے آیات و معجزات کے ذریعے حق کی بات سمجھا دی گئی ہو، اس پر حجت پوری ہوگئی ہو، جیسے قوم صالح، اس کے باوجود وہ ان معجزات کو تسلیم نہ کرے تو اللہ اس سے انتقام لیتا ہے۔
- انبیاء علیہم السلام ہر مطالبے پر معجزہ پیش نہیں کرتے کیونکہ اگر معجزات کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو اللہ فوری انتقام لیتا ہے۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آیات الہی یعنی معجزات کے ذریعے حق

واضح ہونے کے بعد انکار کیا جائے تو انتقام الہی کی نوبت آتی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ
فِي مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِهِ وَجَعَلْنَاهُ
هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾

۲۳۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے لہذا آپ اس (قرآن) کے ملنے میں کسی شبہے میں نہ رہیں اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت (کا ذریعہ) بنایا۔

تفسیر آیات

۱۔ فَلَا تَكُنْ فِي مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِهِ: یہ قرآن کا طرز خطاب ہے کہ جسے بہت زیادہ اہمیت دینا مقصود ہو وہاں خطاب براہ راست اپنے رسول سے ہوتا ہے اور بتانا دوسروں کو مقصود ہوتا ہے۔

لِّقَاءِهِ: میں ضمیر الكتاب کی طرف ہے اور لقاء، تلقی کے معنوں میں ہے۔ جیسے كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا میں ہے۔ یعنی ہم نے جیسے موسیٰ کو کتاب دی ہے آپ ﷺ کو بھی کتاب دی ہے۔ لہذا آپ کو اس کتاب ”قرآن“ کے ملنے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ کی بہت سی خصوصیات ملتی ہیں۔

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ
بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا
يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

۲۴۔ اور جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھے ہوئے تھے تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔

تفسیر آیات

ہر امت میں ایک جماعت کو امامت کا عہدہ صبر و یقین کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے صبر اور یقین کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے ہیں اور عصمت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد امامت کی منزل پر فائز ہو جاتے ہیں۔

امامت کے موضوع پر سورہ بقرہ آیت ۱۲۴، سورہ انبیاء آیت ۷۳ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے: یہ آیت نزلت فی ولد فاطمہ۔ فاطمہ علیہا السلام کی اولاد کے بارے میں نازل ہوئی۔ ملاحظہ ہو شواہد التنزیل ذیل آیت۔

۲۵۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے
درمیان ان باتوں کا فیصلہ سنا دے گا جن میں
یہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں۔
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۲۵﴾

تفسیر آیات

یہاں اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو کسی دلیل و سند پر مبنی نہ ہو بلکہ علم و سند کو پس پشت ڈال کر اختلاف کرتے ہیں:

تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس
کی ضد میں آ کر اختلاف کیا۔
فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ... ۱
اللہ قیامت کے دن ان اختلافات کا فیصلہ سنائے گا جو علم آنے کے بعد آپس کی ضد میں آ کر کیے ہیں۔

۲۶۔ کیا انہیں اس بات سے ہدایت نہیں ملی کہ
ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک
کر دیا ہے جن کی قیام گاہوں میں یہ لوگ چلتے
پھرتے ہیں، تحقیق اس میں نشانیاں ہیں، تو کیا
یہ لوگ سنتے نہیں؟
أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهَلَكْنَا مِنْ
قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي
مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۶﴾

تفسیر آیات

کیا ان مشرکوں کو اس بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی کہ انبیاء علیہم السلام کے منکرین قوم عاد، قوم ثمود
کے رہائشی مکانوں سے ان کا ہمیشہ شام جاتے ہوئے گزر رہتا ہے اور ان کی تباہی کا منظر دیکھتے جاتے ہیں۔
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ: ان قوموں کی تباہی میں انبیاء علیہم السلام کے برحق ہونے پر قطعی دلائل ہیں، اگر کسی
کے پاس ان دلائل کو سننے کی صلاحیت ہے۔

۲۷۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمینوں
کی طرف پانی روانہ کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی
پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے جانور بھی کھاتے
ہیں اور خود بھی، تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى
الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا
تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ
أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿۲۷﴾

تشریح کلمات

الْجُرْزُ: (ج ر ز) وہ زمین جس میں کچھ پیدا نہ ہوتا ہو۔ بحر زمین۔

تفسیر آیات

- ۱- أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ السُّوْقَ الْمَاءَ: اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور مربیت پر اس دلیل کا یہ لوگ مشاہدہ نہیں کرتے کہ ہم ہی پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہوا کے ذریعے غیر آباد زمینوں کی طرف چلاتے ہیں۔
- ۲- فَخُجِّجْ بِهِ زُرْعًا: اور ہم ہی اس پانی سے زمین میں روئیدگی پیدا کرتے اور لہلہاتے کھیت وجود میں لاتے ہیں۔ مختلف گھاس و سبزہ اگاتے ہیں جس سے انسان کے لیے ذریعہ معاش جانوروں کا چارہ بنتا ہے اور خود انسان کے لیے روزی پیدا ہوتی ہے۔
- ۳- أَفَلَا يُبْصِرُونَ: اس منظر کو روز دیکھتے ہو پھر بھی کہتے ہو کہ تمہاری زندگی کی تدبیر اور تمہاری معیشت کا انتظام اللہ کے علاوہ کوئی اور کرتا ہے۔

- وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۸﴾ اور یہ لوگ کہتے ہیں: اگر تم سچے ہو تو (بتاؤ) یہ فیصلہ کب ہوگا؟
- قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۲۹﴾ کہہ دیجیے: فیصلے کے دن کفار کو ان کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔

تفسیر آیات

- ۱- يَوْمَ الْفَتْحِ: سے مراد بعض نے یوم بدر اور بعض نے فتح مکہ اور بعض نے روز قیامت لیا ہے۔ اور جملہ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ کافروں کو اس دن ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا کو قرینہ قرار دیتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت ہے چونکہ دنیا میں تو ایمان فائدہ دیتا ہے۔
- یَوْمَ الْفَتْحِ سے مراد فتح مکہ لینے کی صورت میں بعض ایمان سے مراد امان لیتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ملنے والی امان انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی اور بعض یہ لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ قتل ہو گئے ہیں ان کے لیے ان کا ایمان فائدہ نہیں دیتا جیسا کہ فرعون کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہا تھا جب وہ غرق ہو رہا تھا۔

لفظ فتح قرآن مجید میں فتح و غلبہ کے معنوں میں کثرت سے استعمال ہوا ہے:
 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ... ۱۔ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہو۔
 فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا... ۲۔ پس تو ہی میرے اور ان کے درمیان حتمی فیصلہ فرما۔
 مسلمان جب مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم سہتے تھے تو اس وقت اللہ کی طرف سے ملنے والی فتح و
 نصرت اور غلبہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور قرآن بھی ہمیشہ انہیں گذشتہ اقوام کے انجام بد اور انبیاء علیہم السلام کی فتح
 و نصرت کی خبریں بھی اسی غرض سے سنا تا رہا ہے تو مشرکین مسلمانوں سے تمسخر کے طور پر کہا کرتے تھے: مَتَى
 هَذَا الْفَتْحِ - یہ فتح جس کی تم روز ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو کب آنے والی ہے؟ میں ہذا کا اشارہ اسی فتح
 کی طرف ہو سکتا ہے جس کا مسلمان ذکر کیا کرتے تھے۔ والعلم عند اللہ۔

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ
 مُنْتَظِرُونَ ۳۰۔ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں، یقیناً
 یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔

تفسیر آیات

- ۱۔ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ: کافروں کی طرف سے تکذیب و توہین اس قابل نہیں کہ ان چیزوں کو درخور
 اعتنا سمجھیں۔ فَاَعْرِضْ سے مراد ان کے عمل سے بے اعتنائی برتنا ہے۔
- ۲۔ وَانْتَظِرْ: اپنے رب کی طرف سے فتح و نصرت کا انتظار فرمائیں۔ یہ جملہ بھی ایک قرینہ ہے کہ
 يَوْمَ الْفَتْحِ سے مراد دنیوی فتح و نصرت ہے۔
- ۳۔ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ: یہ مشرکین بھی آپ کی ناکامی کا انتظار کر رہے ہیں یا یہ لوگ عذاب
 قیامت کے انتظار میں ہیں۔



۶۲	دل جھک جائے، نہ گردن _____	۳۷	دھوپ اور سایہ تدبیر الہی کے ستون _____
۶۴	رازق اور خالق ناقابل تفریق ہے _____	۳۸	لیل و نہار اور خواب بھی تدبیری ستون ہیں _____
۶۵	حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small> کا ذکر _____	۳۹	ہوا اور پانی کا تدبیری کردار _____
۶۷	حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small> اور فرعون روبرو _____		نسب اور دامادی (مرد وزن) کی تخلیق _____
	معجزہ عصا کا مظاہرہ، فرعون کی طرف _____	۴۱	بقائے حیات کی ضمانت ہے _____
۷۲	سے جادو کا الزام _____	۴۳	رب کا راستہ اختیار کرنا اجر رسالت ہے _____
۷۳	فرعون جادو گروں کو جمع کرتا ہے _____	۴۶	گردش لیل و نہار اللہ کی تدبیری نشانی ہے _____
	فرعون کے جادو گروں کا جادو ناکام ہو _____		اللہ کے بندے وقار سے چلتے ہیں اور _____
۷۴	جاتا ہے اور جادو گر ایمان لے آتے ہیں _____	۴۷	بدتہذیبوں سے نہیں الجھتے _____
	حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small> بنی اسرائیل کو لے کر _____		مؤمن اسراف اور بخل کے درمیان اعتدال _____
۷۶	مصر سے نکلتے ہیں اور فرعون تعاقب کرتا ہے _____	۴۹	میں رہتا ہے _____
	حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small> کے لیے سمندر شق ہوتا ہے _____		مؤمن شرک، ناحق قتل اور زنا کا _____
۷۹	اور فرعون اور فرعون غرق ہو جاتے ہیں _____	۵۰	مرکب نہیں ہوتا _____
	حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کے بت پرستی _____		مؤمن جھوٹی گواہی نہیں دیتا اور _____
۸۲	کی بیہودگی پر سوالات _____	۵۲	لغویات سے بچتا ہے _____
	حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کی طرف سے _____		اولاد و ازواج اور تقویٰ کے بارے _____
۸۳	اللہ کی ربوبیت پر شواہد کا ذکر _____	۵۳	میں مؤمن کی دعا _____
۸۵	دعائے ابراہیم <small>علیہ السلام</small> _____	۵۳	آیت ۷۴ کا اہل بیت کی شان میں نزول _____
	قیامت کے دن مال و اولاد فائد مند نہیں _____	۵۴	درج بالا اوصاف کے حامل مؤمن کا اجر _____
۸۸	ہوں گی مگر یہ کہ قلب سلیم لے کر آئے _____		دعوت حق مطلوب نہ ہوتا تو اللہ _____
	تقویٰ والوں کے لیے جنت نزدیک کی _____	۵۵	انسان کو اہمیت نہ دیتا _____
	جائے گی اور گمراہوں کے لیے جہنم _____		سورة الشعراء _____
۸۹	نمودار ہو جائے گی _____	۵۹	تعارف سورة _____
۹۰	جہنمی آپس میں لڑیں گے _____		لوگوں کے ایمان نہ لانے پر _____
	اہل بیت کی اپنے شیعوں کے لیے _____	۶۲	رسول کی دل جوئی _____
	شفاعت دیکھ دوسرے لوگ حسرت _____		ایمان وہ ہے جس کے سامنے _____
۹۴	کا اظہار کریں گے _____		

۱۲۴	اور اس کا جواب _____	۹۳	حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر _____
	رسول کے لیے مومنین کے ساتھ تواضع	۹۷	قوم عاد کا ذکر _____
۱۲۵	کا حکم _____	۱۰۲	حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر _____
	ساجدین میں نشست و برخاست کی		ناقہ صالح کی کونچیں کاٹنے پر
۱۲۷	تین تفسیروں کا ذکر _____	۱۰۵	عذاب کا نزول _____
	ان لوگوں کا ذکر جن پر شیاطین	۱۰۶	قوم لوط اور اس قوم کی ہم جنسی کا ذکر _____
۱۲۸	نازل ہوتے ہیں _____	۱۰۹	قوم لوط کی تباہی کا ذکر _____
۱۲۹	شاعروں کی پیروی کا ذکر _____		حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم ایکہ
۱۳۰	اہل ایمان شاعر کی تعریف _____	۱۱۲	کی تباہی کا ذکر _____
	سورة النمل		وحی، رسول کے قلب پر علم حضوری
۱۳۵	تعارف سورہ _____	۱۱۳	کے طور پر نازل ہوتی ہے _____
	قرآن کے اہم اوصاف کا ذکر _____		قرآنی تعلیمات کی صداقت کو بنی اسرائیل
۱۳۷	ایمان نہ لانے سے بصیرت	۱۱۵	کے علماء جانتے تھے _____
	ختم ہو جاتی ہے _____		کلام الہی میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ
۱۳۸	قرآن ذات حکیم و علیم کا عطیہ ہے _____	۱۱۹	یہ اللہ کا کلام ہے _____
۱۳۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر کی		رسول کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت
	طرف واپسی کا ذکر _____	۱۲۰	دینے کا حکم _____
۱۴۰	درخت کے ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام	۱۲۱	آیت کا شان نزول _____
	پر وحی کا نزول _____		دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام
	عصائے موسیٰ کو اٹھ دھے میں	۱۲۲	کی وصایت اور خلافت کا اعلان _____
۱۴۳	بدلنے کا معجزہ _____		حدیث دعوت ذوالعشیرہ کی
۱۴۴	ید بیضاء کا معجزہ _____	۱۲۳	مختلف عبارتوں کا ذکر _____
	معجزات سے یقین حاصل ہونے	۱۲۳	حدیث کی تحریف _____
۱۴۵	کے باوجود ایمان نہ لائے _____	۱۲۳	آیت کی تحریف _____
۱۴۵	حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کا ذکر _____		روایات تحریف۔ شیعہ اور غیر شیعہ
	حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہما السلام	۱۲۴	موقف میں نمایاں فرق _____
			خلافت علوی کے اعلان پر ایک اعتراض

۱۷۳	نے اس قوم کو تباہ کر دیا	۱۴۶	کے وارث بنے
۱۷۵	حضرت لوط <small>علیہ السلام</small> ۔ قوم لوط کی تباہی کا ذکر		آیت سے میراث
	معبود صرف اللہ ہونے کے	۱۴۷	حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا اثبات
۱۷۶	چند ایک شواہد کا ذکر		حضرت سلیمان <small>علیہ السلام</small> کے لیے جنات اور
	۱۔ آسمانوں اور زمین کا خالق ہونا	۱۵۱	پرندے مسخر تھے
۱۷۷	۲۔ اور پانی سے زمین کو شاداب کرنا	۱۵۳	حضرت سلیمان اور چیونٹی کا کلام
۱۷۸	۳۔ زمین میں وسائل زندگی فراہم کرنا	۱۵۵	حضرت سلیمان <small>علیہ السلام</small> کا ہد ہد کے ساتھ واقعہ
۱۷۹	۴۔ مضطرب الحال کی فریاد سننا	۱۵۷	ہد ہد کا ملک سبا کی خبر لانے کا ذکر
۱۷۹	۵۔ زمین میں انسانوں کو جانثیں کرنا		ہد ہد کا حضرت سلیمان <small>علیہ السلام</small> کا خط ملکہ سبا
۱۸۰	۶۔ سمندر اور خشکی میں راہنمائی کرنا	۱۵۸	کو پہنچانے کا ذکر
	۷۔ ہواؤں کو بارش اور		ملکہ سبا خط کے مضمون سے درباریوں
۱۸۰	رحمت خدا کی خوشخبری دینے والی بنانا	۱۵۹	کو آگاہ کرتی ہے
۱۸۱	۸۔ خلق اور اعادہ خلق کرنا		ملکہ درباریوں کی رائے طلب کرتی ہیں اور
۱۸۱	۹۔ آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرنا		درباری حضرت سلیمان <small>علیہ السلام</small> کا
۱۸۰	۱۰۔ آسمانوں اور زمین کی موجودات	۱۶۱	مقابلہ کرنے کی رائے دیتے ہیں
۱۸۲	کا علم غیب حاصل ہونا		ملکہ مقابلے کی رائے مسترد کرتی ہے
	مشرکین کی طرف سے دوسری	۱۶۲	اور لالچ کا ذریعہ استعمال کرتی ہے
۱۸۲	زندگی کا انکار اور اس کا جواب		حضرت سلیمان <small>علیہ السلام</small> لالچ میں آئے بغیر
	مشرکین کہتے تھے: ہم پر عذاب آنا ہے	۱۶۳	مقابلہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں
۱۸۵	تو کب آئے گا		کتاب کا علم رکھنے والا تخت بلقیس کو چشم
	عذاب آنے والا ہے۔ مہلت کافر کے لیے	۱۶۶	زدن میں پیش کرتا ہے
۱۸۶	عذاب اور مؤمن کے لیے رحمت ہے		ملکہ اپنے تخت کو تعمیر کے باوجود
	رسول سے فرمایا: آپ ناقابل ہدایت لوگوں	۱۶۷	پہچان لیتی ہے
۱۸۹	کی ہدایت نہیں کر سکتے		ملکہ سلیمان <small>علیہ السلام</small> کے دین میں داخل ہوتی ہے
	جب عذاب اٹل ہوگا تو دابة الارض	۱۶۹	حضرت صالح <small>علیہ السلام</small> اور قوم ثمود کا ذکر
۱۹۱	نکل آئے گا۔ دابة الارض کی تشریح		قوم ثمود نے حضرت صالح <small>علیہ السلام</small> کو شہید
	ہر امت سے ایک فوج کا		کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ

بعض مشرکین کا یہ خیال درست نہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو مشرکین یہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ فرمایا: مکہ جائیں امن ہے اس قسم کا خطرہ نہیں ہے _____ ۲۵۹	فرعون جہنم کی طرف راہنمائی کرنے والا رہنما بن گیا _____ ۲۳۹
اللہ رسول کے ذریعہ پیغام پہنچانے سے پہلے کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا _____ ۲۶۰	رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے آپ وہاں موجود تھے۔ یہ وحی نہ ہو تو کیسے ممکن ہوا؟ _____ ۲۴۱
اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسول کو علاقے کے مرکز (دارالحکومت) میں مبعوث فرماتا ہے _____ ۲۶۱	اگر ہم نبی نہ بھیجتے تو یہ لوگ ضرور کہتے کہ اگر کوئی بنی آتا تو ہم اس پر ایمان لے آتے _____ ۲۴۲
دنیا کی متاع حیات آخرت کے مقابلے میں ناچیز ہے _____ ۲۶۲	جب نبی ﷺ آئے تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی طرح معجزہ کیوں نہیں دکھاتے۔ جواب: کیا موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو لوگوں نے قبول کیا _____ ۲۴۳
مشرکین کے سرکردہ لوگ قیامت کے دن اپنے مریدوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے _____ ۲۶۲	کچھ اہل کتاب ایمان لے آئے ہیں ان کو دو گنا اجر ملے گا _____ ۲۴۷
دنیا کی زندگی کی کامیابی آخرت کی کامیابی کی علامت نہیں ہے _____ ۲۶۲	عدم ایمان ابوطالب پر آیت ۵۶ سے استدلال اور اس کا جواب _____ ۲۴۹
قیامت کے دن مشرکوں سے سوال ہوگا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو ان سے کوئی جواب نہیں بن پائے گا _____ ۲۶۵	عدم ایمان ابوطالب کی روایات کی رد _____ ۲۵۲
خلق کرنا اور برگزیدہ کرنا دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے _____ ۲۶۶	حدیث ضحصاح کی رد _____ ۲۵۳
اگر ہمیشہ رات رہے یا ہمیشہ دن رہے تو کون ہے جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دے؟ پس اللہ خالق اور مدبر ہے _____ ۲۶۸	ایمان ابوطالب علیہ السلام کے شواہد _____ ۲۵۴
قیامت کے دن ہر امت سے گواہ پیش کیا جائے گا _____ ۲۷۰	بستر رسول پر _____ ۲۵۵
قارون اور اس کی دولت کا ذکر _____ ۲۷۱	شامی راہب (بجیرہ) کا واقعہ _____ ۲۵۵
	عہد نامہ قریش کو دیکھ کھا جاتی ہے _____ ۲۵۶
	قریش کے لیے ابوطالب علیہ السلام کی وصیت _____ ۲۵۶
	ابوطالب علیہ السلام کے لیے استغفار _____ ۲۵۷
	ابوطالب علیہ السلام کے ایمان کا منکر جہنمی اور ان سے بغض رکھنے والا کافر ہے _____ ۲۵۸

۲۹۰	مجرم عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا _____ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم۔ البتہ اگر والدین شرک کرنے کا حکم دیں تو اطاعت نہیں کرنا ہے _____ ۲۹۳ آزمائش کا متحمل نہ ہونا ایمان نہ ہونے کی علامت ہے کافر لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں کفر اختیار کریں تو تمہارا گناہ ہمارے ذمے جبکہ کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا _____ ۲۹۵ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر _____ ۲۹۷ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر دنیا ہی میں خلق و اعادہ خلق کا منظر ہمیشہ انسان کے سامنے ہے سیر فی الارض سے اعادہ خلق قابل فہم ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم کو یہ جواب ملتا ہے کہ اسے جلا ڈالو _____ ۳۰۳ قبول حق کے لیے برادری بندش حائل ہوتی ہے _____ ۳۰۵ قوم ابراہیم علیہم السلام میں حضرت لوط علیہ السلام ایمان لاتے ہیں جو خود بھی پیغمبری کے درجے پر فائز تھے _____ ۳۰۵ نبوت اور کتاب صرف اولاد ابراہیم کو ملی ہے _____ ۳۰۶ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر _____ ۳۰۷ قوم لوط کی تباہی کا ذکر _____ ۳۰۸ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر _____ ۳۱۱ قوموں کی تباہی کا ذکر _____ ۳۱۲	دولت سے آخرت کو آباد کرنے اور ساتھ ضرورت کی معیشت محفوظ رکھنے کا حکم ہے۔ قارون کی طرح دولت کو اپنی مہارت کا نتیجہ قرار دینا نعمت الہی کا انکار ہے _____ ۲۷۳ جن کی نظر صرف دنیا تک محدود ہے وہ دولت مندوں کو قابل رشک سمجھتے ہیں _____ ۲۷۴ راز حیات کا علم رکھنے والے دولت مندوں کو قابل رشک نہیں سمجھتے _____ ۲۷۵ قارون اور اس کا گھر زمین میں دھنس جاتا ہے تو بات کھل جاتی ہے کہ دولت قابل رشک نہیں ہے _____ ۲۷۷ آخرت کی زندگی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دوسروں پر برتری نہیں چاہتے _____ ۲۷۸ نیکی کرنے والوں کو اس نیکی سے بہتر ثواب ملے گا جب کہ برائی کرنے والوں کو برائی کے برابر سزا ملے گی _____ ۲۷۹ مکہ میں فاتحانہ داخل ہونے کی نوید _____ ۲۸۰ قرآن کا نزول اللہ کی وہ رحمت ہے جو رسول سے کبھی جدا نہ ہوئی _____ ۲۸۱ معبود فنا پذیر نہیں ہوتا۔ حاکمیت صرف اللہ کے پاس ہے _____ ۲۸۳ سورة العنکبوت تعارف سورہ _____ ۲۸۷ صرف ایمان کا اظہار کافی نہیں آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے _____ ۲۸۹
-----	--	--

۳۴۰	روم کی شکست اور بعد میں فتح کی خبر	غیر خدا کی پرستش کرنے والے مکڑی کی تار کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں
۳۴۳	مشرکین کے لیے ایک اہم خبردار	نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے
۳۴۵	قیامت کے دن مشرکین کی حالت زار کا ذکر	اہل کتاب کے ساتھ بحث و مناظرہ احسن انداز سے کیا کرو۔ ہاں اگر وہ زیادتی کریں تو بالمشل جواب دینا ہوگا
۳۴۷	زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنا صرف اللہ کا کام	رسول اللہ نے انسان کی لکیروں کو کبھی پڑھا نہ لکھا ہے
۳۴۸	زوجین کو ایک دوسرے سے سکون اور محبت حاصل ہونا اللہ کی طرف سے تدبیر حیات کی نشانی ہے	قرآن رسول اللہ کا دائمی عظیم معجزہ ہے
۲۵۰	رنگ و زبان کا مختلف ہونا اور اللہ کی تدبیری نشانی ہے	مہلت دینا حکمت الہی کا اہل فیصلہ نہ ہوتا
۳۵۰	رات کا آرام اور دن کی جھانسی بھی اللہ کی تدبیری آیات ہیں	ان پر عذاب نازل ہو جاتا
۳۵۱	اللہ کل کائنات کا مالک ہے اور کل کائنات اللہ کے تابع فرمان ہے	دین کی خاطر وطن چھوڑنا واجب ہے
۳۵۳	کائنات میں اللہ تعالیٰ کی شان و صفات کی اعلیٰ مثالیں ہیں	ہر نفس کے لیے موت حتمی ہے
۳۵۴	انسان اپنے غلام کو شریک نہیں کرتا تو اللہ اپنی مخلوق کو کیسے شریک بنائے گا؟	ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمے ہے
۳۵۷	اللہ کا دین عین فطرت ہے	مشرکین مانتے ہیں آسمانوں اور زمین کا خالق، بنس و قمر کو مسخر کرنے والا، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے۔
۳۶۱	مشرک تکلیف کے وقت اللہ کو پکارتا ہے	تدبیر حیات کے بارے میں عقل سے کام کیوں نہیں لیتے
۳۶۳	آسائش میں اللہ کو بھول جاتا ہے	خطرہ جان کے وقت اللہ یاد آتا ہے
۳۶۳	ذوالقرنیٰ کا حق ادا کرنے کا حکم	حرم مکہ کو امن کی جگہ بنانا
۳۶۵	رزق و خلق اور موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے	ایک عظیم نعمت
	لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے	اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں
		سورۃ الروم
		تعارف سورۃ

۳۸۱	تعارف سورہ _____ قرآن نیکی کرنے والوں کی	۳۶۶	کرہ ارض فساد میں گھر جاتا ہے _____ اسلام، جو مضبوط ترین دین ہے
۳۸۲	ہدایت کرتا ہے _____	۳۶۷	پر قائم رہنے کا حکم _____ ہو انیں رحمت خدا کی بشارت لے کر چلتی ہیں اور کشتی بھی اللہ کی
۳۸۳	بیہودہ باتوں اور غنا سے گرا ہی پھیلتی ہے _____ اس بیہودہ گو کو قرآنی آیات سنائی جائیں	۳۶۹	تدبیر کا ایک نمونہ ہے _____ ہو انیں چلا کر اس سے بادل کی تشکیل کرنا پھر اس بادل کو آسمان میں پھیلانا پھر اسے گھٹا کر کے بارش برسانا صرف اللہ کا
۳۸۴	تو تکبر سے منہ موڑتا ہے _____ آسمانوں کو ستون کے بغیر تھامنے والا، پہاڑوں کی میخ کو بی کر کے زمین کو استقرار دینے والا تمہارا رب ہے یہ کائنات اللہ کی مخلوق ہے غیر خدا کی مخلوق کہاں ہے _____	۳۷۰	تدبیری عمل ہے _____ جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے _____
۳۸۷	حضرت لقمان کا ذکر _____ اللہ کے بعد والدین کے شکر گزار ہونے کا حکم _____	۳۷۱	اے رسول آپ ناقابل ہدایت کی ہدایت نہیں کر سکتے _____
۳۸۹	والدین اولاد کو مشرک بنانے کی کوشش کریں تو اطاعت نہ کرنے کا حکم لیکن انسانی پہلو کا احترام پھر بھی ضروری ہے _____	۳۷۲	انسان کو ایک ناتواں سیل سے طاقتور جواں بنانا اور طاقتور جواں سے ناتواں بوڑھا بنانا اللہ کی حاکمیت و ربوبیت کی دلیل ہے _____
۳۹۰	لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں _____ پہلی نصیحت: کوئی گناہ پوشیدہ نہیں رہے _____	۳۷۳	اس مدت کو جانتے ہوں گے _____ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خطاب کے تمام اسلوب اختیار کیے ہیں کسی معجزے پر یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں _____
۳۹۱	دوسری نصیحت: نماز قائم، امر بالمعروف، نہی از منکر، مصیبت پر صبر کرنا _____	۳۷۴	رسول کو صبر کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا حکم _____
۳۹۲	تیسری نصیحت: تکبر نہ کرنا _____	۳۷۶	کلمات اللہ کا احاطہ ناممکن ہے _____
۳۹۳	چوتھی نصیحت: تواضع کرنا _____		
۲۹۵	اللہ کی نعمتوں کا ذکر _____ ایمان عمل کے ساتھ جنت ہوگا تو پھل ملے گا _____		
۳۹۷	_____		
۴۰۰	_____		

سورہ لقمان

<p>مشرکین کہتے ہیں ہم جب زمین میں گم ہو جائیں کون اٹھائے گا _____ ۴۱۶</p> <p>اللہ فرماتا ہے تم گم نہیں ہوتے ملک الموت وصول کرتے ہیں _____ ۴۱۷</p> <p>مجرموں کی ندامت کا ذکر _____ ۴۱۷</p> <p>ہدایت اختیار کی جاتی ہے مسلط نہیں کی جاتی _____ ۴۱۸</p> <p>مؤمن کے اوصاف کا ذکر _____ ۴۱۹</p> <p>جنت کی نعمتیں دنیا میں ناقابل تصور ہے مؤمن اور فاسق برابر نہیں ہوتا (شان علی علیہ السلام) _____ ۴۲۱</p> <p>مؤمن اور فاسق کا انجام _____ ۴۲۳</p> <p>فتح کے بعد کا ایمان فائد مند نہیں ہے _____ ۴۲۷</p> <p>فتح کے انتظار کا حکم _____ ۴۲۸</p>	<p>اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی کام آسان، مشکل نہیں ہے ہر کام یکساں ہے _____ ۴۰۰</p> <p>شب و روز کا آنا جانا گردشِ شمس و قمر اللہ کی تدبیری آیات ہیں _____ ۴۰۱</p> <p>قیامت کے دن صرف تقویٰ کام آئے گا _____ ۴۰۴</p> <p>قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان کا علم نہایت محدود ہے _____ ۴۰۵</p> <p>سورة السجدة تعارف سورة _____ ۴۰۹</p> <p>اللہ نے ہر قوم تک اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اللہ کے مقام تدبیر کا نام ہے _____ ۴۱۲</p> <p>اللہ نے جو چیز بھی بنائی بہترین بنائی _____ ۴۱۴</p>
---	---

